

# علی حسین رضی اللہ عنہما

برصغیر کے مایہ ناز مؤرخ و محقق اور عالم الدین  
قاضی اطہر مبارکپوری کی لاجواب تصنیف

جس میں  
حضرت علیؑ - حسنؑ - حسینؑ - ابن زبیرؑ - معاویہؑ - اور یزیدؑ  
میں مسود اور یزید اللہ بن زبیرؑ و غیرہم کے معاملات و تقابیر  
صحت اور تاریخ اور ہوش کی گنگ اور مستور کتابوں سے روشنی ڈالی  
گئی ہے اور کتاب

خلافت معاویہ و یزید

کی شرح اور آئین خلافت میں جو ہرگز نہیں ملتی اور یہ کہ کارستانوں کو بے قابو  
کیا گیا ہے غرض میں کہیں سے اس کے خوف نے اپنے عقول متھرت کرتے کی  
ہوش میں ہے اس کی کتابوں سے گناہ و تقات اس غرض میں کہ گئے ہیں  
کہ گناہ ہمہ حال مستحکم و تقابیرت: تقابیر کے بارے میں مطہر ہو جائے۔

تتمیم

سید ابی اسحاق حسینیؑ

مترجم  
مکتبہ سید احمد شہید

لاہور، ۱۹۸۱ء

# علیٰ حسین رضی اللہ عنہما

ترجمہ کے ماہیہ نازم و محقق اور عالم الہدویں  
قاضی اظہار شریعہ کیپٹن کی اجراء تفسیر

صمدی سکینہ  
حدیث الملتیہ آبان ہفت نمبر ۸-۲۱

مقصد ثابت کرنا چاہا تھا اور جان بوجھ کر دوسری کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا ہے کہ ایک صحیح الفکر اور سلیم الطبع مسلمان کے لیے ان ہی سے مسلکِ حق کی طرف رہنمائی مل جاتی ہے اور کج فہم و کج دماغ کے لیے سب کچھ بیکار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جن بعض مباحث پر ہم نے اظہار خیال نہیں کیا ہے ان کو لے کر اس کتاب کے طرف دار بغلیں بجائیں اور ان کو لاجواب تخلیق بتائیں۔ مگر جس شخص کی اس قدر خیانتیں اجاگر ہو چکی ہوں، اس کی ایک بات بھی ماننے کے قابل نہیں رہ سکتی جب کہ ایک کتاب میں دو چارجہ اس طرح کی خیانت سے پوری کتاب مجروح ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی سطر بھی قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ اخبار میں تبصرہ کے زمانہ میں اس کی صرف ایک بحث "کتاب کا اصل ماخذ" پر چند لوگوں نے اپنے اپنے رنگ میں مؤلف کی تائید کی اور خود مؤلف نے راہ پا کر اس پر اپنا ایک مضمون شائع کرایا اور "ایک سنی اہل علم و اہل قلم عالم" کی اس گرفت کو کسی طرف سے ڈھیلی کرنے کی کوشش کی گئی، جو ہر اعتبار سے ناکام رہی، حالانکہ انتظار تھا کہ ہمارے تبصروں کا جواب اس کتاب کے سرگرم طرفداروں کی طرف سے شد و مد سے شروع ہو جائے گا، مگر ان کی سرد مہری سے اندازہ ہو گیا کہ ان کا مبلغِ علم و تحقیق کیا ہے اور ان کی طرف داری کی بنیاد کیسی ہے۔

اب جبکہ اس کتاب کا فتنہ نسبتاً سرد پڑ گیا ہے اور دماغوں کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہے ہمارا یہ تبصرہ خدا کرے قلبِ سلیم اور عقلِ مستقیم کے لیے مفید ثابت ہو۔ باقی رہے وہ لوگ جو سلفِ بیزاری کی بنیاد پر مشاجرات صحابہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے علم و تحقیق کی دوڑ اردو کی کتابوں اور اندرونی خواہشوں تک ہے وہ کسی طرح سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے حق میں توفیق کی دعا کرنی چاہیے۔



# علی حسین رضی اللہ عنہما

بزرگوار کے مایہ ناز موضح و محقق اور عالم دین  
قاضی اظہر مبارکپوری کی لاجواب تصنیف

جس میں

حضرات علیؑ - حسینؑ - حسنؑ - ابن زبیرؓ - معاویہؓ - اور یزیدؓ  
عمر بن سعد اور عبید اللہ بن زیاد و غیر ہم کے معاملات و قضایا پر  
حدیث اور تاریخ و رجال کی صحیح اور مستند کتابوں سے روشنی ڈالی  
گئی ہے اور کتاب

خلافت معاویہ و یزید

کی افترا پر دازیوں، غلط بیانیوں اور عبارتوں میں قطع و برید کی کارستانیوں کو بے نقاب  
کیا گیا ہے نیز جن کتابوں سے اس کے مولف نے اپنا غلط مقصد ثابت کرنے کی  
کوشش کی ہے ان ہی کتابوں سے صحیح واقعات اس طرح بیان کئے گئے ہیں  
کہ طرح سلیم اور عقل مستقیم ان تشاہرات و قضایا کے بارے میں مطمئن ہو جائے۔

تلخیص

سیدنا ابیہس الحسینی

حسینؑ

حیدرآباد لطیف آباد، پونٹ نمبر ۸-۸-۸۱

ناشر

مکتبہ سید احمد شہید

اردو بازار لاہور

اشاعت اول

شوال ۱۴۲۳ھ

دسمبر ۲۰۰۳ء

نام کتاب :	غیاث الدین
مصنف :	قاضی اطہر مبارک پوری
تفخیص :	سیکالہ نبیوں علیہ السلام
پیشکش :	سید احمد شہید اکیڈمی
مطبع :	اولمپیا آرٹ پریس لاہور
قیمت :	

# جمهرة أنساب العرب

لأبي محمد علي بن أحمد بن سعد بن حزم الأندلسي

٣٨٤ - ٤٥٦

محقق وتعليق

عبد السلام محمد سارون

يزيد

وكان قبيح الآثار في الإسلام ، قتل أهل المدينة ، وأفاضل الناس ، وثيقة الصحابة  
- رضى الله عنهم - يوم الحرة . في آخر دولته ، وقتل الحسين - رضى الله عنه -  
وأهل بيته في أول دولته ، وحاصر ابن الزبير - رضى الله عنه - في المسجد الحرام ،  
واستخف بجمرة الكعبة والإسلام ، فأماته الله في تلك الأيام ؛  
(صفر ١١٣)

دار المعارف بمصر

١٩٣٢ - ١٩٦٤

# فہرست

۱	عرض مؤلف
۴	اموی حکومت و خلافت
۱۸	سرسری جائزہ
۲۳	اسلامی تاریخ اور ائمہ علم و فن پر افتراء
۳۷	اس کتاب کا اصلی ماخذ
۴۰	جہالت و خیانت اور بددیانتی
۵۰	حضرت علیؑ اور ان کا دورِ خلافت
۵۴	حضرت شاہ ولی اللہؒ کی تصریحات
۵۸	علامہ ابن خلدونؒ کی تصریحات
۶۱	امام ابن تیمیہؒ کی تصریحات
۶۳	امام ابن عبدالبر اندلسیؒ کی تصریحات
۶۵	بیعت و خلافت کامل و مکمل تھی
۷۱	حضرات طلحہؓ و زبیرؓ و معاویہؓ اور اہل شام کا اقرار
۷۶	حضرت علیؑ پر پورا عالم اسلام مجمع تھا
۸۲	شامیوں کی شرارت اور حضرت معاویہؓ کی مجبوری
۸۵	صحابہ کرامؓ ان فتنوں سے الگ رہے
۸۸	حضرت علیؑ کا اپنی خلافت پر یلیغ تبصرہ
۸۹	ان محاربات میں اقرب الی الحق کون لوگ تھے
۹۱	حضرت علیؑ اور امام احمد بن حنبلؒ
۹۴	حضرت علیؑ اور قاضی ابوبکر بن عربیؒ
۹۸	حضرت حسینؑ اور ان کا مقام و موقف
۱۰۰	اقدام حسینؑ کی ضرورت کتاب و سنت کی روشنی میں
۱۰۷	یزید کے خلاف اقدام کی شدید ضرورت اور حضرت حسینؑ کا مقام
۱۱۳	امن و صلح کی کوشش اور اتمامِ حجت



۱۱۶	اعتراف و احترام
۱۱۹	امن و صلح خطرے میں
۱۲۳	حضرت محمد بن حنفیہؓ کا مشورہ
۱۲۷	حجۃ الاسلام صبر و ضبط
۱۳۱	یزید کی روش اور عام صحابہ اور جمہور امت کا موقف
۱۳۹	یزید اور اسکی ولی عہدی و امارت
۱۴۳	مؤلف کے خیالات
۱۴۵	حضرت حسینؓ کو گرانہ اور یزید کو بڑھانا
۱۴۹	حافظ ابن حجرؒ پر الزام
۱۵۱	علامہ ابن کثیرؒ پر الزامات
۱۵۸	کتاب فضل یزید کی حقیقت
۱۶۱	یزید کی ولی عہدی کی داستان
۱۶۵	ولی عہد بنانے کی وجہ
۱۶۷	یزید کی امارت و خلافت کس معنی میں تھی ؟
۱۷۱	تین المناک واقعات
۱۸۰	مؤلف اور اسکے نصرانی محققین کی تحقیق
۱۸۲	شمر کی رپورٹ
۱۸۷	حضرت ابن عمرؓ اور قتلتین حسینؓ
۱۸۹	راس الحسینؓ
۱۹۰	واقعہ حرہ مدینہ منورہ
۱۹۳	محاصرہ مکہ مکرمہ
۱۹۵	چند متفرق اور اہم مباحث
۱۹۵	قاتل حسینؓ عمر بن سعد
۲۰۸	صحابی بنانے کی کوشش
۲۱۲	صحیحین کی حدیث پر بیجا کلام
۲۱۵	حدیث غزوہ مدینہ قیصر اور یزید
۲۲۸	حدیث ملک عضوض

۲۳۳	حشر بن نباتہ کوئی
۲۳۶	حضرت سفینہ اور سعید بن جہان
۲۳۹	حضرت امام احمد بن حنبل اور حدیث سفینہ
۲۴۱	بخاری کی دو حدیثیں
۲۴۶	بارہ قریشی خلفاء
۲۴۸	جاہ طلی اور امارت کا شوق
۲۵۱	قرابتیں اور رشتہ داریاں
۲۵۳	حضرت حسینؑ کے ساتھ حسن سلوک
۲۵۶	ملکحات
۲۵۶	قاضی ابوبکر ابن عربی کی کتاب العواصم من القواصم
۲۷۲	مسلمانوں کے دو علمی اور ثقافتی اداروں کی رائے
۲۷۲	معارف دارالمصنفین اعظم گڑھ
۲۷۶	برہان ندوۃ المصنفین دہلی
۲۷۹	ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور
۲۸۲	حضرت مولانا محمد اویس ندوی
	شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا صحیح مسلک

## ضمیمہ

۲۸۹	حضرت مولانا محمد امجد الاسلام قاسمی	خلافت معاویہؓ و یزید ایک جائزہ
۳۰۶	مولانا ابوالمنصور شیخ احمد صاحب	کتاب خلافت معاویہ و یزید پر تبصرہ
۳۱۰	حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب	فیصلہ کن سوالات و جوابات
۳۱۳	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریا	فتنہ خارجیت
۳۱۷	حضرت مولانا مفتی ولی حسن نوکی	فاطمہ بنت رسول ﷺ کی توہین
۳۱۹	حکیم محمود احمد برکاتی	عباسی صاحب حقیقہ کیا تھے؟
۳۲۶	موسیٰ حسن صاحب	عباسی صاحب حضرت عثمانؓ کو خلیفہ ثالث بھی نہیں مانتے تھے
۳۲۷	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریا	حدیث غزوہ قسطنطنیہ اور مغفرت یزید
۳۵۳	حضرت مولانا عبد رزاق احمد قاسمی	کتاب خلافت معاویہ و یزید پر ایک طائرانہ نظر
۳۶۹	قاری محمد ضیاء الحق صاحب	یزید کا بر علماء اہلسنت دیوبند کی نظر میں
۳۱۸	سید لاکھنوی	حُب آل محمد ﷺ

## عرض مؤلف

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله واصحابه

اجمعين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا.

کتاب "خلافت معاویہ ویزید" صرف ایک چونکا دینے والی کتاب نہیں تھی بلکہ اس نے بہت سے عوام و خواص کو اسلاف کے اس مسلک حق سے بٹانے میں مدد کی جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور ان کے تشارجات کے بارے میں دین و ایمان کی روشنی میں مسلم ہے۔ شروع میں ذمہ دار علموں اور اداروں نے اس کتاب کی طرف توجہ نہ کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا زبر خوب پھیلا۔ راقم الحروف نے روزنامہ انقلاب بمبئی میں ۷ نومبر لغایت ۷ دسمبر ۱۹۵۹ء (۳ جمادی الاولیٰ لغایت ۱۶ جمادی الثانیہ ۱۳۷۹ھ) ۳۵ قسطوں میں اس کی اندرونی خرابیوں کو اجاگر کر کے صحیح باتیں بیان کرنے کی کوشش کی اور صرف ان ہی کتابوں تک دائرہ بحث و تبصرہ محدود رکھا جن سے اس کے مؤلف نے قطع و برید اور خیانت کر کے اپنا ذہنی مطلب نکال کر اسے تحقیق اور ریسرچ بنانا چاہا تھا، اب اسی کو حک و اضافہ کے ساتھ کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔

اس کتاب پر لکھنے کا شدید تقاضہ اس وقت ہوا جب کہ حضرت الاستاذ

مولانا سید محمد میاں صاحب ناظم جمعیت علماء ہند نے ایک مختصر مگر جامع تبصرہ میں اس کتاب کا پول کھول کر رکھ دیا۔ یہ ہماری کوشش گویا اسی متن کی شرح ہے۔ ہم نے صرف ان ہی چند کتابوں سے مدد لی ہے جن سے مؤلف نے خیانت کر کے اپنا ذاتی

علی حسین  
علی حسین  
علی حسین

برصغیر کے تالیف ناز و شوخ و محقق اور عالم دین  
قاضی اعظم پاکستان کی تصنیف

صیقل سکینہ  
حیدرآباد الخلیف آباد، پرنٹ نمبر ۸-۶۹



# علیٰ حسین رضی اللہ عنہما

بز صغیر کے مایہ ناز موضح و محقق اور عالم دین  
قاضی اطہر مبارکپوری کی اجواب تصنیف

جس میں

حضرات علیؑ - حسینؑ - حسنؑ - ابن زبیرؑ - معاویہؑ - اور یزیدؑ  
عمر بن سعد اور عبید اللہ بن زیاد و غیر ہم کے معاملات و قضایا پر  
حدیث اور تاریخ و رجال کی صحیح اور مستند کتابوں سے روشنی ڈالی  
گئی ہے اور کتاب

خلافت معاویہ و یزید

کی افتر پردازیوں، غلط بیانیوں اور عبارتوں میں قطع و برید کی کارستانیوں کو بے نقاب  
کیا گیا ہے نیز جن کتابوں سے اس کے مولف نے اپنا غلط مقصد ثابت کرنے کی  
کوشش کی ہے ان ہی کتابوں سے صحیح واقعات اس طرح بیان کئے گئے ہیں  
کہ طبع سلیم اور عقل مستقیم ان تشاہرات و قضایا کے بارے میں مطمئن ہو جائے۔

تخصیص

سیدنا ابی الحسن علیؑ

حلی سلیم

حیدرآباد لطیف آباد، پونٹ نمبر C1-A

ناشر

مکتبہ سید احمد شہید

اردو بازار لاہور

اشاعت اول

شوال ۱۴۲۴ھ

دسمبر ۲۰۰۳ء

غالب دین	:	نام کتاب
قاضی اطہر مبارک پوری	:	مصنف
سید الفیض الحسینی	:	تلمیذ
سید احمد شہید اکیڈمی	:	پیشکش
اولمپیا آرٹ پریس لاہور	:	مطبع
:	:	قیمت

# جمهرة أنساب العرب

لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حرزما الأندلسي

٤٥٦ - ٣٨٤

محقق وتعليق

عبد السلام محمد سارون

يزيد

وكان قبيح الآثار في الإسلام ، قتل أهل المدينة ، وأفاضل الناس ، وبقية الصحابة  
- رضى الله عنهم - يوم الحرة . في آخر دولته ، وقتل الحسين - رضى الله عنه -  
وأهل بيته في أول دولته ، وحاصر ابن الزبير - رضى الله عنه - في المسجد الحرام ،  
واستخف بحمة الكعبة والإسلام ، فأمانه الله في تلك الأيام ،  
(ص ١١٣)

دار المعارف بمصر

١٩٩٢ - ١٩٣٢



# فہرست

۱	عرض مؤلف
۴	اموی حکومت و خلافت
۱۸	سرسری جائزہ
۲۳	اسلامی تاریخ اور ائمہ علم و فن پر افتراء
۳۷	اس کتاب کا اصلی ماخذ
۴۰	جہالت و خیانت اور بددیانتی
۵۰	حضرت علیؑ اور اُن کا دور خلافت
۵۴	حضرت شاہ ولی اللہؒ کی تصریحات
۵۸	علامہ ابن خلدونؒ کی تصریحات
۶۱	امام ابن تیمیہؒ کی تصریحات
۶۳	امام ابن عبدالبر اندلسیؒ کی تصریحات
۶۵	بیعت و خلافت کامل و مکمل تھی
۷۱	حضرات طلحہؓ وزبیرؓ و معاویہؓ اور اہل شام کا اقرار
۷۶	حضرت علیؑ پر پورا عالم اسلام مجتمع تھا
۸۲	شامیوں کی شرارت اور حضرت معاویہؓ کی مجبوری
۸۵	صحابہ کرامؓ ان فتنوں سے الگ رہے
۸۸	حضرت علیؑ کا اپنی خلافت پر مبلغ تبصرہ
۸۹	ان محاربات میں اقرب الی الحق کون لوگ تھے
۹۱	حضرت علیؑ اور امام احمد بن حنبلؒ
۹۴	حضرت علیؑ اور قاضی ابو بکر بن عربیؒ
۹۸	حضرت حسینؑ اور ان کا مقام و موقف
۱۰۰	اقدام حسینؑ کی ضرورت کتاب وسنت کی روشنی میں
۱۰۷	یزید کے خلاف اقدام کی شدید ضرورت اور حضرت حسینؑ کا مقام
۱۱۳	امن و صلح کی کوشش اور اتمام حجت

۱۱۶	اعتراف واحترام
۱۱۹	امن و صلح خطرے میں
۱۲۳	حضرت محمد بن حنفیہؓ کا مشورہ
۱۲۷	بجٹ اسلام صبر و ضبط
۱۳۱	یزید کی روش اور عام صحابہ اور جمہور امت کا موقف
۱۳۹	یزید اور اسکی ولی عہدی و امارت
۱۴۳	مؤلف کے خیالات
۱۴۵	حضرت حسینؓ کو گرانا اور یزید کو بڑھانا
۱۴۹	حافظ ابن حجرؒ پر الزام
۱۵۱	علامہ ابن کثیرؒ پر الزامات
۱۵۸	کتاب فضل یزید کی حقیقت
۱۶۱	یزید کی ولی عہدی کی داستان
۱۶۵	ولی عہد بنانے کی وجہ
۱۶۷	یزید کی امارت و خلافت کس معنی میں تھی ؟
۱۷۱	تین المناک واقعات
۱۸۰	مؤلف اور انکے نصرانی محققین کی تحقیق
۱۸۴	شمر کی رپورٹ
۱۸۷	حضرت ابن عمرؓ اور قتیلین حسینؓ
۱۸۹	رأس الحسینؓ
۱۹۰	واقعہ حرہ مدینہ منورہ
۱۹۳	محاصرہ مکہ مکرمہ
۱۹۵	چند متفرق اور اہم مباحث
۱۹۵	قاتل حسینؓ عمر بن سعد
۲۰۸	صحابی بنانے کی کوشش
۲۱۲	صحیحین کی حدیث پر بیجا کلام
۲۱۵	حدیث غزوہ مدینہ قیصر اور یزید
۲۲۸	حدیث ملک عضوض

۲۳۲	حشر بن بنیہ کوئی
۲۳۶	حضرت سفینہ اور سعید بن جہان
۲۳۹	حضرت امام احمد بن حنبل اور حدیث سفینہ
۲۴۱	بخاری کی دو حدیثیں
۲۴۶	بارہ قریشی خلفاء
۲۴۸	جاہ پٹی اور امارت کا شوق
۲۵۱	قرابتیں اور رشتہ داریاں
۲۵۴	حضرات حسین کے ساتھ حسن سلوک
۲۵۶	ملکقات
۲۵۶	قاضی ابو بکر ابن عربی کی کتاب العواصم من القواصم
۲۷۲	مسلمانوں کے دو علمی اور ثقافتی اداروں کی رائے
۲۷۴	معارف دار المصنفین اعظم گڑھ
۲۷۶	برہان ندوۃ المصنفین دہلی
۲۷۹	ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور
۲۸۲	حضرت مولانا محمد امجد علی
	شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا صحیح مسلک

## ضمیمہ

۲۸۹	حضرت مولانا محمد امجد علی قاسمی	خلافت معاویہ و یزید ایک جائزہ
۳۰۶	مولانا ابو منظور شیخ احمد صاحب	کتاب خلافت معاویہ و یزید پر تبصرہ
۳۱۰	حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب	فیصلہ کن سوالات و جوابات
۳۱۴	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا	فتنہ خارجیت
۳۱۷	حضرت مولانا مفتی دلی حسن ٹوگئی	فاطمہ بنت رسول ﷺ کی توہین
۳۱۹	حکیم محمد امجد علی برکاتی	عباسی صاحب حقیقت کیا تھے؟
۳۲۶	موسیٰ حسن صاحب	عباسی صاحب حضرت عثمان کو خلیفہ ثالث بھی نہیں مانتے تھے
۳۲۷	شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا	حدیث غزوہ فسطاطیہ اور مغفرت یزید
۳۵۴	حضرت مولانا عزیز احمد قاسمی	کتاب خلافت معاویہ و یزید پر ایک طائرانہ نظر
۳۶۹	قاری محمد ضیاء الحق صاحب	یزید کا بر علماء اہلسنت و یوبندی کی نظر میں
۳۱۸	سید ابو بکر غزنوی	حُب آل محمد ﷺ

# عرض مؤلف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله واصحابه

اجمعين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا.

کتاب "خلافت معاویہ ویزید" صرف ایک چوٹا دینے والی کتاب نہیں تھی بلکہ اس نے بہت سے عوام و خواص کو اسلاف کے اس مسلکِ حق سے ہٹانے میں مدد کی جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور ان کے تشارجات کے بارے میں دین و ایمان کی روشنی میں مسلم ہے۔ شروع میں ذمہ دار علموں اور اداروں نے اس کتاب کی طرف توجہ نہ کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا زہر خوب پھیلا۔ راقم الحروف نے روزنامہ انقلاب بمبئی میں ۷ نومبر لغایت ۷ دسمبر ۱۹۵۹ء (۳ جمادی الاولیٰ لغایت ۱۶ جمادی الثانیہ ۱۳۷۹ھ) ۳۵ قسطوں میں اس کی اندرونی خرابیوں کو اجاگر کر کے صحیح باتیں بیان کرنے کی کوشش کی اور صرف ان ہی کتابوں تک دائرہ بحث و تبصرہ محدود رکھا جن سے اس کے مؤلف نے قطع و برید اور خیانت کر کے اپنا ذہنی مطلب نکال کر اسے تحقیق اور ریسرچ بنانا چاہا تھا، اب اسی کو حک و اضافہ کے ساتھ کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب پر لکھنے کا شدید تقاضہ اس وقت ہوا جب کہ حضرت الاستاذ

مولانا سید محمد میاں صاحب ناظم جمعیت علماء ہند نے ایک مختصر مگر جامع تبصرہ میں اس کتاب کا پول کھول کر رکھ دیا۔ یہ ہماری کوشش گویا اسی متن کی شرح ہے۔ ہم نے صرف ان ہی چند کتابوں سے مدد لی ہے جن سے مؤلف نے خیانت کر کے اپنا ذاتی

مقصد ثابت کرنا چاہا تھا اور جان بوجھ کر دوسری کتابوں کو ہاتھ نہیں لگایا ہے کہ ایک صحیح الفکر اور سلیم الطبع مسلمان کے لیے ان ہی سے مسلکِ حق کی طرف رہنمائی مل جاتی ہے اور کج فہم و کج دماغ کے لیے سب کچھ بیکار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جن بعض مباحث پر ہم نے اظہار خیال نہیں کیا ہے ان کو لے کر اس کتاب کے طرف دار بغلیں بجائیں اور ان کو لاجواب تخلیق بتائیں۔ مگر جس شخص کی اس قدر خیانتیں اجاگر ہو چکی ہوں، اس کی ایک بات بھی ماننے کے قابل نہیں رہ سکتی جب کہ ایک کتاب میں دو چارج لگے اس طرح کی خیانت سے پوری کتاب مجروح ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی سطر بھی قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ اخبار میں تبصرہ کے زمانہ میں اس کی صرف ایک بحث "کتاب کا اصل ماخذ" پر چند لوگوں نے اپنے اپنے رنگ میں موٹلف کی تائید کی اور خود موٹلف نے راہ پا کر اس پر اپنا ایک مضمون شائع کرایا اور "ایک سنی اہل علم و اہل قلم عالم" کی اس گرفت کو کسی طرف سے ڈھیلی کرنے کی کوشش کی گئی، جو بر اعتبار سے ناکام رہی، حالانکہ انتظار تھا کہ ہمارے تبصروں کا جواب اس کتاب کے سرگرم طرفداروں کی طرف سے شد و مد سے شروع ہو جائے گا، مگر ان کی سرد مہری سے اندازہ ہو گیا کہ ان کا مسلخِ علم و تحقیق کیا ہے اور ان کی طرف داری کی بنیاد کیسی ہے۔

اب جبکہ اس کتاب کا فتنہ نسبتاً سرد پڑ گیا ہے اور دماغوں کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہے ہمارا یہ تبصرہ خدا کرے قلبِ سلیم اور عقلِ مستقیم کے لیے مفید ثابت ہو۔ باقی رہے وہ لوگ جو سلفِ بیزاری کی بنیاد پر مشاجرات صحابہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے علم و تحقیق کی دوڑ اردو کی کتابوں اور اندرونی خواہشوں تک ہے وہ کسی طرح سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے حق میں توفیق کی دعا کرنی چاہیے۔

بم نے اس تبصرہ کے لیے اپنی ذاتی کتابوں کے علاوہ محترم و مکرم جناب الحاج حافظ محمد صدیق الیسمنی (محمد احمد برادرز بمبئی) شرف الدین، الکتبی و اولادہ، اور کتب خانہ جامع مسجد کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا ہے، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں نیز اس کتاب کی اشاعت کے محرک و باعث میرے چند خصوصی دوست ہیں جن کا میں شکر گزار ہوں:-

(۱) محترم الحاج مولانا عبید الرحمن صاحب قمر مبارک پوری

(۲) محترم الحاج محی الدین صاحب مشیری

(۳) اور محترم الحاج نواب عبد الرؤف صاحب بستوی۔

در حقیقت ان ہی حضرات نے یہ کتاب شائع کی ہے

قاضی اطہر مبارک پوری بمبئی

جمعۃ الوداع ۲۶ رمضان المبارک ۱۳۷۹ھ ۲۵ مارچ ۱۹۶۰ء

## اموی حکومت و خلافت

رسول اللہ ﷺ کی حیاتِ طیبہ تک مسلمانوں کا انفرادی اور اجتماعی نظام نبوت و رسالت سے وابستہ رہا اور ان کو کسی الگ نظام کی ضرورت نہ پڑی۔ آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی معاملہ تقریباً یہی رہا اور نبوت و رسالت کی نیابت و خلافت نے مسلمانوں کے ملی نظام کو برقرار رکھا اور خلفائے اربعہ کے دور تک خلافت علیٰ مشائخ النبوت جاری رہی، جس میں نہ حکومت و سلطنت کا تصور تھا، نہ ملکیت و شہنشاہیت کا خیال تھا، بلکہ نبوت و رسالت کی قائم مقامی اور نیابت و خلافت ہی حقیقی مقصد اور اصلی مطمح نظر تھا۔ خلافت راشدہ کا یہ دور نبوت و رسالت کا پر تو تھا اور اس دور کے خلفائے راشدین اسلام کے حقیقی ترجمان تھے۔

اس مبارک و مقدس دور کے بعد اموی دور آیا جو خیر القرون میں تھا، اس زمانہ میں خلافت راشدہ کے فیوض و برکات ہر طرف عام تھے۔ سندھ سے لے کر افریقہ تک اسلام کی شان و شوکت برپا تھی۔ مجاہدین اسلام سے دنیا معمور تھی اور بلادِ اسلامیہ کے تقریباً ہر قریہ و شہر میں رسول اللہ ﷺ کے صحابہ و تابعین موجود تھے۔ کتاب و سنت پر پوری طرح عمل جاری تھا اور اسلام کی روح بشارت اور تازگی کے ساتھ ہر طرف کام کر رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسے مبارک و مقدس زمانے میں جو حکومت قائم ہوگی اور اس کا نعرہ بھی وہی ہوگا جو خلافتِ راشدہ کا تھا۔ وہ بہترین حکومت ہوگی اور اسے "خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم" کی برکتیں حاصل ہوں

گی۔ اس کے باوجود اُموی دور نہ نبوت و رسالت کا دور تھا اور نہ اس کی نیابت و خلافت کا دور تھا، بلکہ حکومت و ملوکیت کا دور تھا، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرما دیا تھا کہ "الخلافة بعدی ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً عضوضاً"

مگر جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ اُموی دور حکومت کی ابتدا چونکہ خیر القرون میں ہوئی اس لیے اسے نبوت و خلافت کی برکتیں حاصل رہیں اور اُموی خلفاء کے دور میں اسلام کے اصلی خدوخال کی حفاظت، اس کی سادگی کی بحالی، کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت، جہاد و حدود کا قیام اور اسی طرح خالص دینی اور اسلامی کام جاری رہے اور اُموی خلفاء نے اسلام اور مسلمانوں کو اجانب و آغیار کے ہر طرح کے علمی، فکری، تمدنی اور طاقتی اثرات سے محفوظ رکھ کر بہترین خدمات انجام دیں۔ اسی لیے اُموی دور نبوت و خلافت کے بعد اسلام کے حق میں سب سے بہتر دور مانا گیا ہے اور مجموعی اعتبار سے بعد کے تمام ادوار میں وہ "خیر القرون" کہلانے کا مستحق قرار پایا ہے۔

مگر چونکہ اسلامی تاریخ کا یہ "خیر القرون" نبوت و خلافت کا "خیر القرون" نہ تھا، بلکہ "ملوکیت عضوضہ" کا خیر القرون تھا، جیسا کہ زبان رسالت نے اسے بتایا ہے، اس لیے اس نئی دولت و حکومت کی تشکیل میں ابتداً وہی کام کرنے پڑے جو ملوکیت کو اپنے ابتدائی دور میں کرنے پڑتے ہیں اور جن کو ہم دنیا کی شوکت کی تاریخ میں پڑھتے ہیں۔ پھر چونکہ دولت اُموی کی تشکیل و تعمیر نبوت و خلافت کے تصورات سے ہٹ کر قبائلی عصبیت اور خاندانی شوکت و قوت پر ہوئی اس لیے اس کی ابتدا میں دین کی خالص روح کا فرمانہ ہو سکی، بلکہ دنیاوی عصبیت و شوکت نے کام کیا اور چونکہ جو لوگ اس دولت جدیدہ کے اولین معمار تھے، وہ خود بھی دین کی روح سے بڑھی حد تک



خالی تھے اور دینی ماحول میں پرورش پانے کے باوجود ان کے دل و دماغ پر صاحبزادگی، شاہزادگی اور دنیاوی جاہ و حشم کا خیال چھایا ہوا تھا اور نو خیزی اور نا تجربہ کاری نے ان کو اور بھی غیر مآل اندیش بنا دیا تھا، نیز انہیں ہم نوا اور مشیرِ کار ایسے لوگ مل گئے تھے جو دین و دیانت کے مقابلہ میں دولت و شوکت کے پروردہ تھے اور شام کی رومی حکومت کے قدیم سایہ نے ان کو ملوکیت پسند بنا دیا تھا اس لیے انہوں نے اس دولت کے قیام و استحکام میں دینی اصول و قوانین سے ہٹ کر وہ تمام آلات و اثرات استعمال کئے جو ایک نئی حکومت کے نا تجربہ کار اور نا عاقبت اندیش بانی کیا کرتے ہیں، چنانچہ اُغیلْمہ قریش، مروان، عبید اللہ بن زیاد، یزید، عمر بن سعد، وغیرہ دولتِ اُموی کے اولین حکمرانوں نے اپنے ہم فکر و ہم عمل پیروکاروں کو لے کر اس کے استحکام میں وہ تمام کام کئے جو ایک نئی سلطنت کے لیے کئے جاتے ہیں۔ ان نو خیز و نا تجربہ کار صاحبزادوں کے ہاتھوں دولتِ اُموی کے قیام و استحکام کا یہ دور امت مسلمہ کے لیے بڑا صبر آزما اور پر فتن تھا۔ اجلہ صحابہ موجود تھے، دین و دیانت کے حاملین دنیا میں بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے۔ کبار تابعین اسلامی روح سے معمور تھے، اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ ہر طرف کتاب و سنت کا چرچا تھا اور دین اپنی پوری روح کے ساتھ پورے عالم اسلام میں زندہ و پابندہ تھا۔ عین اسلامی فکر و عمل کے اس تابناک دور میں دین کی روح سے بڑی حد تک بے بہرہ نو خیزوں نے اپنے ایک خاص نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر کھلے بندوں ملوکیت کی دعوت عام کی اور ہر مخالف نظریہ کو طاقت و شوکت سے کچلنا چاہا۔ ان حالات میں صحابہ کرام اور ان کے ہم فکر و ہم خیال حضرات نے کمالِ دور اندیشی سے رسول اللہ ﷺ کی ان احادیث و احکام پر شدت سے عمل کیا

جن میں اس قسم کے فتنوں کے نازک دور میں اسلام کی اجتماعیت و طاقت کو بحال و برقرار رکھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے اور ہر طرح کے حالات برداشت کر کے "بحق اسلام" خاموش رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کی معیت و اقتداء میں جمہور امت اس مصلحت کے پیش نظر خاموش نہ رہ جاتی اور خدا نخواستہ ان اُٹیلہ قریش کے مقابلہ میں نکل آتی جن کے پاس دنیاوی شوکت و طاقت جمع ہو گئی تھی تو اس کا نتیجہ صرف یہ ہوتا کہ اسلام کی تلوار مسلمانوں پر پڑتی، اور عرب و عجم کی ساری مخالف اسلام طاقتیں مسلمانوں کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر پورے عالم اسلام پر یلغار کر دیتیں اور اسلام کا سجا سجا یا بازار دم کے دم میں لٹ جاتا اور وحدت کلمہ اور جامعیت اسلام کا وہ سارا کھیل اپنے ہاتھوں بگڑ جاتا جسے نبوت و رسالت اور نیابت و خلافت نے تیس اور تیس سالوں کی مدت میں بنایا تھا۔ اگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے جمہور کے سامنے یہ مقصد عظیم نہ ہوتا تو وہ کسی طرح ان نو خیزوں کی اس سیاست کو نہ چلنے دیتے جو زمانہ جنگ کی طرح نئی حکومت کے قیام و استحکام میں دین و دیانت کی روح سے الگ کر کے چلائی گئی۔ یہ عبوری دور جمہور مسلمانوں کے لیے بڑا ہی سخت تھا اور ان کا تمام تر سکوت "بحق اسلام" تھا اور "بحق دولت امیہ" نہ تھا۔

یزید کا تقریباً پونے چار سال کا دور اس قسم کا تھا جس میں عام مسلمانوں نے بڑے صبر و ضبط سے کام لیا، مگر اسی دور میں ارباب عزیمت و قتی مصلح سے یکسو ہو کر اپنی خالص نیت اور پاکیزہ کردار کے ساتھ اس صورت حال کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے اور اس نازک دور کو ان احادیث رسول اللہ ﷺ پر عمل کرنے کا بہترین

زمانہ سمجھاجن میں جبر و ظلم اور احداث و بدعات کے خلاف آواز بلند کرنے کو افضل الجہاد بتایا گیا اور ان کے خلاف اقدام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند مرتبہ ہونے کی ضمانت دی گئی۔ چنانچہ اسی دور کے شباب میں تین طاقتیں سامنے آئیں۔ ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمنواؤں کی طاقت جس کا خاتمہ عراق کی سرزمین کربلا میں محرم ۶۰ھ میں ہوا۔ دوسری پورے اہل مدینہ کی طاقت جس کی پشت پر مدینہ منورہ کے وہ انصار و مہاجرین تھے جن کی بیعت سے خلافت کی بیعت پوری ہو جاتی تھی اور جن کا گھر اسلام کا دار الخلافہ تھا۔ حرم رسول اللہ ﷺ کی اس اجتماعی طاقت کو مدینہ کے مقام حرہ میں ذوالحجہ ۶۳ھ میں دفن کیا گیا۔ اور تیسری طاقت حرم خداوندی میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں کام کر رہی تھی اور اس کے مقابلہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ عین محاصرہ مکہ مکرمہ کے دوران ربیع الاول ۶۳ھ میں یزید کی موت واقع ہو گئی اور خرابی بسیار کے بعد بھی یہ طاقت بعد تک باقی رہی مگر پھر اموی حکومت نے اسے بھی ختم کر کے اپنے لیے راستہ صاف کر لیا۔

چونکہ یہ تینوں طاقتیں اپنے مقصد میں ناکام رہیں، اس لیے فاتحوں کے نزدیک ان کا مقابلہ کرنے والے باغی، شورش پسند اقتدار اور حکومت وقت کے خلاف خروج کرنے والے ثابت کئے گئے اور ان کے ان کارناموں کو خروج و بغاوت کی نظر سے دیکھا گیا اور اگر ان میں سے کوئی طاقت کامیاب ہو جاتی تو پھر اسی طریقی بنو امیہ اور ان کے دُعا خلافت راشدہ کے باغی قرار پاتے اور ان کو وہ سب کچھ کہا جاتا جس کا عُشرِ عشر بھی ان کے ناکام مخالفین کو نہیں کہا گیا، مگر چونکہ وہ نئی حکومت کے قیام و استحکام میں کامیاب ہو گئے اس لیے استیلاء و غلبہ کی وجہ سے اموی دور حکومت بھی خلافت کا دور

کھلایا اور بنی امیہ کی پوری حکومت اپنے اچھے برے کارناموں کے باوجود عمومی اعتبار سے بعد کی تمام مسلم حکومتوں سے زیادہ بہتر، زیادہ کامیاب، اور زیادہ نیک ثابت ہوئی اور ان کے حکمران چونکہ پورے عالم اسلام کے بست و کشاد پر قابض و دخیل تھے، جہاد کرتے کرتے تھے، حدود اور احکام اسلام جاری کرتے تھے، عزل و نصب ان کے قبضہ میں تھا، کتاب و سنت کی اشاعت و ترویج میں حصہ لیتے تھے، اور اسلام کو ہر طرح کی عجمیت سے پاک و صاف رکھنے کے لیے بہترین کوشش کرتے تھے، اس لیے وہ ایسے کامل و مکمل غلبہ و استیلاء کے بعد خلیفہ کھلائے اور ان کی حکومت کو خلافت سے اسی معنی میں تعبیر کیا گیا اور ملوکیت و شہنشاہیت کی تاریخ میں یہ دور خیر القرون "ثابت ہوا۔ اور اس دولت کے قیام کے سلسلے میں جو عبوری کوششیں کی گئیں ملوکیت کی نظر میں ایک ایک کر کے مستحسن قرار پائیں اور ہر حادثہ بہترین کارنامہ مانا گیا۔

یہاں پر یہ بات خاص طور سے مد نظر رکھنی چاہیے کہ کسی نئی حکومت کے قیام و استحکام کے زمانے میں یا جنگ کے زمانے میں جو حالات پیش آتے ہیں اور ان کے مقابلہ سے جو صورتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ صرف عبوری اور وقتی ہوتی ہیں ان کو اس دولت و حکومت کے بنیادی مقاصد قرار دینا کسی طرح مناسب نہیں، کیونکہ جب کسی جگہ ملوکیت و سلطنت کی گرفت شروع ہوتی ہے تو اس قسم کے انقلابات و تغیرات پیش آتے ہیں اور ملوکیت کا جبر و تشدد اپنے لیے اسی طرح راستہ ہموار کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے اسی حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے:-

"ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلهما اذلة وكذلك يفعلون."

ترجمہ:- ملوک جب کسی شہر میں غلبہ و استیلاء کے لیے داخل ہوتے ہیں تو وہاں کی معززو

محترم شخصیتوں کو ذلیل و خوار کر کے زیر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کے دوسرے کام کرتے ہیں۔

آپ ملوکیت و سلطنت کی تاریخ پڑھیں تو بڑے بڑے عادل و منصف اور بہترین امن پسند سلاطین اس مرحلہ پر تشدد پسند، اور قتل و غارت میں مصروف نظر آئیں گے۔ مگر غلبہ و استیلاء کے بعد ان کا دور حکومت بہترین دور گذرا ہے کیونکہ ابتداء میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ صرف غلبہ و استیلاء کا عبوری کارنامہ تھا، ان کی سلطنت کا مقصد نہ تھا۔ اسی طرح دولت اموی کے قیام و استحکام کے عبوری دور میں جو کچھ ہوا وہ اس کے مقاصد میں سے نہ تھا اور نہ اس کے بانی اسے اپنی حکومت کے لیے مستقل پالیسی اور اصول سلطنت سمجھتے تھے، بلکہ ان حرکتوں کو ان میں سے بہت لوگوں نے بعد میں ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا، اور توبہ و استغفار اور ندامت و شرمندگی کا اظہار کر کے افسوس کیا۔ چنانچہ دولت اموی کی ابتدائی تحریکوں میں جن لوگوں نے خاص مقصد یا دباؤ سے حصہ لیا، ان میں سے اکثر و بیشتر مرتے دم تک افسوس کرتے رہے، اور توبہ و استغفار کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع ہوئے۔ اس کی بہترین مثال حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے آخری وقت کے وہ الفاظ ہیں جو صحیح مسلم میں نہایت تفصیل سے درج ہیں۔ جس میں آپ نے اپنی زندگی کے تین ادوار بتا کر آخری دور کو جو دور فتنوں میں گزرا، اس کے بارے میں فرمایا:-

ثم ولينا اشياء ما ادرى ما حالى فيها۔

(آخر میں ایسے معاملات ہمارے سپرد کئے گئے جن کے بارے میں میں نہیں جانتا کہ میرا کیا حال ہوگا)۔

عمر بن سعد قاتلِ حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے بعد مرتے دم رنج و افسوس کا اظہار کیا اور خود یزید کے بارے میں روایت موجود ہے کہ اس نے آخر میں شہادت حسینؑ پر بے حد رنج و ندامت کا اظہار کیا اور اپنی ناعاقبت اندیش سیاست کے غلط ہونے کا اقرار و اعتراف کیا، اور کہتے ایسے اہل صدق و صفا بزرگ تھے جو ان فتنوں کے دوران ہی میں شرکت کو غلطی محسوس کر کے کنارہ کش ہوئے، نیز ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی غلطی کا احساس کر کے خاندانِ حسین اور اہلِ حرمین شریفین کے ساتھ حسن سلوک کیا اور رواداری کی روش اختیار کی، بلکہ بعد کے اموی خلفاء میں بعض نے اپنے دور میں اس ابتدائی سیاست کو سختی سے ناپسند کر کے اس سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا اور تلافیِ مافات کے لیے ہر امکانی کوشش کی۔ اس میں مروان کے پوتے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ذات گرامی بہت ہی نمایاں ہے، جنہوں نے دور یزید کی غلط کاریوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کیا اور حجاج بن یوسف کے ظلم و سفاکی کو بر ملا ظاہر کیا اور ردِ مظالم کی روش اختیار فرمائی۔

بہر حال دولتِ اموی اپنے ان ابتدائی موانع و علائن کو ختم کر کے ترقی کرتی رہی اور پرانے عار کو اچھائیوں سے دھوتی رہی، مگر اس دور میں بھی وقتاً فوقتاً مخالفت ہوتی رہی، اور ان کا صفایا ہوتا رہا۔ ان میں ایک طاقت بہت منظم صورت اختیار کر گئی اور اس نے بنو امیہ کے مقابلہ میں نسلی عصبیت کو دین کے رنگ میں پیش کر کے بڑھی حد تک بنو امیہ کی بدنامی پر اپنے استغنا کی بنیاد رکھی۔ یہ بنو ہاشم کی امامت کی دعوت تھی جسے ایک مستقل دین کی شکل میں پیش کیا گیا۔ اس میں بنو امیہ کے وہ ابتدائی حریف شامل تھے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا امام و پیشوا بنا کر کوفہ بلایا، تاکہ یزید کے مقابلہ میں آپ کی بیعت کریں، مگر جب اموی طاقت و سیاست سے دوچار

ہونے کے بعد ان کی قوت ٹوٹ گئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نتیجہ میں ان کی تحریک بند ہو گئی تو انہوں نے ایک خاص مدت تک خاموشی اختیار کی اور اندر ہی اندر بنو امیہ کے خلاف کام کرتے رہے، اور ان کے خلاف پروپیگنڈہ کر کے ان کی نالائقی اور اپنا استحقاق ثابت کرتے رہے، یہ لوگ واقعہ کربلا کے کچھ زمانہ کے بعد اپنا لقب "توآبیین" اختیار کر کے طرفدار ان علی و حسین رضی اللہ عنہما کے رنگ میں ظاہر ہوئے جیسا کہ علامہ ابن سعد نے "الطبقات الکبریٰ" میں اس کی تصریح کی ہے۔ ان لوگوں نے اہل بیت کے بڑے بڑے آدمیوں کو اس طرح اپنا بیرو بنایا جس طرح پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بنا چکے تھے اور چونکہ بنی امیہ کو طاقت حاصل ہو چکی تھی اس لیے یہ لوگ اپنے مقصد میں ناکام ہوا کرتے تھے۔ اس گروہ نے اہل بیت اور واقعہ کربلا کو اپنی تحریک کی روح بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا اور جس طرح دولت اموی کے قیام سے پہلے شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک خاص نقطہ نظر سے دنیا کے سامنے پیش کر کے ہمدردی حاصل کی جا رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے تھے، اسی طرح اس گروہ نے شہادت حسین رضی اللہ عنہ کو دنیا کے سامنے پیش کر کے اپنی دعوت کے حق میں ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی، اور بنی امیہ کی ابتدائی حرکتوں کو، جو بجائے خود نہایت غلط تھیں، اپنے خاص رنگ میں پیش کیا اور چونکہ اس جماعت کی دعوت اہل بیت کی محبت تھی اس لیے مسلمانوں میں اس تحریک کو فروغ ہوا۔ خاص طور سے عجم کے ان علاقوں میں، جہاں قدیم زمانہ سے نسل و خاندان کا تصور کام کر رہا تھا جیسے ایران و ہندوستان وغیرہ میں اس کی پذیرائی ہوئی، اور ان ملکوں کے نو مسلم چونکہ قدیم زمانہ سے نسلی فتنہ میں

بتلا تھے، اس لیے انھوں نے اہل بیت کی محبت و مظلومیت میں دلچسپی لی اور ساتھ ہی ساتھ بنو امیہ کی برائی کی۔ اس مقصد کے لیے واقعہ کربلا کو عجیب و غریب انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا اور اسے رنگ برنگ روایات سے اس قدر مزین کیا گیا کہ وہ واقعہ ہونے کے باوجود افسانہ بن گیا اور دنیا کے لیے اس کی واقعیت اور افسانویت میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا۔ واقعہ کربلا کی رنگ آمیزی نے اس دعوت میں بڑھی جان پیدا کی اور اس سے اسے خوب فروغ ہوا۔ ساتھ ہی بنو امیہ کے ابتدائی کاموں میں بھی خوب خوب رنگ آمیزی کی گئی اور ان کو بھی واقعات سے نکال کر افسانہ بنا دیا گیا۔ ایک طرف حقیقت کو افسانہ بنایا گیا محبت و الفت میں اور دوسری طرف عداوت و نفرت میں، بہر حال دونوں طرف سے اصل حقائق کو ختم کر کے مفروضات و مزعومات کی دنیا آباد کی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جاہل اور عامی مسلمان کربلا کے مظالم اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو نہایت اہمیت کے ساتھ جانتا ہے جبکہ لوگ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ، واقعہ حرہ اور محاصرہ مکہ وغیرہ سے ناواقف ہیں، حالانکہ یہ حوادث کربلا سے کئی درجہ اہم ہیں۔ اسی طرح جاہل اور عامی مسلمان یزید، مروان، ابن زیاد، عمر بن سعد، شمر بن ذی جوشن کو ظالم، جابر فاسق، فاجر کھنسنے کے لیے تفصیلی معلومات رکھتا ہے، جبکہ فرعون و ہامان اور شداد و نمرود کے ظلم و ستم کا اجمالی علم بھی کم ہی لوگ رکھتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا کے انسانیت کے اکابر مجرمین ہیں۔

چونکہ چوتھی صدی ہجری تک تاریخی واقعات بھی احادیث کی طرح اسناد کے ساتھ بیان کئے جاتے تھے اور تاریخ نویسی کا طریقہ یہ تھا کہ مورخ ہر قسم کے واقعات کو راویوں کی سندوں کے ساتھ اپنی کتاب میں درج کر دیتا تھا اور اس کی حیثیت صرف



جامع کی ہوا کرتی تھی وہ ناقد و مبصر نہیں ہوتا تھا اس لیے مسلمان مورخوں نے کمال دیانت سے ان فتنوں کی تاریخ میں بھی اسی ذمہ داری کو پورا کیا اور جو واقعہ جس سلسلہ روایت سے ملادرج کر دیا۔ ان کو اس سے بحث نہ تھی کہ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے۔ اس کا فیصلہ انہوں نے پڑھنے والے پر چھوڑ دیا کہ وہ اسانید و روایت کی تحقیق اور اپنی بصیرت سے کام لے کر موافق و مخالف روایات کے بارے میں رائے قائم کریں۔ اس دور کے مسلمان مورخوں نے داخلی فتنوں میں پڑنے اور ان کے گذر جانے کے بعد ان میں فریق بننے سے گریز کیا، اور بعد والوں نے اپنے اپنے رجحان و ذوق کے مطابق ان کے مندرجات سے استدلال کیا۔ چنانچہ آج تک ان فتنوں کے بارے میں ان ہی قدامت کی کتابیں موافقین و مخالفین کا ماخذ بنتی چلی آئی ہیں اور جوں جوں اپنے اسلاف سے بیزار پی پیدا ہوتی جاتی ہے ان کے بارے میں لوگوں کی زبانیں کھلتی جاتی ہیں، بلکہ اب تو یہ حال ہے کہ حضرات محدثین پر بھی مورخوں کی طرح حکومت و وقت سے ڈرنے اور اس کی تائید کرنے کا الزام رکھا جانے لگا ہے اور ان کو کذاب و مفترمی اور شیعہ و خوارج کہا جانے لگا ہے، اور ان کی شدت احتیاط اور باادب سکوت ان کا سب سے بڑا جرم قرار پارہا ہے۔

اب سے پہلے اسلامی تواریخ کے مطالعہ میں اسلامی ذہن و فکر کی رہنمائی ہوا کرتی تھی۔ واقعات کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جاتا تھا اور ان کی تحقیق و تفتیش میں ان کے ظروف و احوال، اسناد و روایت اور اصول و فروع پر ایمان و دیانت کے نقطہ نظر سے غور کیا جاتا تھا۔ مگر اب اسلامی تاریخ کو وطنیت و قومیت کے معیار پر جانچا جانے لگا ہے اور اس کے مطالعہ میں نسلی و وطنی محرکات کام کرنے لگے ہیں، اس لئے ہر وہ واقعہ

جو وطنیت و قومیت کے نظر یہ کے خلاف ہو غلط اور بے اصل ہے اور اس کے لکھنے والے کذاب و مفتری ہیں۔ اس سے مطلق بحث نہیں کہ اس میں واقعیت کہاں تک ہے۔ جذباتیت کی اس رونے آج کے مسلمان مولفین و مصنفین کے ایک طبقہ کو بری طرح سطحیت پسند بنا دیا ہے اور ان کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے کہ وہ مسئلہ واقعات و شخصیات کا کھلے بندوں انکار کر دیں اور اپنے ذہن کے موافق جو چاہیں لکھ دیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر طلحہ حسین مصری کو لے لیجیے، جن کا خاص مضمون ادبیات ہے مگر "عروبت" کی ہوانے ان کو اسلامی تاریخ و رجال کا محقق بنا دیا اور انہوں نے مصریوں سے قتل عثمان کا عار دھونے کے لیے عبداللہ بن سبا (ابن السوداء) کے وجود ہی کا انکار کر دیا، اور اسے ایک افسانوی شخصیت قرار دینے کی کوشش کی۔ اسی طرح انہوں نے ابن ابی سلول منافق کے وجود کا انکار کرتے ہوئے اسے افسانہ بنانے کی کوشش کی، نیز اسلامی واقعات کو عروبت کے نقطہ نظر کے مطابق بنانے کی روش اختیار کی۔ اس ذہنیت کو معلوم کرنے کے لیے ان کی کتابوں کا مطالعہ کافی ہے۔

عرب ممالک کے نئے ذہنوں کو "عروبت" نے یہاں تک جرات مندی عطا کر دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کے ان تمام واقعات و حالات کو مورخین و مفسرین اور محدثین کی غلط بیانی قرار دینے لگے ہیں، جن میں جاہل عربوں کے اخلاقی، تہذیبی، تمدنی اور دینی و فکری انحطاط کو اجاگر کیا گیا ہے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ اسلاف ہماری قدیم تہذیب و فکر کے علمبردار تھے اور ہمیں ان پر فخر کرنا چاہیے۔ غرض کہ ان دنوں عرب ممالک میں نیشنلزم کی تحریک اپنے عروج پر ہے۔ ابو جہل اور ابولہب وغیرہ کی یاد گاریں قائم کرنے کی تجویزیں عربی مجلات و جرائد تک میں آچکی ہیں۔

"عروبت" کے علمبرداروں کے خیال میں رسول اللہ ﷺ عربی تاریخ کے ایک ہیرو تھے اور ان کے مخالفین روماء قریش رجعت پسند فکر کے نمائندے مخالف پارٹی کی

حیثیت سے تھے اور ابو جہل و ابولہب وغیرہ نے اپنے زمانہ میں رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں جو پارٹ ادا کیا ہے وہ سلمانِ فارسی رضی اللہ عنہ، بلالِ حبشی رضی اللہ عنہ، اور صہیب رومی رضی اللہ عنہ جیسے غیر ملکی عناصر سے زیادہ عظمت و توقیر کا مستحق ہے اور ہمیں اپنی عربت کی تاریخ پر فخر کرتے ہوئے اپنے تمام بیروؤں کا اعزاز و احترام کرنا چاہیے اور دورِ جاہلیت جو عربتِ خالصہ کا بہترین ترجمان تھا، اس کے بارے میں جو خرابیاں بیان کی گئی ہیں وہ سراسر اتہام اور بہتان ہیں۔

عربت کے اس انتہا پسند رجحان کے دور میں اموی دورِ حکومت و خلافت پر فخر قدرتی امر ہے، جو حجاز کے دو قبائل مضر اور ربیعہ میں سے قبیلہ مضر کا بہترین کارنامہ ہے، اور جس کی بنیاد خلافتِ راشدہ کے دینی افکار و نظریات سے ہٹ کر "عصبیتِ مضر" پر رکھی گئی تھی۔ اس نے نہایت کامیابی کے ساتھ اپنے دور میں بہترین کارنامے انجام دیئے اور مشرق و مغرب پر کامیاب حکومت کی۔ اسی نظریہ کی بناء پر آج حجاج بن یوسف بھی عربت کی عظیم الشان شخصیت بنا دیا گیا ہے اور اس کے تمام کارناموں کو اس لیے حق بجانب تسلیم کیا جاتا ہے کہ اس نے تنہا خالص عربی حکومت کے قیام و استحکام میں وہ کام کیے ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں اور پارٹیوں سے نہیں ہو سکتے تھے، اسی طرح آج کے دور میں مروان، یزید، ابن زیاد وغیرہ دولتِ عربیہ خالصہ کے اولین معماروں میں تسلیم کیے جاتے ہیں اور ان کے کارناموں کو استحسان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ جب آج کی قومیت و وطنیت پرستی نے فراعزہ مصر کو مصریوں کی تہذیب کا مورث اعلیٰ بنا کر ان کو قابلِ فخر قرار دے دیا ہے اور چنگیز و بلاکو جیسے پوری دنیا نے انسانیت کے سفاک و ظالم اپنی اپنی قوموں کے بیرو اور قابل

فخر و احترام شخصیت بن گئے ہیں، تو ان خیالات و رجحانات میں اموی حکمران اور ان کے حمایتی قابل فخر و احترام کیوں نہ قرار پائیں، جبکہ چند خطرناک قسم کی غلطیوں کے بعد وہ مجموعی اعتبار سے بہترین حکمران تھے اور دنیا نے ان سے بہت کچھ پایا اور انھوں نے انسانی تاریخ میں پروقار مقام چھوڑا ہے، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو کچھ کر دیا اس میں ان کو سابقیت کی افضلیت حاصل ہے اور بعد کی کوئی حکومت اس معاملہ میں ان کی ہمسر نہیں ہو سکی۔ ان حالات میں شدید ضرورت ہے کہ اموی دور خلافت اور اس کے حکمرانوں کے بارے میں بڑی ذمہ داری اور احتیاط سے تحقیق کی جائے۔ اور مخالفین کے الزامات اور موافقین کے مبالغات سے بٹ کر اصل حقیقت کو سامنے لایا جائے اور اس اہم کام کو مسلمانوں کا کوئی ذمہ دار علمی و تحقیقی ادارہ پورا کرے اور بالغ نظر مورخ و ناقد صحیح فکر سے کام لے کر مسلمانوں کے سامنے اپنی تحقیقات پیش کریں۔

## سرسری جائزہ

(کتاب "خلافت معاویہؓ و یزید" اور مؤلف) جس کتاب پر ہم کچھ لکھنا چاہتے ہیں اس کے مؤلف ایک پاکستانی عالم مولانا محمود احمد عباسی ہیں۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ کراچی میں چھپی اور وہیں سے شائع ہوئی تھی، اس کے بعد ہندوستان میں بھی چھپی۔ اس کے ٹائٹل پر یوں تعارف درج ہے۔

"اموی خلافت کا پس منظر۔ سیرۃ معاویہ و یزید بن معاویہ، حادثہ کربلا و فتنہ حرہ پر بے لاگ تحقیق و ریسرچ۔"

ہمارے پیش نظر جو نسخہ ہے وہ مشہور آفسٹ پریس کراچی کا مطبوعہ ہے۔ کتاب "خلافت معاویہؓ و یزید" نہ عقائد کی کتاب ہے کہ اس پر علم کلام اور اعتقادیات کی رو سے بحث کی جائے، نہ سراسر تاریخی اور علمی کتاب ہے کہ اسے اس نقطہ نظر سے پرکھا جائے اور نہ ہی بالکل مناظرہ و مجادلہ کے رنگ میں لکھی گئی ہے کہ پھر بحث و مناظرہ کی روش اختیار کی جائے، بلکہ یہ کتاب چند ایسے مضامین کا مجموعہ ہے جن میں نہ واقعات کی ترتیب کا لحاظ ہے نہ استدلال کا کوئی خاص رخ ہے اور نہ ہی واقعات و حقائق کو واقعات و حقائق کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے تذاہرات و مناقشات اور دوسرے واقعات کو ایک خاص ذہن و فکر اور ایک مخصوص نقطہ نظر سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس کتاب میں بڑی حد تک اس روشن خیالی عالی ظرفی اور آزاد روی کارنگ موجود ہے

جو آج کل تحقیق اور ریسرچ کے نام پر ظاہر کیا جاتا ہے جس میں نہ اسلاف کا لحاظ ہوتا ہے نہ مسلمات کی عظمت تسلیم کی جاتی ہے، نہ اپنے علمی و فکری سرمایہ کو اصلی حالت میں استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ روشن خیالی کے زعم میں صحابہ کرامؓ پر اپنی مخصوص رائے ظاہر کی جاتی ہے، علمائے اسلام اور محدثین و متکلمین کی ماسعی پر حرف گیری کی جاتی ہے اور قرآن و حدیث کے معانی و مطالب کو اپنے رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور تاریخی حقائق کو اپنے موافق بنانے کے لیے واقعات کو توڑا مروڑا جاتا ہے اور نہایت بے اصولی اور سطحیت کے ساتھ بحث کی جاتی ہے۔

اس کتاب کی حیثیت بالکل وہی ہے جو آواز و خیال اور منکرین حدیث کی کتابوں کی ہے۔ اس کتاب کو اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے جس سے اس قسم کی دوسری عامی اور سطحی کتابوں کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر چونکہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب پر تبصرہ اور اس کے جواب کے طور پر لکھی گئی ہے جو "الحسین" کے نام سے شائع ہوئی ہے جس کے مصنف ڈاکٹر ابوالنصر نے روشن خیالی اور تجدیدیت کا اظہار کیا ہے اور ایک خاص نقطہ نظر اور محور فکر متعین کر کے اس پر واقعات ڈھاننے کی کوشش کی ہے۔ ایسی کتاب پر تبصرہ اور اس کے جواب میں سطحیت کا آنا بعید نہیں بلکہ قرین قیاس ہے خاص طور پر ایسی حالت میں جبکہ مبصر پہلے سے اپنے ذہن و دماغ پر غلط باتوں اور بے جا پروپیگنڈہ کا بے پناہ بار محسوس کر رہا ہو اور اس کی طبیعت میں جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی ہو، یا وہ خاص حالات اور خاص تقاضوں کی بنا پر یہ محسوس کرنے لگے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یزید اور بنو امیہ کے بارے میں قرنا قرن سے ایک جماعت بہتان و افترا کی روش اختیار کئے ہوئے ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومیت

کا نام لے کر اسلام کے اوصاف و محاسن اور رجالِ اسلام کے فضائل و کمالات پر نہ صرف پردہ ڈال رہی ہے بلکہ ان کو نہایت برے رنگ میں پیش کر رہی ہے۔ اور یہ جماعت سیاسی طاقت حاصل کر کے اپنے ہفوات و مزعومات کو پورے عالم اسلام میں حقائق و مسلمات کے رنگ میں پیش کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس قسم کی باتوں کا رد عمل طبعی طور پر ایسا ہوتا ہے جس کا اظہار "خلافت معاویہ و یزید" نامی کتاب میں کیا گیا ہے۔

خصوصاً جب لکھنے والے کا ذہن معیاری نہ ہو، اپنے انداز تحریر میں طبعاً آزاد ہو، مسلمات و حقائق میں رنگ آمیزی کرتا ہو، اپنے مقصد کے لیے قدیم تاریخی سرمایہ کو بے اصل قرار دے کر اسی سے بعد کی لکھی ہوئی کتابوں کو اس طرح معتبر و مستند سمجھے کہ اپنے مقصد کی بات ان سے لے لے اور جو تصریحات اس کے نقطہ نظر کے خلاف پڑتی ہوں ان کو چھوڑ دے اور جن کتابوں کو غیر معتبر قرار دیتا ہو ان سے اپنے مطلب کے موقع پر بڑے حوصلے سے استدلال کرے اور جو کتابیں واقعی معتبر ہیں ان سے خاموشی اختیار کر کے بلا تکلف اپنا مقصد پورا کرتا ہو، اس کے انکار حدیث میں صرف اس کے فکری محرکات کام کرتے ہوں اور رواۃ حدیث و رجال سنن پر جرح و تنقید کرنے میں اس کا خاص مطلب کام کرتا ہو۔ مسئلہ شخصیتوں کی کتابوں سے اپنے ذوق کے مطابق ان کے جزوی مباحث کو اس طرح نقل کر دیتا ہو جیسے یہی باتیں ان کے مسلک کی ہیں۔

ظاہر ہے کہ جو شخص اس طریقے سے کوئی مقالہ یا کتاب لکھے گا اس میں اس کی وہی باتیں ہوں گی جن کو اس نے پہلے سے اپنا مطمح نظر بنا رکھا ہے وہ ان کو ثابت کرنے کے لیے ایڑھی چوٹی کا زور لگائے گا۔

اس لیے "خلافت معاویہ و یزید" نامی کتاب میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے

وہ مجموعی حیثیت سے صرف مؤلف کے ہیں۔ ان میں نہ براہ راست کسی خاص مکتب خیال اور جماعت کی ترجمانی ہے اور نہ براہ راست کسی خاص فرقہ اور مسلک کی مخالفت ہے۔ اس کتاب میں نہ اہل سنت و الجماعت کے صحیح موقف کی وضاحت ہے اور نہ شیعوں کی مخالفت ہے اور مجموعی طور پر ایک خاص شخص کے خیالات کی ترجمانی ہے۔ یہ کتاب اتنی اہم نہ تھی جس قدر کہ اسے ہنگامہ نے کر دیا ہے، بلکہ یہ ایک چلتی ہوئی کتاب ہے، مگر کچھ ہنگامہ پسند لوگوں نے اسے وہ شہرت اور اہمیت دی کہ اب ہر موافق و مخالف اس کے دیکھنے اور پڑھنے کا متمنی ہے۔

کچھ لوگوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر علماء دیوبند، دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کو گالیاں دینی شروع کیں۔ کچھ لوگوں نے اس کتاب کو آڑ بنا کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور بنو امیہ کو برا بھلا کہا۔ کچھ لوگوں نے اپنے کھوئے ہوئے بھرم کو واپس لانے کی فکر میں اس کتاب کے پردے میں لیڈری چمکانی چاہی اور کچھ بدنام لکھے پڑھے لوگوں نے اس کتاب پر تنقید کا نام لے کر اپنی اکھڑی ہوئی ساکھ بٹھانی چاہی۔ غرض یہ کتاب کیا نکلی یاروں کی بن آئی مگر کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ایسی کتابیں تو نکلا ہی کرتی ہیں اور پہلے بھی اس طرح کی باتیں لکھی اور کہی جا چکی ہیں ان پر توجہ دینا اور ان کی اہمیت ظاہر کرنا ان کو کامیاب بنانے کے مرادف ہے اور ان کو درخور اعتنا نہ سمجھنا اور ان سے اپنے افکار و خیالات کو دور رکھنا ان کی ناکامی ہے۔

جب اس کتاب پر ہنگامہ برپا کرنے والوں نے غلط روش اختیار کی اور اس کتاب کا واقعی جواب دینے کے بجائے بے جا شور و شر برپا کیا تو خیال ہوا کہ اس کے بارے میں جو کچھ معلوم ہے اسے نمونہ کے طور پر پیش کر دیا جائے اس سے ہمارا مقصد



نہ پوری کتاب کا جواب دینا ہے اور نہ فی الحال اس کی فرصت ہے۔ ہمارا تبصرہ ان شورش پسندوں کے لیے نہیں ہے جو اس کتاب کو آڑ بنا کر بزرگانِ دین، صحابہ کرام اور اسلاف کو برا بھلا کہنے پر اتر آئے ہیں نہ ان قصہ گوؤں اور واعظوں کے لیے ہے جن کو اس کے بہا۔ نے سے جلسوں میں عزت مل رہی ہے، نہ ان مسکینوں کے لیے ہے جو اس قسم کی گرمی پڑی کتابوں کو پڑھ کر عقل و ہوش کی حدود سے بہت آگے نکل جاتے ہیں اور جدت پسندی کے فیشن میں پڑ کر اس قسم کی باتوں کو اچھالنے میں مزا پاتے ہیں۔

مؤلف کی یہ کوشش بہت ہی محمود و مشکور ہوتی اگر وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یزید اور بنو امیہ کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کا پول کھولتے اور تاریخ کے خزانوں کو کھنگال کر ان کے مناقب و فضائل اور محاسن و کمالات کو یکجا کرتے اور امت کے سامنے اس سیاہ تصویر کا دوسرا روشن رخ پیش کرتے جسے زمانہ دراز سے شیعوں اور شیعہ ذہن سنیوں نے اپنے رنگ سے پر کیا ہے۔ ہم اس سلسلہ کی ادنیٰ کوشش کو بھی مع لغزشوں کے سراہتے کیونکہ یہ کام کرنے کا ہے اور اس کی سخت ضرورت ہے۔

مگر افسوس کہ مؤلف نے اپنے کو اس جادہ مستقیم پر نہیں رکھا، بلکہ بڑی دلیری اور بے باکی سے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وغیرہ کو جگہ جگہ گرا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور یزید اور بنو امیہ کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اور ان حضرات کو وہ سب کچھ بنا دیا ہے جو احادیث صحیحہ، واقعات معتبرہ اور حقائق مسلمہ کے سراسر خلاف ہے۔

## اسلامی تاریخ اور ائمہ علم و فن پر افترا

مؤلف نے سب سے پہلا اور سب سے شاندار جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے تمام نئے پرانے سرمایہ کو بے اصل، جعلی اور کذب و افترا کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ اور اس کے ثبوت کے لیے ایک ولندیزی مستشرق "دے خوے" کو سب سے بڑا سہارا بنایا ہے۔

آپ مقدمہ میں لکھتے ہیں،

"اموی دور کے تقریباً ایک صدی بعد سے جو مخصوص کتب حروب و اخلیہ کے بارے میں تالیف ہوئیں ان کے مؤلفین نے جو کلیتہً خاص ذنیت کے حامل تھے، نیز مورخین سابقین نے اس عہد کے حالات قلم بند کرنے میں نہ صرف بخل و نا انصافی سے کام لیا ہے بلکہ خاص خاص واقعات کو وضعی روایات کی بناء پر اس درجہ مسخ کر کے پیش کیا کہ دے خوے جیسے آزادو بے لاگ محقق کو بھی کھنا پڑا کہ لخ (ص- ۶)

پھر آپ نے بعد کے تمام تاریخی سرمایہ کو بے اصل اور ناقابل اعتبار قرار دیتے ہوئے کہا ہے:-

"کذب بیانیوں کی یہ حالت الا ماشاء اللہ برابر قائم رہی، صدیوں پر صدیاں گزرتی گئیں۔ نامور سے نامور مورخ عہد بہ عہد پیدا ہوتے رہے۔ مبسوط سے مبسوط کتب تاریخ مرتب و مدون کر کے پردہ عدم میں روپوش ہوتے رہے۔ مگر بقول "دے خوے" سچ کو جھوٹ سے تمیز کرنے یا وضعی روایتوں اور مبالغات کو جو کتب تاریخ میں مذکور ہیں نقد و روایت سے جانچنے کی کوشش سوائے علامہ ابن خلدون کے کسی اور مورخ نے

نہیں کی۔ خصوصاً ابتدائی دورِ اموی کے بعض مشہور واقعات کے اغلاق و مبالغات کے بارے میں روایت پرستی کی اس زمانہ میں ایسی وبا پھیلی کہ متاخرین بیشتر اپنے پیش رو مورخین سے نقل در نقل کرنے پر اکتفا کرتے رہے۔" (ص-۷)

آپ نے ایک کتاب تالیف کرنے کا ارادہ کیا فرمایا کہ اسلام کے پورے دور کی تاریخ پر سیاہی پھیر دی۔ اور تمام مورخوں کو اپنی تحقیق کے سامنے روایت پرست، جعل ساز، کاذب مضمری اور غیر معتبر قرار دے دیا۔ اور آپ کے نزدیک اسلامی مورخوں میں سوائے علامہ ابن خلدون اور کچھ امام ابن تیمیہ اور امام غزالی اور بعض دیگر ائمہ کے سب کے سب جھوٹے اور کذاب ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ آپ اپنی کتاب کے لیے اتنا بڑا کام نہ کرتے۔ اب ذرا دیکھئے اپنے کو ناقد بنانے کے لیے آپ نے کیسے کیسے ائمہ علم و فن اور محدثین و مورخین کو بگاڑنے کی سعی فرمائی ہے اور آپ کی تحقیقی مار کہاں کہاں تک پہنچی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:-

"تاریخ کا منشا روایات کا انبار لگانا نہیں ہے اور نہ یہ جو طبری، واقدی، مسعودی اور سیوطی وغیرہ نے اختیار کیا کہ جو روایت جہاں سے ملی ٹانک دی"۔ (ص-۴۴)

آگے چل کر فرماتے ہیں:-

"یہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ، یہ محمد بن سائب کلبی اور اس کا بیٹا بشام اور اسی قماش کے دوسرے مضمری اور کذاب لوگوں نے ہماری تاریخ کو مسخ کر دیا اور طبری جیسے لوگوں نے اپنے دلوں کی بیماری کو پوشیدہ رکھ کر ان مضمریوں اور کذابوں کا تمام سرمایہ امت کو گمراہ کرنے کے لیے جمع کر دیا۔ اور جو لوگ شیخ جلال الدین سیوطی کی طرح حاطب اللیل ہیں، یعنی اندھیری رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کہ کچھ بہتہ نہیں

چلتا کہ کام کی لکڑی آئی یا بیکار وزہریلی، انہوں نے ”تاریخ الخلفاء“ جیسی کتابیں لکھ کر  
 اخلاف کو اسلاف سے بدظن کرنے کا سامان فراہم کر دیا۔ اور یوں اکثر لوگوں کے  
 فکر و نظر پر مکذوب روایتوں کے پردے پڑتے گئے۔“ (ص-۳۷)

حضرت امام ابن جریر طبری کو دو جگہ کذاب و مفتری اور مریض قلب قرار  
 دینے سے تسلی نہیں ہوئی تو مزید لکھا:-

”ابن جریر طبری علامہ وقت تھے، لیکن روایت پرستی کی بناء پر یا اپنے خاص  
 مسلک کی وجہ سے ابو مخنف کی کتاب کا شاید کل مواد بغیر کسی تنقید کے نقل کر دیا، ان  
 علامہ زماں کا ارشاد ملاحظہ ہو فرماتے ہیں ”لخ (ص-۱۲۱)  
 ایک اور جگہ حضرت امام طبری کے بارے میں لکھا:-

”اس عہد کی تاریخ کو مسخ کرنے والے یہی سبائی رواۃ اور سبائی مؤلفین ہیں جن  
 کی وضعی روایتوں اور تالیفات کے اقتباسات کو سب سے پہلے مورخ طبری نے بلا کسی  
 تنقید کے اپنی کتاب میں نقل کر دیا اور طبری سے اس کے بعد آنے والے مورخین  
 نے“۔ (ص-۲۳۹)

مزید فرماتے ہیں-

”سانحہ کربلا کے اولین راوی و مؤلف کتاب ”مقتل حسینؑ بن علیؑ“ نے بیان  
 کیا اور قدیم مورخین خاص کر طبری نے بغیر کسی تنقید کے اس طور سے نقل کر دیا ہے  
 جس پر نقل راجح عقل ”کی مثال صادق آتی ہے“۔ (ص ۱۱۸، ۱۱۹)

حضرت امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کو بار بار خالیوں، کذابوں اور مفتریوں  
 کے زمرے میں شمار کیا ہے، مگر آگے چل کر بڑی جسارت سے ان کو کھل کر شیعی مورخ

بنا دیا۔ ملاحظہ ہو:-

"طبری جیسے شیعہ مورخ کا بھی یہ بیان ہے"۔ (ص-۲۷)

اس کے بعد ہے کہ:-

"شیعی مورخ طبری نے بھی امیر یزید کے امیر الحج ہونے کا تذکرہ کیا ہے" (ص-۳۰)

ایک جگہ لکھا ہے:-

"طبری جیسے شیعہ مورخ نے بھی لکھا ہے کہ الخ"۔ (ص-۲۳۳)

ایک اور جگہ ہے:-

"اس قطعہ اشعار کو شیعہ مورخ طبری نے بھی درج کیا ہے"۔ (ص-۷۴)

"خلافت معاویہ و یزید" کے مؤلف نے حضرت امام ابن کثیر صاحب تفسیر ابن کثیر "اور" صاحب البدایہ والنہایہ "کو بھی نہیں بخشا اور ان کو بھی ان ہی ائمہ دین کے زمرے میں لانے کی کوشش کی ہے جن کو کذاب و مفری اور ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو:-

"ایک اور علامہ وقت، مورخ و محدث ابن کثیر کا ارشاد بھی ملاحظہ ہو،"

جنہوں نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا ہے کہ ابو مخنف کی روایتیں قابل اعتبار نہیں، لیکن ابن جریر طبری جیسے ائمہ نے چونکہ ان کو درج کر دیا ہے، اس لیے ہم بھی نقل کیے دیتے ہیں۔" (ص-۱۴۳)

مؤلف نے اپنی کتاب میں جس جرأت و بہادری کا ثبوت دیا ہے اس کا تقاضا تھا کہ پہلے اسلامی تاریخ و روایت کا قصر معلی مسمار کر دیا جائے اور اس کے جتنے ستون ہیں ان کو ایک ایک کر کے گرا دیا جائے پھر اس کے ملبہ پر یہ نئی بنیاد ڈالی جائے۔ اسی

جرات مندی نے ابو مخنف، محمد بن سائب کلبی، ہشام کلبی کے ساتھ ساتھ حضرت امام، محدث، فقیہ، مورخ، مفسر، ابن جریر طبری جیسے عظیم المرتبہ مسلم امام اسلام کی شان میں گستاخی کی۔ امام مسعودی جیسے ثقہ اور مسلم مورخ کو مجروح قرار دیا اور امام حدیث اور مفسر و مورخ حضرت امام ابن کثیر دمشقی پر کپڑا اچھالی اور امام جلال الدین سیوطی کو حاطب اللیل لکھا۔

آپ جیسے صرف ایک ہی مورخ و محقق کے لیے یہ کسی طرح زبنا نہیں کہ اپنی اسی کتاب کا اکثر و بیشتر حصہ آپ امام طبری کی تاریخ اور امام ابن کثیر کی "تاریخ البدایہ و النہایہ"، علامہ مسعودی کی "تنبیہ الاشراف" وغیرہ سے مرتب کریں اور اپنے مطلب کی تمام روایات کو بلا تکلف نقل کریں اور جہاں آپ کے مطلب کی بات نہ ملے یا آپ کے مزعومات سے ٹکراؤ ہو وہاں ان بزرگوں کو "غالی مصنف" "کذاب و مفتری و شیعہ" قرار دیں، اگر یہ کتابیں بقول آپ کے کذب و افتراء سے پر ہیں اور ان کے مصنفین "کذاب و مفتری اور شیعہ" ہیں تو آپ کو صرف علامہ ابن خلدونؒ، امام ابن تیمیہؒ اور امام غزالیؒ نیز ان جیسے بعض دیگر آئمہ کی کتابوں سے کام چلانا چاہیے تھا، کیا مزے کی بات ہے کہ ان آئمہ علم و فن کو آپ بری طرح مجروح بھی کرتے ہیں اور پھر ان ہی سے استدلال کر کے ان کی توثیق بھی فرماتے ہیں۔ البتہ جہاں آپ کا مفروضہ بگڑنے لگتا ہے وہاں ان بزرگوں پر مزید افتراء پردازی کر دیتے ہیں۔ پھر بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ بعض جگہ آپ خاص طور سے ان بزرگوں کی تصدیق و توثیق فرماتے ہیں، مثلاً:-

"مورخ ابی الحسن بن مسعودی متوفی ۳۸۶ھ جن کی دو تالیفات "مروج الذهب"

اور "تنبیہ" باقی ہیں۔ بڑے پایہ کے مورخ اور امام فن تھے۔" (حاشیہ ص-۲، ۳-)

آپ ان ہی امام مسعودی کو صفحہ ۴۴ پر غیر معتبر قرار دے چکے ہیں، اب یہاں پر یہی بڑے پایہ کے مورخ اور امام فن کیسے بتائے گئے؟

پھر اس سلسلہ میں مزید پر لطف بات یہ ہے کہ جن علامہ ابن خلدون کو آپ اسلام کا پہلا حقیقی مورخ گردانتے ہیں اور ان کی تقلید پر آپ کو پورا اطمینان ہے وہ ان بزرگوں کو فن تاریخ میں "امامت معتبرہ" اور فضیلت شہرت "کامالک" قرار دیتے ہیں، مگر آپ نے خیانت کرتے ہوئے علامہ ابن خلدون کی اس تصریح کو پیش نہیں کیا اور اسی سے متصل عبارت کو اپنے مطلب کے مطابق نقل کر کے خاموش ہو گئے۔ ناظرین کرام علامہ ابن خلدون کی تصریح ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ موصوف غیر معتبر راویوں اور مورخوں کی حالت بیان کرنے کے بعد معاً فرماتے ہیں:-

وَالَّذِينَ ذَهَبُوا بِفَضْلِ الشَّهْرَةِ وَالْإِمَامَةِ الْمَعْتَبَرَةِ وَاسْتَفْرَعُوا دَوَائِبَ مِنْ قَبْلِهِمْ فِي صَحْفِهِمُ الْمَتَاخِرَةَ هُمْ قَلِيلُونَ لَا يَكَادُونَ يَجَازُونَ عِدَدَ الْإِنَامِلِ وَلَا حَرَكَاتِ الْعَوَامِلِ مِثْلَ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَالطَّبْرِيِّ وَابْنِ الْكَلْبِيِّ وَمُحَمَّدِ ابْنِ عُمَرَ الْوَاقِدِيِّ وَسَيْفِ بْنِ عُمَرَ الْأَسَدِيِّ وَالْمَسْعُودِيِّ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمَشَاهِيرِ. الْمَتَمِيزِينَ عَنِ الْجَمَاهِيرِ وَانْ كَانُ فِي كِتَابِ الْمَسْعُودِيِّ وَالْوَاقِدِيِّ مِنَ الْمَطْعَنِ وَالْمَغْمَزِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الْإِثْبَاتِ وَمَشْهُورِينَ الْحَفِظَةَ وَالثَّقَاتِ إِلَّا أَنْ الْكَافَةَ اخْتَصَّتْهُمْ بِقَبُولِ أَخْبَارِهِمْ لَخْ"

(مقدمہ ابن خلدون ص ۳)

ترجمہ۔ "اور جو لوگ شہرت کی فضیلت اور امامت معتبرہ کے وارث ہوئے اور

انہوں نے اپنے پہلے لوگوں کی کتابوں کو اپنی پہلی تصنیفات میں جمع کیا، وہ تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہیں۔ جیسے محمد بن اسحاق، طبری، محمد بن سائب کلبی، محمد بن عمر الواقدی و سیف بن عمر الاسدی، المسعودی اور دوسرے مشاہیر جو جمہور مورخین سے ممتاز ہیں۔ اگرچہ مسعودی اور واقدی کی کتابوں میں طعن و تعریض کی ایسی باتیں ہیں جو ثقہ لوگوں کو معلوم ہیں اور حفاظ و ثقات میں مشہور ہیں اس کے باوجود کافہ اہل علم نے ان کی روایات و اخبار کو خاص طور سے قبول کیا ہے۔“

اگر علامہ ابن خلدون پر آپ کو اعتماد ہے جیسا کہ آپ بار بار اس کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں تو پھر آپ کو کم از کم طبری، محمد بن سائب کلبی اور مسعودی کو معتمد اور ثقہ مورخ یا نسا چاہیے، جب علامہ ابن خلدون جیسے تاریخی ناقد و مبصر نے ان بزرگوں کو فن تاریخ میں "شہرت کی فضیلت" اور "معتبر امامت و سیادت" کی سند دی ہے تو آپ کو ان پر اعتماد کر لینا چاہیے، جیسا کہ امام ابن کثیر نے "البدایہ والنہایہ" میں امام طبری وغیرہ وغیرہ کی امامت و سیادت کا احترام کرتے ہوئے ان کی روایات کو درج کیا ہے اور آپ نے خود ہی اپنی کتاب کے صفحہ ۷ پر ان کا یہ قول نقل کیا ہے:-

ولولا ابن جریر وغیرہ من الحفاظ والائمة ذکروه ماسقتہم (البدایہ والنہایہ ص ۲۰۳، ج ۸)  
ترجمہ۔ "اور اگر ابن جریر طبری وغیرہ جیسے حفاظ حدیث و ائمہ تاریخ اس کو ذکر نہ کرتے تو میں بھی اسے بیان نہ کرتا۔"

مگر آپ جیسا جریر ناقد و مبصر ان بزرگوں پر اعتماد کرنے میں علامہ ابن خلدون کی بات کو تسلیم کیا کرے گا، آپ تو امام ابن کثیر پر اس لیے طعن و تشنیع کر رہے ہیں کہ انہوں نے ائمہ تاریخ اور حفاظ حدیث کی روایتوں پر اعتماد کیا ہے (ملاحظہ ہو۔ ص ۱۲۲)



مؤلف نے علامہ ابن خلدون کی امامت و ثقافت واضح فرماتے ہوئے بڑی دل سوزی سے اس امر کا اظہار کیا ہے:-

"تنہا وہی ایک مورخ ہیں جنہوں نے دیگر وضعی روایات کی طرح سانحہ کربلا کی موضوعات کو اس معیار سے جانچنے کی کوشش کی تھی جس کی پاداش میں ان کی کتاب کے تمام نسخوں سے صرف یہی تین ورق (یعنی چھ صفحے) جو اس حادثہ کے بارے میں تھے ایسے غائب ہوئے کہ آج تک کسی فرد بشر کو چار دانگ عالم میں دستیاب نہ ہو سکے"۔ (عرض مؤلف ص-۸)

ان تین ورق کے غائب ہونے کا علم غالباً آپ کو ترجمہ تاریخ ابن خلدون کے مترجم کی تصریح سے ہوا ہے جیسا کہ انہوں نے حاشیہ میں لکھا ہے:-

"اس مقام سے مضمون تاریخ کامل ابن اثیر جلد چہارم اور تاریخ الخلفاء و معارف ابن قتیبہ و عقد الفرید و غیرہا سے اخذ کیا گیا ہے۔ اصل کتاب میں تین ورق سادہ ہیں۔" مترجم۔ (حاشیہ ترجمہ تاریخ ابن خلدون ج ۵، ص-۷۷)

اس کے بعد مترجم نے صفحہ ۷۷ اور صفحہ ۷۲ تک اضافہ کیا ہے۔ غالباً مؤلف نے اس کتاب کی اسی جلد میں صفحہ ۴۳ پر بھی "یزید کی ولی عہدی کے سلسلے میں مترجم کا یہ حاشیہ بھی دیکھا ہوگا:-

"اصل کتاب میں اس مقام پر خالی جگہ چھوٹی ہوئی ہے۔ شارحین کی عبارت میں

نے تاریخ کامل ابن اثیر جلد سوم صفحہ ۳۵۳ سے ترجمہ کر کے لکھی ہے"۔ (حاشیہ ص-۴۳)

اس کے بعد مترجم نے صفحہ ۴۳ سے صفحہ ۵۰ تک اضافہ کیا ہے۔ نیز اس

جلد میں صفحہ ۱۰ پر اصل کتاب میں جگہ چھوٹی تھی، مترجم نے اسے پر کیا ہے، اسی

طرح صفحہ ۳۸ پر اصل میں جگہ خالی تھی اور مترجم نے "مروج الذهب" سے اضافہ کیا

ہے۔ اسی جلد میں صفحہ ۵۴ پر بیاض تھی جسے مترجم نے پر کیا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ علامہ ابن خلدون نے اپنی بے نظیر تاریخ میں بعض مقامات پر بیاض چھوڑ دی تھی۔ اس خیال سے کہ اس جگہ کو تحقیق و تلاش کے بعد پر کر دیا جائے گا، مگر وہ جگہ پر نہ ہو سکی، یہاں تک کہ ۸۰۸ھ میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی تاریخ کے تمام نسخوں میں ان جگہوں پر بیاض ہی رہ گئی۔ جیسا کہ بہت سی کتابوں میں بیاض ہوتی ہے اور طبع کرتے وقت کچھ جگہ چھوڑ کر حاشیہ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ "فی الاصل بیاض" یہ سمجھنا بڑی نادانی ہے کہ تاریخ ابن خلدون کے دنیا بھر کے نسخوں سے اور اق غائب کر دیے گئے۔ علامہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ لکھنے کے بعد مشرق کا سفر کیا۔ اور حج و زیارت ادا کرنے کے بعد مشرق کے ملوک عجم اور ترک ممالک کے حالات کو اپنی کتاب میں درج کیا۔ مقدمہ میں فرماتے ہیں:-

"ثم كانت الرحلة الى المشرق (الى ان قال) فزدت مانقص من اخبار ملوك العجم بتلك الديار و دول الترك فيما ملكوه من الاقطار و اتبعت بها ماكتبته في تلك الاسطار." الخ (مقدمہ ص ۵)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ علامہ ابن خلدون نے تاریخ مرتب کرنے کے بعد مشرق کے ممالک کا سفر کیا اور اس کے بعد کتاب میں جگہ جگہ اضافہ کیا۔ کتاب میں اضافہ کرنے کے بعد اس کا ایک نسخہ علامہ ابن خلدون نے سلطان مغرب امیر المومنین ابو فارس عبد العزیز مرینی کے کتب خانہ میں ہدیہ پیش کیا۔ یہ کتب خانہ سلاطین بنی مرین کی طرف سے شہر فارس کی جامع قزوین میں طلبہ پر وقف تھا۔

اتحفت بهذه نسخة منه خزانة مولانا السلطان (الى ان قال) وبعثت الى خزانتهم الموقفة لطلبة العلم بجامع القزوین من مدينة فارس حضرة ملكهم

وکرسی سلطانہم الخ۔ (مقدمہ ص-۶)

اس مقام پر حاشیہ میں ہے کہ ایک مغربی نسخہ کی عبارت میں زیادتی ہے جس میں ہے کہ میں نے اس کتاب کو امیر المومنین ابو یحییٰ ابو بکر (مؤحدین) کی خدمت میں پیش کیا اور یہ مغربی نسخہ ابو فارس کے کتب خانہ والے نسخے سے مختصر ہے۔

(حاشیہ ص-۷۷۶)

ان باتوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ تاریخ ابن خلدون میں خود مصنف نے کچھ مقامات خالی چھوڑے تھے اور بعد میں اضافے کئے اور اس کا ایک نسخہ سلطان فارس کے کتب خانہ میں رکھا جو مغرب کے سب سے بڑے علمی مرکز فارس کی جامع قرؤین میں طلبہ کے لیے وقف تھا، نیز اس کا ایک نسخہ سلاطین مؤحدین میں سے سلطان ابو بکر کی خدمت میں پیش کیا اور اس کے نسخوں میں بعض مقامات پر عبارتوں میں کمی زیادتی پائی جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نسخے سے کسی نے کوئی حصہ نکال دیا ہوتا تو دوسرے نسخوں میں اس جگہ وہ عبارت ضرور ہوتی۔

واقعہ یہ ہے کہ تاریخ ابن خلدون کے بیاضات خود علامہ ابن خلدون کے ہیں۔ اور علامہ ان کو اپنی زندگی میں یا فرصت نہ پانے کی وجہ سے یا تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پر نہ کر سکے۔

ایک طرف تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے متعلقین کے معاذ اللہ مثالب و معائب ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے اساطینِ علم و فن کو بری طرح مجروح قرار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف یزید اور اس کے طرفداروں کے مناقب و فضائل کو اجاگر کرنے کے لیے گرمی پڑھی بے اصل مجہول اور غیر معتبر کتابوں سے اور ان کے مصنفوں سے

بری طرح استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ کون سی تحقیق ہے اور اس کا مطلب کیا لیا جائے گا؟  
اس سلسلہ میں چند کتابوں کی نشاندہی بہت ضروری ہے۔ "اللامۃ والسیاستہ"  
کے متعلق آپ کا ارشاد بجا ہے کہ "اللامۃ والسیاستہ جیسی کتاب میں جو کہ غالی مؤلف  
نے شرارت سے امام الفقیہہ ابی عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری متوفی ۶۷۶ھ  
سے محض غلط منسوب کر دی ہے"۔ (ص-۱۵)

پھر اس لغو بے اصل اور غیر متعبر کتاب سے آپ جگہ جگہ "غالی مؤلف" سمجھ کر  
اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ کیا ایک محقق کے لیے کسی طرح اس کتاب کو دلیل میں لانا کسی  
حیثیت سے جائز ہے؟ جبکہ اس کے اندر نہایت بے سروپا باتیں درج ہیں اور واقعی یہ  
امام ابن قتیبہ کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اس کے مصنف نے  
ان لوگوں سے استفادہ کیا ہے جو فتح اندلس ۹۲ھ میں موجود تھے۔ اور یہ کہ موسیٰ بن  
نصیر نے ہارون رشید کے زمانے میں مراکش کی جنگ کی، حالانکہ ابن قتیبہ کا انتقال  
۳۷۶ھ میں ہوا۔ اور مراکش شہر ۲۵۴ھ میں سلطان مرا بطین یوسف بن تاشفین کے  
زمانے میں آباد کیا گیا۔

"الامامہ والسیاستہ" میں جب اس قسم کی غلط باتیں درج ہیں تو پھر اس سے  
استناد کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ خصوصاً آپ جیسے مورخ و ناقد کے لیے جو امام طبری و  
مسعودی و ابن کثیر وغیرہ تک کو غیر معتمد، کذاب و مفتری قرار دیتا ہے۔

آپ نے اپنی کتاب میں جگہ جگہ ابو الفرج اصفہانی کی کتاب "اللائعانی" سے  
استفادہ کیا ہے۔ معلوم نہیں "اللائعانی" جیسی گانے بجانے اور قصہ کہانی کی کتاب کس  
طرح آپ کے نزدیک معتبر و مستند بن گئی، جبکہ اسے یہ حیثیت کسی طرح حاصل نہ  
ہونی چاہیے۔ اور امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ابو الفرج اصفہانی کو غیر ثقہ

قرار دیا ہے۔ کیا ان کو "غالی مصنف" کہہ دینے کے بعد اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔  
 نیز آپ نے جگہ جگہ "العقد الفرید" سے بھی استفادہ فرمایا ہے۔ معلوم  
 نہیں محاضرات و مسافرات اور ادبی و علمی غرائب و لطائف کی یہ کتاب آپ کے نزدیک  
 تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، وغیرہ سے زیادہ معتبر کیسے قرار پاگئی؟  
 "کتاب الحجر" اور اس کے مصنف کو آپ نے اپنے مطالب کے لیے خوب  
 خوب استعمال کیا ہے اور ان کے بارے میں ایک حرف تنقید کا نہیں فرمایا، بلکہ ایک  
 جگہ ان کی ثقافت و اہمیت کو یوں واضح فرمایا ہے:-

"علامہ ابو جعفر محمد بن حبیب الهاشمی متوفی ۳۲۵ھ نے اپنی تالیف کتاب الحجر میں"  
 (ص-۳۱۷)

اس کے بعد کتاب میں حسب مطلب جگہ جگہ اس کتاب سے سند پکڑ کر اسے ثقہ و  
 صحیح مانا ہے، حالانکہ کتاب الحجر کے اندر جگہ جگہ اس کے مصنف کی شیعیت اور رخص  
 نمایاں ہے اور ناشر نے اس کے مقدمہ میں بھی اسے واضح طور سے بیان کر دیا ہے۔ اہل  
 سنت کے بڑے بڑے علماء کو آپ نے غالی مصنف، کذاب و مفتری اس لیے گردانا  
 ہے کہ ان کی تصریحات بعض جگہ آپ کے مفروضہ کے خلاف ہیں۔ اور "کتاب الحجر"  
 اور اس کے مصنف کو آپ نے اس لیے سینے سے لگا لیا ہے کہ اس میں آپ کے مطلب  
 کی باتیں مل جاتی ہیں۔ کیا آپ جیسے کٹر محقق کے لیے ایسی کتاب کے بارے میں  
 خاموش رہ کر استفادہ کرنا جائز ہے؟

امام قاضی ابو بکر بن عربی اندلسی مالکی کی کتاب "العواصم من القواصم" کے  
 بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ اس کتاب کا حوالہ مورخ ابن خلدون نے اپنے شہرہ آفاق  
 "مقدمہ تاریخ" میں ولایت العہد کی بحث کے سلسلہ میں دیا ہے۔ قاضی موصوف نے اپنی

اس تالیف میں ان اکاذیب کی پوری قلعی کھولی ہے جو رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد صحابہ کرامؓ کے مواقف و مشاہدات کے بارے میں وضع ہوئے۔ (حاشیہ - ۳۰۳)

جو مقدمہ ابن خلدون ہمارے پیش نظر ہے اس کے صفحہ ۸۱ پر علامہ ابن خلدون نے اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے، مگر کس موقع پر اور کس طرح؟ اسے بڑھی چالاکی سے مؤلف چھپالے گئے ہیں کہ اس کے ظاہر کرنے میں ان کا گھروند اگڑ جاتا۔ اور علامہ ابن خلدون کی تصریح سے جن کو وہ تمام مورخین سے مستند اور ثقہ قرار دیتے ہیں، ان کی کتاب کا سارا مضمون ہی بیکار ہو جاتا۔ ناظرین کرام ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں:-

وقد غلط القاضي ابو بكر بن العربي المالكي في هذا فقال في كتابه الذي سماه "بالعواصم والقواصم" مامعناه ان الحسين قتل بشرع جدّه وهو غلط حملته عليه الغفلة عن اشتراط الامام العادل ومن اعدل من الحسين في زمانه في امامة وعد الة في قتال اهل الآراء. (مقدمه ابن خلدون ص ۱۸۱)

ترجمہ:- ”اور قاضی ابو بکر بن عربی مالکی اس بارے میں غلطی پر ہیں۔ اور اپنی کتاب ”العواصم والقواصم“ میں اس مضمون کی بات لکھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے نانا کی شریعت کی رو سے قتل ہوئے۔ ابن عربی کو اس غلطی پر امام عادل کی شرط کے بارے میں غفلت نے ابھارا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اہل آراء سے جنگ کرنے کے بارے میں ان سے بڑھ کر اور کون شخص امامت و عدالت کا مستحق ہو سکتا تھا۔“

آپ تو حضرت حسینؓ کو باغی قرار دے کر ان کے قتل کو ان کی سزا بتا رہے ہیں اور سانحہ کربلا کے معاملہ میں سب سے زیادہ معشہر علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کو مان

رہے ہیں، اور قاضی ابو بکر بن عربی رحمہ اللہ کی کتاب کو بھی معیاری بتاتے ہیں، مگر علامہ ابن خلدون کی تصریح کی رو سے امام ابو بکر بن عربی اس مسئلہ میں غلطی پر تھے، جیسا کہ علامہ ابن خلدون نے اسے صاف بیان کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہیدِ مثاب اور برحق ہونے کی علی الاعلان گواہی دی ہے۔

آپ ان حقائق کو چھپا کر علامہ ابن خلدون اور امام ابو بکر بن عربی کو اپنا بڑا تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تحقیق نہیں بلکہ تدلیس و تزویر ہے۔

آپ نے رعب جمانے کے لیے اپنی کتاب کے ماخذوں کا ذکر کرتے ہوئے اتنی کتابوں کے نام گنائے ہیں، حالانکہ ان میں سے بہت سی ایسی ہیں کہ ان سے کتاب میں شاید ہی کسی جگہ مدد لی گئی ہو۔ مثلاً السنجد کا حوالہ اس کتاب میں بلاوجہ ہے۔ ایک جگہ کر بلا کی تحقیق کے سلسلہ میں اس کا نام آیا ہے، اسی طرح مکاتیب شیخ الاسلام مدنی رحمہ اللہ کا ایک غلط حوالہ نقل کر کے اسے بھی ماخذوں میں شمار کرنا رعب جمانے ہی کے لیے ہے۔

اسی طرح بہت سی کتابوں کے نام صرف نام آوری اور پڑھنے والوں کو مرعوب کرنے کے لیے درج ہیں۔ تحقیق اور ریسرچ کا مزاج اس طرح کے پروپیگنڈے سے بہت دور ہوتا ہے اور اس سے خرابی ذہن کا پتہ چلتا ہے، نیز آپ جو کتاب میں جگہ جگہ اسلامی مورخوں سے ہٹ کر دے خوے، ڈوزی، گبن اور دوسرے غیر مسلم مستشرقین کا نام لیتے ہیں اور ان کی کتابوں اور انسائیکلو پیڈیا کے اقتباسات نقل کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی تحقیق کا فیشن ہے اور روشن دماغی کا مظاہرہ ہے۔

کیا لطف کی بات ہے کہ جو شخص اپنے مورخوں اور اماموں کو غلط قرار دیتا ہے وہ یورپ کے متعصب مصنفوں کو حجت مانتا ہے۔ وہ بھی مسلمانوں کے باہمی اختلافات

کے سلسلے میں۔

ہم تاریخی روایات کو اخبارِ متواترہ اور اخبارِ صحاح نہیں کہتے بلکہ ان کو قابلِ نقد سمجھتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ بہت سے مورخوں نے اپنے اپنے دور کے حالات کے مطابق تاریخ میں قطع و برید کی ہے اور بہت سے واقعات کو ان کے اصلی رنگ میں پیش نہیں کیا۔ اور اس میں واقعہ کربلا، صحابہ کرام کے مشاجرات اور بنو امیہ کے موافق و مخالف بیانات بھی بڑھی حد تک شامل ہیں۔

مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسلامی تاریخ و رجال کا سارا ناز خاک میں ملادیا جائے اور مسلمانوں کے اس شاندار کارنامے کو بلیا میٹ کر دیا جائے، جس پر دنیا کے سارے مذاہب اور تمام اقوام رشک کر رہی ہیں۔

## اس کتاب کا اصلی ماخذ

شیخ الاسلام امام تقی الدین احمد بن تیمیہ متوفی ۷۲۸ھ کی معرکہ آرا کتاب "منہاج السنۃ" چار جلدوں میں مصر میں چھپی ہے۔ آپ کے ایک معاصر شیعہ حسن بن یوسف بن علی بن مطہر حلی متوفی ۷۲۶ھ نے حضرات صحابہ کرام اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم ورحمہم اللہ کے مطاعن و مثالب میں ایک کتاب لکھی تھی۔ امام صاحب نے نہایت محققانہ انداز میں ابن مطہر حلی کی کتاب کا رد لکھا ہے۔ اور اس کا بخیر ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اس کتاب میں امام ابن تیمیہ نے مناظرانہ رنگ پر اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ہمیں تحقیقی جواب دیا ہے، کہیں الزامی جواب دیا ہے اور کہیں مخالف کے نظریہ کی بنا پر جواب دیا ہے۔ اس کتاب سے بھی مولف کتاب "خلافت معاویہ ویزید" نے بہت غلط طریقہ پر اپنے منشاء کے مطابق اقتباسات لیے ہیں۔



"منہاج السنۃ" کا مختصر خلاصہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے "المنتقی" کے نام سے لکھا ہے جو مصر میں شیخ محب الدین الخطیب کے حواشی اور مقدمہ کے ساتھ ۱۳۷۴ھ میں چھپا ہے۔ اس کتاب میں جگہ جگہ انہوں نے نوٹ اور حواشی کا اضافہ کیا ہے ان ہی حواشی کو مصنف نے اپنی کتاب کا اصل موضوع بنایا ہے اور بغیر نام بتائے اور کسی قسم کی نشاندہی کئے ان کی تمام کاوش کو اپنی علمی اور تحقیقی کاوش ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جب ہم نے "المنتقی" اور اس کے ان حواشی کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ "خلافت معاویہ ویزید" کے محقق مؤلف نے ان ہی حواشی کا ترجمہ اور چربہ لے لیا ہے۔

ہم ذیل میں چند مباحث کی نشاندہی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کتاب "خلافت معاویہ ویزید" کی خاص خاص باتیں جن کو مؤلف نے اپنی کاوش کا نتیجہ بتایا ہے۔ وہ "المنتقی" کے ان حواشی میں کہاں کہاں موجود ہیں۔ اور مصنف نے ترجمہ کر کے ان پر اپنا حق ظاہر کیا ہے۔ ان مقامات کو دونوں کتابوں سے نکال کر جس کا دل چاہے ملائے۔

"خلافت معاویہ ویزید" کے مؤلف نے صفحہ ۳۴۴ اور صفحہ ۳۴۵ پر حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پر جو کچھ لکھا ہے وہ سب کا سب "المنتقی" کے حاشیہ صفحہ ۵ سے ماخوذ ہے۔

حضرت امام ابن تیمیہ نے سفینہ رضی اللہ عنہا کی حدیث "خلافة النبوة ثلاثون سنة" کو منہاج السنۃ میں جگہ جگہ بیان کیا ہے، مگر محشی نے ان کے علی الرغم اس میں کلام کیا ہے اور اسی کو ہمارے مؤلف نے نقل کر دیا ہے۔

صفحہ ۲۲ سے ۲۶۲ تک بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان قرابتوں کا بیان

"المنتقى" کے حاشیہ صفحہ ۱۸۶ اور ۱۸۷ کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت و امارت کے بارے میں مصنف نے جن اقوال و تصریحات کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے ان تمام کا ماخذ "المنتقى" کے حواشی صفحہ ۲۹ سے اور صفحہ ۲۳۱ سے ۲۳۴ تک ہیں۔

یزید کی امارت کی اہلیت و قابلیت کے بارے میں مؤلف نے جو کچھ لکھا ہے وہ "المنتقى" کے حاشیہ صفحہ ۲۸، ۱۸۱، ۲۰۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، کا چرہ ہے۔ نیز صفحہ ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵ کے حواشی سے یزید کے فضائل و کمالات کو نقل کیا ہے۔ جن میں کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ یہ تمام باتیں بیان کی گئی ہیں۔

ابو مخنف، محمد بن سائب کلبی، ہشام بن محمد کلبی وغیرہ کے بارے میں جو کچھ مصنف نے لکھا ہے اس کا ماخذ بھی "المنتقى" کے صفحہ ۲۱ اور ۳۱۸، ۳۱۹ کے حواشی ہیں۔

اس طرح کتاب "خلافت معاویہ و یزید" کی اکثر باتیں "المنتقى" کے ان ہی حواشی کا چرہ ہیں۔ نیز اسی محشی و ناشر نے قاضی ابو بکر بن العربی مالکی کی کتاب "العواصم من القواصم" اسی قسم کے حواشی کے ساتھ شائع کی ہے۔ مصنف نے ان حواشی سے بھی اس کتاب میں پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے اور ان دونوں کتابوں کے ان حواشی پر اپنی تحقیق و ریسرچ کی بنیاد رکھ کر دنیا کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ ان مسائل پر روشنی ڈالی ہے۔ "العواصم من القواصم" کے

مباحث اس کتاب کے آخر میں ملاحظہ ہوں۔ یہ ضرور ہے کہ آپ نے دوسری کتابیں بھی مطالعہ فرمائی ہیں اور ان سے بھی کام لیا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ آپ کی کاوش کا سارا دار و مدار ان ہی حواشی و تعلیقات پر ہے جو "المنتقى" اور "العواصم" پر ہیں۔ کیا بہتر ہوتا کہ

اس کو ظاہر کرنے کے بعد آپ بھی وہی راہ اختیار کیے ہوتے جسے محشی نے اختیار کیا ہے اور جوش تحقیق میں افراط و تفریط میں مبتلا نہ ہوئے ہوتے۔

"المنتقى" مملکت سعودیہ عربیہ کے نطقہ پر طبع ہوئی ہے۔ اس کے محشی سلفی ہیں اور حکومت سعودیہ کے علمی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، انہوں نے حواشی میں جو کچھ لکھا ہے اس میں بڑی حد تک ایک خاص نقطہ نظر کی ترجمانی کی ہے، پھر بھی انہوں نے سنجیدگی اور علمی و تاریخی حقائق کو برقرار رکھا ہے، اور نہایت فراخ دلی سے بنو امیہ کے اصل حالات معلوم کرنے کے سلسلے میں ہندی عالم علامہ شبلی نعمانی کی کتاب "النقد علی التمدن الاسلامی" کی خدمات کو سراہا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ شیعوں کے جوش مخالفت میں انہوں نے بعض بعض مقامات پر علامہ ابن تیمیہ سے بھی دو قدم آگے جانے کی کوشش کی ہے، مگر اس گراؤٹ کا کمپن مظاہرہ نہیں کیا جس کا ثبوت مؤلف کتاب "خلافت معاویہ و یزید" نے دیا ہے انہوں نے حضرات علی، حسن، حسین، ابن زبیر رضی اللہ عنہم پر کسی قسم کی کوئی تعریض نہیں کی ہے اور ان کے بارے میں مسلک اسلاف کو نہیں چھوڑا ہے۔

اگر آپ بھی ایسا کرتے تو ہم آپ کی خدمات کو سراہتے اور ساتھ دینے کی کوشش کرتے۔

جہالت و خیانت اور بددیانتی

غیر زبانوں کے ترجمے میں بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے اور ایسا سرزد ہو جانا علمی شان کے منافی نہیں ہے۔ بشرطیکہ ترجمہ جان بوجھ کر کسی خاص مطلب سے غلط نہ کیا جائے۔ اور کسی عبارت سے خواہ مخواہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کو تختہ مشق نہ بنایا جائے۔

افسوس کہ کتاب "خلافت معاویہ ویزید" کے مؤلف نے متعدد مقامات پر، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ، جان بوجھ کر غلط ترجمہ کیا ہے اور اپنے استدلال میں زور پیدا کرنے کے لیے اس قسم کی بھی کمزوری دکھائی ہے۔ نمونہ ملاحظہ ہو:-

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ایک عبارت کا ترجمہ کس درجہ غلط کیا اور ایک لفظ کی تبدیلی سے کیا سے کیا معنی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ متن اور ترجمہ دونوں کتاب کے صفحہ ۴ سے پیش ہیں:-

"ہر روز دائرہ سلطنت او لاسیما بعد تحکیم تنگ ترشدن گرفت، تاآنکہ در آخر بجز کوفہ وما حول آن برائے ایشان صافی نماند" یعنی۔ ان کی سلطنت کا دائرہ ہر روز خاص کر ثالثی کے بعد زیادہ تنگ ہوتا گیا یہاں تک کہ آخر میں سوائے کوفہ اور اس کے آس پاس کے اور کچھ ان کے لیے باقی نہ رہا۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مخالفین کی وجہ سے تحکیم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں فضا عام طور سے ناسازگار ہو گئی اور صرف کوفہ اور اس کے آس پاس کی فضا ان کے حق میں صاف رہی اور مکدر نہیں ہوئی۔ "مگر مصنف نے ترجمہ فرمایا ہے کہ "سوائے کوفہ اور اس کے آس پاس کے اور کچھ ان کے لیے باقی نہ رہا۔" آپ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تسلط اور عمل دخل صرف کوفہ اور اس کے آس پاس رہ گیا تھا، اور پورا عالم اسلام حضرت معاویہ کا ہو گیا تھا۔ آپ نے یہ گل بڑھی چالاکئی اور خوب صورتی کے ساتھ لفظ "صافی" کا ترجمہ "باقی" کر کے دکھلایا ہے۔

ایک جگہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی منہاج السنۃ سے ایک عبارت نقل کر کے اس کا ترجمہ یوں فرمایا ہے۔ (ص ۴)

فان الثلاثة اجتمعت الامة عليهم فحصل بهم مقصود الامامة  
یعنی۔ تینوں خلفاء نے پوری امت کو اپنے اوپر مجتمع کر لیا تھا اور اس امامت کا مقصد  
حاصل ہو گیا تھا۔

یہ ترجمہ بھونڈا اور ملکتی ہونے کے علاوہ غلط ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے۔

"تینوں خلفاء پر امت نے اجتماع و اتفاق کیا۔"

اس کے اٹنے کی وجہ غالباً یہ بتانا ہے کہ پچھلے خلفاء نے خود اپنے لیے مسلمانوں کو  
مجمع و متفق کیا۔ بخلاف خلیفہ چہارم کے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے پر مجمع و متفق نہ کر  
سکے۔ گویا یہ کام خلفاء کا تھا جسے آخری خلیفہ نہ کر سکے۔ دیکھئے ترجمہ کو الٹ کر کیا مطلب  
لینے کی کوشش کی گئی ہے اور کیسا الزام رکھا گیا ہے۔

ایک جگہ "الامامة والسياسة" کے حوالہ سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ایک  
فقہ نقل کیا ہے اور اس کا ترجمہ یوں کیا ہے۔ (ص ۱۵)

ان ابی کان یحدثنی ان معاویة سلی الامرالخ.

"اور میرے والد مجھ سے فرماتے تھے کہ معاویہ خلافت پر ضرور فائز ہو جائیں گے۔"

"سلی الامر" کا ترجمہ "خلافت پر ضرور فائز ہو جائیں گے" مبالغہ آمیز ہے۔ اور

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زبان سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے والد

حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو حتمی اور ضروری

سمجھتے تھے، حالانکہ "سلی الامر" کا ترجمہ ہے "جلد امارت کے مالک ہوں گے۔" مگر اس

ترجمہ میں مصنف کے ذوق کے مطابق شدت پیدا نہیں ہوتی، عنقریب امیر ہونے اور

خلافت پر ضرور فائز ہونے میں بڑا فرق ہے۔

نیز اسی صفحہ ۱۵ پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا یہ قول ان کے والد حضرت

علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے اور اس کا ترجمہ یہ کیا ہے۔

وان علیاً ابی کان یقول لاتکرها امارۃ معاویۃ فانکم لوفارقتموہ لرایتم الرؤس  
تندرعن کواہلہا کالحنظل۔

ترجمہ۔ ”اور میرے والد علیؑ فرماتے تھے کہ معاویہ کی امارت (یعنی امیر المومنین ہونے سے) تم کراہت کرنا۔ کیونکہ تم نے اگر ان کو بھی گنوا دیا تو دیکھو گے کہ مونڈھوں پر سے حنظل کی طرح دھڑا دھڑا دھڑا کٹ کٹ کر گریں گے۔“

اس ترجمہ میں ایک تو ”امارت“ کی تشریح، امیر المومنین ہونے سے کی گئی ہے جو مصنف کے مطمح نظر کی رعایت سے ہے، ورنہ امارت کا مفہوم ”امیر ہونا“ عام ہے۔ دوسرے ”لوفارقتموہ“ کا ترجمہ ”اور تم نے اگر ان کو بھی گنوا دیا“ کیا گیا ہے، حالانکہ اس کا صاف ترجمہ یہ ہے ”اگر تم لوگ ان سے جدا ہوئے“ مگر ”گنوا دیا“ کہہ کر حضرت معاویہ کی امارت کی اہمیت اور اس کے مقابلہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ وغیرہ کی اس کی طرف شدت احتیاج ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس قسم کی باتیں ذمہ داری اور دیانت داری کے خلاف ہیں۔ اور جن کی عبارت کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے ان کے مفہوم میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ چند مثالیں دیدہ و دانستہ غلط ترجمہ کرنے اور اپنے مطلب میں زور پیدا کرنے کے لیے اصل عبارتوں کے غلط مطالب لینے کی ہیں، جو سرسری طور سے جمع کر دی گئی ہیں، اس قسم کی حرکتیں کتاب میں اور بھی ہیں۔

ایک بڑھی مصیبت یہ بھی ہے کہ کتاب ”خلافت معاویہؓ ویزید“ کے محقق بہت سی عربی عبارتوں کو سمجھنے سے قاصر رہ گئے ہیں، جس کی بنا پر بے چارے نے غلط ترجمہ کیا ہے، یا ایسا ترجمہ کر دیا ہے کہ نہ خود سمجھیں نہ دوسرا سمجھ سکے۔

ایک موقع پر یزید کو خلافت و امارت کے بعد بھی "امیر المومنین" لکھنے کے بیان میں حضرت ابو الحارث لیث بن سعد فہمی کا مقولہ نقل کر کے قاضی ابو بکر بن العربی کی یہ عبارت درج کی اور اسی کا ترجمہ یہ کیا ہے (ص ۲۳۰)

فسماہ اللیث امیر المومنین بعد ذہاب ملکهم وانقراض دولتهم

ترجمہ۔ (یعنی حضرت لیث ان کو (یزید کو) اس وقت بھی امیر المومنین کہتے تھے جب ان کی حکومت جلی گئی، اور ان کی سلطنت جاتی رہی تھی)۔

مؤلف کی عبارت اور ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابو الحارث اللیث بن سعد الفہمی کو نہیں سمجھے، یہ امام اہل مصر فی الفقہ والحدیث حضرت امام لیث بن سعد مصری صاحب الامام الشافعی رحمہ اللہ متوفی ۱۷۵ھ میں اور امام ابو بکر بن العربی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام لیث بن سعد جن کی وفات دولت و خلافت اموی کے تقریباً ۳۵ سال بعد ہوئی وہ بھی امویوں کی خلافت و دولت کے زوال و انقراض کے اتنے بعد تک یزید کو امیر المومنین کے لقب سے یاد کرتے ہیں، مگر مصنف کو اسلوب نگارش کا پتہ نہ چل سکا، اور "ملکهم" اور "دولتهم" کی ضمیر کو بجائے امویوں کے یزید کی طرف لوٹا دی، اور ترجمہ بھی انتہائی مدٹسا نہ کیا۔

صفحہ ۲۷۵ پر تین اشعار مع ترجمہ کے درج ہیں۔ تیسرا شعر اور اس کا ترجمہ یہ ہے:-

ولست لهم وان عتبوا مطيعاً حياتي او يغيبني التراب.

ترجمہ۔ (ان عتاب کرنے والوں سے اس کا کیا واسطہ کہ میری زندگی ان کی اطاعت میں گذرتی ہے، یا مٹی مجھے غائب کر دیتی ہے۔)

یہ ترجمہ غلط ہونے کے علاوہ نہایت احمقانہ ہے، صحیح ترجمہ یہ ہونا چاہیے۔

"میں اپنے ملامت گروں کا، اگرچہ وہ مجھ پر عتاب نازل کریں، مطیع و فرمان بردار

اپنی زندگی بھر نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مٹی اپنے اندر مجھے چھپالے۔"  
 "لت لحم مطیعاً کے درمیان "وان عتبوا" جملہ معترضہ ہے، اور اس کا واو وصلیہ  
 ہے، اور "حیاتی" کا لفظ "لت" کے لیے مفعول فیہ زمانی ہے، اور "او" کا لفظ "الی ان"  
 کے معنی میں ہے، مطلب بالکل صاف ہے، مگر ہمارے محقق کو کچھ پتہ نہ چلا، اور ایسا  
 ترجمہ کیا کہ نہ وہ سمجھے نہ ہم۔ اسی طرح صفحہ ۲۱ پر ایک شعر اور اس کا ترجمہ  
 یوں ہے۔

و ما رست الرجال ومارسونی فمعوج علیّ و مستقیم

"میں نے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ اور لوگوں نے میری اصلاح کی، تو  
 کسی کو میں نے کج رو پایا، اور کسی کو راہ راست پر"

یہاں پر ہمارے محقق نے "ما رست" کا ترجمہ "اصلاح کرنا کیا ہے" حالانکہ اس  
 کے معنی معاملہ، تجربہ، مشق وغیرہ کے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے، کہ "میں نے لوگوں  
 سے تعلقات پیدا کیے، لوگوں نے میرا تجربہ کیا، آزمایا، اس کے نتیجے میں کچھ میرے  
 بارے میں کج رو میں اور کچھ راہ راست پر نہیں۔"

صفحہ ۳۲۴ پر یزید کی تعریف میں فضالہ بن شریک شاعر کے دو اشعار نقل کر  
 کے ان کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ بلاشبہ مصنف اور ہم سب کے سر دھنسنے کے قابل ہے،  
 ملاحظہ ہو:-

إذا ما قریش فاخرت بطریفها فخرت بمجد یا یزید تلید:

ترجمہ: قریش جب اپنے آباؤ اجداد پر فخر کرنے لگیں تو اے یزید تم جو ابامحمد دو  
 بمجد (عن جد) بزرگی رکھتے ہو (اپنی بزرگی پر فخر کرو۔)  
 یہاں پر طریف اور تلید کا مطلب ہی سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی یا جان بوجھ



کر یزید کے ذاتی فضائل ثابت کرنے کے لیے یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ طریف نئے مال اور ذاتی دولت و ثروت کو کہتے ہیں اور تلید پرانے مال اور خاندانی ثروت کو، محاورہ ہے کہ "مالہ طریف ولا تلید" یعنی اس کے پاس نیا پرانا کوئی مال نہیں ہے، یعنی نہ ذاتی اوصاف و کمالات میں، نہ خاندانی مجد و شرافت ہے، اس شعر کا صحیح ترجمہ یہ ہے۔ "جب قریش کے لوگ اپنے ذاتی کمالات پر فخر کریں تو تم اسے یزید اپنے قدیم اور آبائی مفاخر پر فخر کرو"۔ چونکہ اس ترجمہ میں یزید کے آبائی مناقب و مفاخر کا بیان تھا، اور ذاتی کمالات کی طرف اشارہ نہیں تھا، اس لیے ہمارے خیال میں جان بوجھ کر غلط ترجمہ کیا گیا ہے۔

دوسرا شعر اور اس کا ترجمہ یوں درج ہے۔

بمجد امیر المومنین ولم یزل ابوک امین اللہ جد رشید

(امیر المومنین ہونے کی بزرگی پر اور اس بات پر کہ تمہارے والد اللہ کے (بوجہ کاتب وحی ہونے کے) امین تھے اور تمہارے دادا قائد دانشمند تھے)۔ اس ترجمہ کو اشعار سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی مترجم نے شاید شعر کو کچھ بھی سمجھا ہے، صحیح ترجمہ یوں ہونا چاہیے:-

"اور وہ مجد تلید جس پر تم فخر کرو گے وہ امیر المومنین ہی کا یعنی آپ ہی کا مجد و شرف ہے، جو سمجھ دار آدمی کا حصہ ہے، اور آپ کے والد اللہ کے امین بن کر رہے۔" یہ "بمجد" پہلے شعر کے "بمجد" کی توضیح و تفسیر اور بدل کے طور پر ہے، اور "امیر المومنین" مضاف الیہ ہے، مراد خود یزید کی ذات ہے، اور لم یزل ابوک امین اللہ "بیچ میں جملہ معترضہ ہے اور" جد رشید "صفت یا بدل" یا تو ضیح ہے، بمجد امیر المومنین کی، "جد" کے معنی یہاں حصہ اور نصیب کے ہیں، دادا نانا نہیں۔

سوچنے کی بات ہے کہ جس عالم و محقق کو عبارت فہمی میں اس طرح کی دشواری پیش آتی ہو، اور جو عربی اشعار اور عبارتوں کے مطالب و معانی غلط سمجھتا ہو اس کی کسی معمولی تصنیف و تالیف پر کس طرح اعتماد کیا جاسکتا ہے چہ جائیکہ "خلافت معاویہ و یزید" جیسی کتاب پر اعتماد کیا جائے، جو بقول مصنف اور بزعم خود بعض اسلامی تاریخ میں اپنی نوعیت کی پہلی چیز ہے، اس موضوع پر تو علم و قلم اور عقل و قلب کو بہت زیادہ توجہ دینے اور فہم و فراست کو بشیار و بیدار رکھ کر کام کرنے کی ضرورت تھی۔ معلوم نہیں مؤلف نے کن کن نازک جگہوں پر عبارتوں کے سمجھنے میں غلطی کی ہوگی، اور اسی کے مطابق لکھا ہوگا۔ جہاں اصل عبارت اور ترجمہ آمنے سامنے ہے وہاں تو مقابلہ و تصحیح کی کوشش ہو سکتی ہے، مگر جہاں آپ نے اپنی تحقیق و تدقیق پر کئی اعتماد سے کام لیا ہے وہاں تو بڑی دشواری ہوگی۔

خاص طور سے اردو دان عوام کے لیے یہ کتاب بہت مہنگی پڑے گی، اگر وہ مصنف کی علمیت و قابلیت پر اعتبار و اعتماد کر کے اس کا مطالعہ کریں گے۔ افسوس کہ اس اعتبار سے بھی مصنف نے یہ کتاب لکھ کر کوئی خاص کام نہیں کیا، بہت سی موٹی موٹی کتابوں کے نام کی فہرست دے کر اپنے ماخذوں پر اطمینان دلانا اسی وقت معتبر ہوگا جبکہ ان کے سمجھنے اور ان سے اخذ کرنے کی پوری صلاحیت بھی ہوتی۔

باقی رہا کتاب میں مورخوں اور محدثوں کی کتابوں میں قطع و برید کرنے، درمیان سے عبارت حذف کرنے، عبارتوں کو غلط انداز میں پیش کرنے، علماء پر الزام عائد کرنے اور اقتباسات و حوالہ جات میں بڑی دلیری اور جرأت سے خیانت کرنے کا معاملہ تو بہمارا دعویٰ ہے کہ اس کتاب میں کم از کم سو میں پچھتر حرکتیں اسی قسم کی ہیں، اور مؤلف نے بڑی جسارت سے علماء و محدثین کے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا ہے،

اور یہ ہماری پوری کتاب ہی اس کی دلیل ہے، اور آئندہ قدم قدم پر ایسی ہی حرکتوں کا انکشاف ہوگا۔ اس کتاب میں زیادہ زور اسی پر دیا گیا ہے، اور اسی قسم کی خیانتوں کی نشاندہی کی گئی ہے، مگر اس قسم کی خیانتوں کی نشاندہی صرف اردو، فارسی، اور عربی کی ان کتابوں تک محدود ہے جو عام طور سے پڑھی پڑھائی جاتی ہیں، اور اہل علم کے پاس موجود ہیں۔ مؤلف نے جن مغربی مستشرقین اور انگریزی مراجع و ماخذ کو استعمال کیا ہے، ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ اگر اردو فارسی اور عربی کی کتابوں میں ۷۵ فیصد خیانت کی گئی ہے تو انگریزی کتابوں میں اس سے زائد خیانت ہوگی اور ان کے اقتباسات و تراجم اور مطالب و معانی میں بڑی دلیری اور صفائی سے قطع و برید کیا گیا ہوگا، کیونکہ یہ کتابیں نسبتاً کم پڑھی جاتی ہیں اور عام طور سے لوگ ان کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اگر کوئی صاحب ذوق انگریزی جاننے والا اس کتاب کے انگریزی ماخذوں کی تحقیق کرے تو مؤلف کی حرکتوں کا ظور ہو جائے گا، کیونکہ جو شخص عام کتابوں میں اس طرح جرات دکھا کر قطع و برید کرتا ہے، وہ غیر معروف و کم استعمال کتابوں میں کیسے چوک سکتا ہے، مؤلف نے جگہ جگہ یہ بھی کیا ہے کہ اگر ایک کتاب کی عبارت ان کے مطلب کے خلاف ہے تو اسی کی اپنے مطلب کی عبارت کو کسی دوسری کتاب کے حوالے سے نقل کر دیا تاکہ دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ مؤلف بے چارے کے سامنے اصل کتاب نہیں تھی، اس لیے جتنی عبارت مل سکی انہوں نے نقل کر دیا۔ اس کی ایک مثال "جہاد قسطنطنیہ" کے بیان میں صفحہ ۲۳ سے مل سکتی ہے، جس میں مؤلف نے "فتح الباری شرح بخاری" کی ادھوری عبارت، حاشیہ بخاری کے حوالے سے درج کی ہے، حالانکہ ان کے ماخذ و مطالعہ میں "فتح الباری" بھی ہے، اور انہوں نے اس سے جگہ جگہ (مثلاً صفحہ ۸۹ وغیرہ میں) اس کا حوالہ بھی دیا ہے، مگر جہاد قسطنطنیہ میں اس

کا حوالہ دینے کے بجائے حواشی بخاری کا حوالہ دے دیا، حالانکہ مؤلف کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جبکہ وہ اصل کتابوں کی عبارتوں میں قطع و برید کر کے نقل کر دینے کے عادی ہیں۔

ایک اور مجرمانہ حرکت یہ بھی ہے کہ مؤلف جس کتاب کو غیر معتبر و غلط قرار دیتے ہیں اسی سے اپنے لیے استدلال کرنا واجب سمجھ کر اپنے منشا کو ثابت کرتے ہیں، اور جب اس میں خلاف منشا بات آجاتی ہے تو اسے "غالی" کے "مہمل" لفظ سے نواز دیتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک کتاب سے ایک مسلسل واقعہ بیان کرنے میں جب کوئی بات خلاف منشا آجاتی ہے تو دوسری کتاب معتبر یا غیر معتبر کا حوالہ دے دیتے ہیں، اور پھر پہلی کتاب کی عبارت شروع کرتے ہیں، اس قسم کی بہت سی لغویتیں اس کتاب میں موجود ہیں، اور ذرا غور کرنے کے بعد پڑھنے والے کے سامنے آجاتی ہیں۔

## حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کا دورِ خلافت

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ہر طرح ناکام ثابت کرنا مولف کا پہلا کام تھا، انہوں نے لکھا ہے:-

"حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد جب سبائی لیڈر مالک الاشر اور اس کے ساتھیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت خلافت کرنی چاہی آپ کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے منع کیا، اور مستنبتہ کیا۔ مگر افسوس کہ حضرت موصوف نے اپنے بھائی کا عقلا نہ مشورہ قبول نہ فرمایا، اور یہ بیعت لے لی، یہ بیعت چونکہ باغیوں اور قاتلوں کی تائید اور اصرار سے ہوئی تھی، اور یہ خلافت ہی حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ جیسے محبوب خلیفہ راشد کو ظلماً اور ناحق قتل کر کے سبائی گروہ کے اثر سے قائم کی گئی تھی، نیز قاتلین سے قصاص جو شرعاً واجب تھا، نہیں لیا گیا تھا، اور نہ قصاص کے لیے جانے کا کوئی امکان رہا تھا، کیونکہ باغی اور قاتل اور اس گروہ کا بانی مہابی عبداللہ بن سبائی کے گروہ میں نہ صرف شامل، بلکہ سیاست و وقت پر اثر انداز رہے، اکابر صحابہ نے بیعت کرنے سے گریز کیا، اس لیے بیعت خلافت مکمل نہ ہو سکی"۔ (ص-۲)

یہ کتاب "خلافت معاویہ ویزید" کی بسم اللہ ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے ضدی اور بٹ دھرم اور عقلا نہ مشورہ نہ قبول کرنے والا بتایا گیا ہے، نیز بتایا گیا ہے کہ ان کی خلافت صرف سبائیوں اور باغیوں کی وجہ سے قائم ہوئی اور اس کی بنیاد قتل عثمان رضی اللہ عنہ پر رکھی گئی، خون عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص

کے لیے تمام امکانات ختم کر دیئے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر سبائی گروہ خلافت پر قابض و دخیل تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بنے ہوئے تھے، اس پوری عبارت کے ایک ایک لفظ پر غور کرنے سے مؤلف کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جذبہ کا پتہ چلتا ہے، اور ان کے دل کی ایک ایک تصویر ان الفاظ میں رقص کرتی نظر آتی ہے۔

مؤلف نے خیانت سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب "ازالۃ التحفۃ" سے عبارت نقل کی، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ حضرت شاہ صاحب بھی مؤلف کے ہمنوا ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ شاہ صاحب نے پہلے وہ دلیل بیان کی، جس کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد تسلیم کیا جاتا ہے، اور حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیعت نہ کرنے کو ان کی خطائے اجتہادی بتایا، پھر ان حضرات کے بیعت نہ کرنے کا جو شبہ تھا اسے شاہ صاحب نے بیان کیا ہے۔

"خلافت برائے علی مرتضیٰ قائم نہ شد" الخ (ازالۃ التحفۃ ص ۲ ص ۲۷۹)

مگر مؤلف نے ان حضرات کے اس خیال کو شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے مجھ کر نقل کر دیا، اور دھوکہ دینا چاہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ میرے ہی خیالات نہیں ہیں، بلکہ شاہ ولی اللہ بھی اسی کے ہمنوا ہیں۔

مؤلف اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں:-

"ان اہل حل و عقد کو جس میں اکابر صحابہ کی جماعت شامل تھی حضرت علی کی ذات سے کوئی مخالفت نہ تھی، اور نہ ان کے خلیفہ منتخب ہونے پر کسی قسم کا اعتراض تھا۔ یہ حضرات انتخاب و بیعت خلافت میں سبائی گروہ کی دراندازیوں کو مصلح ملیہ کے خلاف

سمجھتے تھے، اس لیے امت کی بھاری اکثریت نے بیعت نہیں کی لی۔ (ص ۲)

اس میں بھی مؤلف نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غلط کارثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کہہ کر کہ "اکابر صحابہ سبائی گروہ کی در اندازیوں کو مصلح ملیہ کے خلاف سمجھتے تھے۔" بتانا چاہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سبائیوں کی دست درازیوں کو مصلح ملیہ کے مطابق سمجھ کر ان کے ہاتھ میں کھیل رہے تھے، اور ان کی خلافت سراسر سبائی گروہ کی خلافت تھی، حضرت علیؑ اپنی غلطی یا مجبوری کی وجہ سے ان میں پھنس گئے، اور چھوٹ نہ سکے، اور ان کا پورا دور سخت ناکام گیا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:-

"حضرت موصوف کی یہ خطاے اجتہادی تھی یا بے بسی اور مجبوری، نتیجہ یہ ہوا کہ بخلاف حضرات خلفائے ثلاثہ جن کی بیعت پر تمام امت مجتمع تھی، اتحاد و اتفاق تھا، کفار کے مقابلہ میں جہادی سرگرمیاں تھیں، بڑے بڑے ملک فتح ہوئے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں نہ کوئی جہاد ہوا، نہ کوئی ملک و شہر فتح ہوا (ص ۳) نہ ملت ان کی بیعت پر مجتمع ہوئی، آپس ہی میں تلواریں چلتی رہیں۔" (ص ۴)

مؤلف نے پوری کتاب میں جو جو بے ہودگیاں، غلط بیابیاں کی ہیں، ان کو ایک طرف رکھا جائے اور ذیل کی چند سطریں ایک طرف رکھی جائیں، تو ان کا پتہ سب پر بھاری ہوگا، دریدہ دہنی، بد عقیدگی اور گستاخی کی انتہا ان سطروں پر ختم ہے، اور شاید ہی کوئی جرمی سے جرمی خارجی بھی ان کے کھننے کی جرات نہیں کر سکتا، ہم ان سطروں کو مؤلف کی پوری کاوش کا خلاصہ اور نتیجہ سمجھتے ہیں:-

"حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت مکمل نہیں ہوئی تھی، امت کی بہت بڑی اکثریت ان کی بیعت میں داخل نہیں تھی، ان کے خلاف جو حضرات کھڑے ہوئے تھے وہ بڑی جمعیت رکھتے تھے، ان کے قبضے میں ملک تھے، اور لاکھوں انسانوں کی

حمایت انہیں حاصل تھی، پھر ایسا خلیفہ جسے جمہور کی حمایت حاصل نہ ہو، جب شرعاً اس کا مجاز ہے کہ اپنے مخالفوں کے خلاف تلوار اٹھائے تو پھر امیر یزید جو مستفق علیہ خلیفہ تھے، جن کا پرچم عالم اسلام پر لہرا رہا تھا، جن کی بیعت میں سینکڑوں صحابہ کرامؓ خصوصاً حضرت عبداللہ بن عباس، نیز حسین کے بھائی حضرت محمد بن علی (ابن الحنفیہ) جیسی مقتدر (ص ۱۷۹) و مقدس بستیاں داخل تھیں وہ اس کے مجاز کیوں نہیں کہ اپنے خلاف خردج کرنے والوں کا مقابلہ کریں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تلوار اگر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زوجہ وجیہ رسول اللہ صلوٰۃ اللہ علیہما کے خلاف بے نیام ہو سکتی ہے، اور اس بودج پر تیر برسائے جاسکتے ہیں، جس میں تمام امت کی ماں تشریف فرما ہو، اور ماں بھی وہ جو حجت دینیہ کے تحت میدان میں آئی ہو تو حضرت حسینؓ کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی جاسکتی، جن کی دعوت محض یہ تھی کہ نبی ﷺ کا نواسہ اور حضرت علیؓ کا فرزند ہونے کی حیثیت سے انہیں خلیفہ بنایا جائے۔" (ص ۱۸۰)

ان چند جملوں میں مؤلف نے پورا زہر استعمال کیا ہے اور یہ باتیں ثابت کرنی

چاہی ہیں۔

(۱) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کامل و مکمل بیعت نہیں تھی، بلکہ ان کے خلاف جو لوگ تھے وہ ان کے موافقین سے زیادہ تھے۔

(۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اپنی تلوار کھینچی، اور ان پر وار کیا، یہ جملہ نہایت ہی زہریلا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر شرم ناک افتراء ہے، جس کے لیے دین و دیانت کے ساتھ ساتھ واقعات سے بھی آنکھ بند کرنا پڑتی ہے۔ کوئی کٹر خارجی بھی یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔



(۳) حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر یہ الزام کہ وہ اپنے کو فرزندِ علی رضی اللہ عنہ اور رسول ﷺ کا نواسہ ہونے کی وجہ سے خلافت کا حقدار قرار دیتے تھے، نہایت ہی سنگین ہے، ان حضرات کے بارے میں اس طرح کی بات ان قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے جو صحابہ کے بارے میں موجود ہیں۔

مؤلف نے علامہ ابن تیمیہ کی ایک عبارت کو اپنے اس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے اور ان کے مقصد و منشاء کے خلاف ان کی عبارت کا مطلب اپنے ذوق کے مطابق لینا چاہا ہے۔

اب آئیے، ہم بتائیں کہ مؤلف نے اپنی کتاب میں جن علمائے اسلام سے استشہاد کر کے ان کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کی ہے، ان کا مسلک کیا ہے اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کس حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور آپ کیا باور کرانا چاہتے ہیں۔

### حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تصریحات

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے "ازالۃ الخفاء عن خلافت الخفاء" کے مقصد اول کی فصل اول کو خلافت عامہ (خاصہ نہیں) کے بیان سے شروع فرمایا ہے، اور خلافت عامہ کی تعریف وغیرہ بیان کرنے کے بعد خلافت عامہ کے منعقد ہونے کے چوتھے طریقہ کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:-

"واین دو نوع است، یکے آنکہ مستولی مجتمع شروط باشد، و صرف مناز عین کند، و بصلح و تدبیر و غیر ارتکاب محرمی و این قسم جائز است و رخصت، و انعقاد خلافت معاویہ بن ابی سفیان بعد حضرت مرتضیٰ و بعد صلح امام حسنؑ بہمیں نوع بود الخ."

ترجمہ:- (اس چوتھے طریقے کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم یہ ہے کہ استیلاء کرنے والا خلافت کی شرطوں کو جامع ہو، اور بغیر کسی ناجائز امر کے صرف صلح اور تدبیر سے مخالفوں کو مزاحمت سے باز رکھے، یہ قسم عند الضرورت جائز ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انعقاد، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اور حضرت امام حسن کے صلح کر لینے کے بعد اسی طرح سے ہوا تھا۔ الخ۔)

یہاں پر حضرت شاہ صاحب نے اہل سنت والجماعت کے مسلک کو واضح الفاظ میں بیان فرما کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت عامہ کو بیان فرمایا ہے، اور ان کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مان کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو انعقاد خلافت کے چوتھے طریقے کی رو سے خلیفہ عام تسلیم فرمایا ہے۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب حضرت علیؑ کی خلافت کے انعقاد کے متعلق

فرماتے ہیں:-

”واہل علم تکلم کرده اند در آنکہ خلافتِ حضرت مرتضیٰ بکدام طریق از طرقِ مذکورہ واقع شد، مقتضائے کلام اکثر آنست کہ بہ بیعتِ مہاجرین و انصار کہ در مدینہ حاضر بود ند خلیفہ شدند، و اکثر نامہ ہائے حضرت مرتضیٰ کہ باہلِ شام نوشتہ اند شاید این معنی است.“

ترجمہ:- (اہل علم نے اس بات میں کلام کیا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰؑ کی خلافت چار مذکورہ طریقوں سے کس طریقے پر واقع ہوئی، اکثر علماء کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ ان مہاجرین اور انصار کے بیعت کر لینے سے خلیفہ ہوئے جو مدینہ میں موجود تھے، اور حضرت علی مرتضیٰؑ کے اکثر وہ خطوط جو آپ نے اہل شام کو لکھے، اس پر شاہد ہیں۔)

اس قول کو حضرت شاہ صاحب نے راجح قرار دیتے ہوئے پہلے بیان فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت عامہ کے انعقاد کو مدینہ منورہ کے مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کے بیعت کر لینے کی وجہ سے قرار دیا، اور اس کی تائید حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطوط سے فرمائی، اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے اس بارے میں علماء کے ایک گروہ کا دوسرا قول نقل فرمایا ہے، جس میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت عامہ کا انعقاد بذریعہ شوریٰ ہوا۔

مقصد اول کی فصل اول کے خاتمہ پر شاہ صاحب حاصل کلام کے طور پر فرماتے ہیں:-

"چوں معنی خلافت و شروط خلیفہ، و آنچه متعلق است بخلافت دانستہ شدہ وقت آں رسید کہ چہل مقصد عود کنیم۔ اثبات خلافت عامہ برائے خلفائے اربعہ اعلیٰ بدہیات است، چوں مفهوم خلیفہ و شروط اور ادر ذہن تصور نمائیم و از احوال خلفاء اربعہ انچہ مستفیض شدہ تذکرہ فرمائیم، بالبد اہتہ ثبوت و شروط خلافت ایشان و ظہور مقاصد خلافت باکمل وجہ در ایشان ادراک کردہ می شود، اگر خلفائے در ثبوت خلافت ایشان ہست باعتبار اخذ معانی دیگر است در مفهوم خلافت، چنانکہ شیعہ عصمت و وحی باطنی در امام شرط می کند، و الوجود اسلام و عقل و بلوغ و حریت و ذکوریت، و سلامت اعضاء و قریشیت درین بزرگان محل بحث عاقلے نمی تواند بود و بیچ عاقلے انکار نمی تواند کرد کہ مقابلہ اہل ردت و فتح بلاد عجم، و بلاد روم و مدافعت جیوش کسری و قیصر بتدبیر و امر ایشان بودہ است، و فی ہذا کفایتہ لمن اکتفی، الخ۔"

ترجمہ: "جب خلافت کے معنی اور خلیفہ کی شرطیں اور خلافت کے متعلقات معلوم ہو چکے تو اب وہ وقت آگیا کہ ہم اصل مقصد کی طرف رجوع کریں، خلفاء اربعہ کے لیے خلافت عامہ کا ثابت ہونا اعلیٰ بدہیات سے ہے، کیونکہ جب ہم خلیفہ کا مفہوم اور اس

کی شرطیں ذہن میں لاتے ہیں، اور خلفائے اربعہ کے حالات پر جو بسند مستفیض معلوم ہوئے ہیں، نظر ڈالتے ہیں تو بدیہی طور پر خلافت کی شرطوں کا ان میں پایا جانا اور خلافت کے مقاصد کا اکمل طور پر ان سے ظاہر ہونا واضح ہو جاتا ہے، اور کسی طرح کا خفا باقی نہیں رہتا اور اگر خلفائے اربعہ کی خلافت کے ثبوت میں کوئی پوشیدگی ہے تو وہ خلافت کے مفہوم میں معنی مذکورہ کے علاوہ دوسرے معانی شامل کرنے کی وجہ سے ہے، جیسا کہ شیعہ عصمت اور وحی باطنی کو امام کے لیے شرط کرتے ہیں، ورنہ اسلام اور عقل اور بلوغ اور حریت، اور ذکوریت اور سلامتی اعضاء اور قریشیت کا ان بزرگوں یعنی خلفائے اربعہ میں پایا جانا کسی عاقل کے لیے محل بحث نہیں ہو سکتا، اور نیز کوئی دانشمند اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ مرتدوں سے جنگ کرنا، اور بلاد عجم اور بلاد روم کو فتح کر لینا، اور کسریٰ و قیصر کے لشکروں کو شکست دینا انہیں خلفاء کی تدبیر اور انہیں کے حکم سے ہوا ہے۔ اور کفایت کرنے والے کے لیے اس قدر کافی ہے، الخ۔“

شاہ صاحب کے اس بیان میں کہیں بھی حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت پر نہ حرف گیری ہے، نہ اس کا کوئی ادنیٰ شائبہ ہے، اور نہ ہی ان کی خلافت کی ناکامی و نامرادی کا کوئی ذکر ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کی پوری ترجمانی ہے۔

مگر، "خلافت معاویہ و یزید" کے مؤلف نے شاہ صاحب کی اسی کتاب سے اپنے منشاء کے مطابق عبارتیں نقل کر کے ثابت کرنا چاہا ہے کہ شاہ صاحب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے قیام کے منکر تھے، ان کی خلافت کا دائرہ صرف کوفہ اور اس کے اطراف تک محدود تھا، اور وہ اپنے اقدام پر ہمیشہ افسوس فرماتے رہے، حالانکہ صورت یہ ہے کہ شاہ صاحب نے کتاب میں جگہ جگہ ان کے دور کے فتنوں اور ہنگاموں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان سے پیدا ہونے والے ابتلاء کو واضح کیا ہے، مگر مؤلف

نے شاہ صاحب کی ان ہی عبارتوں کو لے کر اس طرح استدلال کیا ہے، جیسے شاہ صاحب بھی اس کے ہم نوا ہیں، مؤلف نے حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہی حرکت کی ہے، اور ان کی عبارتوں کو جو کسی خاص واقعہ اور مسئلہ سے متعلق ہیں، اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔

### علامہ ابن خلدون کی تصریحات

علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کو مؤلف کتاب "خلافت معاویہ و یزید" نے بڑی اہمیت دی ہے اور ان کو فن تاریخ کا امام مانا ہے اور اس معاملہ میں ان کو منفرد تسلیم کیا ہے۔ ہم ان کا پورا بیان نقل کرتے ہیں، چونکہ عبارتیں بہت طویل ہیں، اس لیے ہم ان کو نقل نہیں کرتے، اور صرف ان کے ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں، جس کا جی چاہے ترجمہ کو اصل عبارت سے ملا لے۔

علامہ ابن خلدون مقدمہ میں "الفصل الثلاثون فی ولایة العهد" کے ذیل میں لکھتے ہیں:-

"حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت لوگ مختلف شہروں میں متفرق تھے، اس لیے بیعت علی رضی اللہ عنہ میں حاضر نہ ہو سکے، اور جو لوگ حاضر تھے ان میں کچھ نے بیعت کی اور کچھ نے توقف کیا، یہاں تک کہ لوگ مجتمع ہو کر کسی امام پر اتحاد و اتفاق کریں، جیسے سعد رضی اللہ عنہ، سعید رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، قدامہ بن مظعون رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ، فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ، اور ان حضرات جیسے

دوسرے اکابر صحابہ اور جو لوگ مختلف اصصار میں تھے وہ بھی علی رضی اللہ عنہ کی بیعت سے بٹ کر عثمان رضی اللہ عنہ کے دم کی طلب میں پڑے، اور ان حضرات نے معاملہ کو پراگندہ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ کسی کو بھی والی بنانے کے لیے مسلمانوں کے درمیان شور مچا منعقد ہو جائے، اور ان لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے سکوت کرنے کو ان کی طرف سے نرمی کا گمان کیا، نعوذ باللہ غفلت اور دیر کا گمان نہیں کیا، چنانچہ معاویہؓ بھی جب علی رضی اللہ عنہ کو اپنی سرزنش کرتے تو اسے فقط علیؓ کے دم عثمانؓ پر سکوت ہی کی بنا پر کرتے، اس کے بعد یہ حضرات مختلف رائے ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ ان کی بیعت منعقد ہو چکی ہے اور اس پر ان لوگوں کے مجتمع ہونے کی وجہ سے جو دار نبی ﷺ اور وطن صحابہ یعنی مدینہ میں موجود تھے، میری بیعت ان لوگوں پر لازم ہو گئی ہے، جو اس سے رہ گئے ہیں، اور دم عثمانؓ کے مطالبہ کے امر کو لوگوں کے اجتماع اور اتفاقِ کلمہ تک ٹال دیا کہ ایسا ہونے کے بعد وہ اس کام کو کر سکیں گے۔

دوسرے لوگوں نے سمجھا کہ ان کی بیعت منعقد نہیں ہوئی، کیونکہ اہل حل و عقد صحابہ آفاق میں پھیلے ہوئے ہیں، اور قلیل لوگ ان کی بیعت میں حاضر ہوئے ہیں، اور بیعت کا انعقاد اہل حل و عقد کے اتفاق سے ہوتا ہے اور ان کے علاوہ لوگوں کو منعقد کرنے یا ان ہی میں سے قلیل تعداد کے منعقد کرنے سے بیعت منعقد نہیں ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ اس وقت مسلمان منتشر ہیں، اس لیے وہ پہلے دم عثمانؓ کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس کے بعد کسی امام پر متحد و متفق ہوں گے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ ان کے صاحبزادے محمد رضی اللہ عنہ

سعد رضی اللہ عنہ، سعید رضی اللہ عنہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ اسی خیال کی طرف گئے اور جو صحابہ ان حضرات کی رائے پر تھے اور مدینہ میں علی رضی اللہ عنہ کی بیعت میں شریک نہ ہوئے، یہ سب بھی اسی طرف گئے، جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا، مگر یہ کہ ان حضرات کے بعد لوگوں نے (اہل العصر الثانی من بعدہم) علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کے انعقاد پر، تمام مسلمانوں پر اس کے لازم ہونے پر، اور ان کی رائے کے صحیح ہونے پر اور معاویہ اور جو ان کی رائے پر تھے، خصوصیت کے ساتھ طلحہ اور زبیر جنہوں نے علیؑ کی بیعت کرنے کے بعد توڑ دیا تھا ان سب کی طرف سے خطا کے متعین ہونے پر اتفاق کیا، اور ساتھ ہی ہر دو فریق سے گناہ کی نسبت کو دفع کیا، جیسا کہ مجتہدین کا معاملہ ہوتا ہے اور یہ اہل عصر ثانی کی طرف سے اہل عصر اول کے دو اقوال میں سے ایک قول پر اجماع ہو گیا، جیسا کہ معروف و مشہور ہے، ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ سے جمل اور صفین کے مقتولوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا "قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ان لوگوں (فریقین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) میں سے جو اس حال میں مرے گا کہ اس کا دل پاک ہوگا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا"۔ اس قول کو طبری وغیرہ نے نقل کیا ہے۔

پس تمہارے نزدیک ان میں سے کسی کی عدالت کے بارے میں ریب اور شک نہ ہو، اور نہ ہی تمہارے نزدیک اس معاملہ میں سے کسی میں قدح و برائی ہو، کیونکہ تم جان چکے ہو کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کے اقوال و افعال مستندات ہیں، اور ان کی عدالت اہل السنۃ کے نزدیک مسلم اور مفروض عنہ ہے، مگر معتزلہ کا ایک قول ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے قتال کیا، اس قول کی طرف اہل حق میں سے کسی نے توجہ نہیں کی، اور نہ اس کی طرف رخ کیا، اور جب تم انصاف

کی آنکھ سے دیکھو گے تو عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اختلاف میں تمام لوگوں کو معذور سمجھو گے، اور تم کو معلوم ہو گا کہ یہ ایک فتنہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے امت کو مبتلا فرمایا تھا۔ (مقدمہ ص- ۱۷۸، ۱۷۹)

ہم نے ترجمہ میں شدت احتیاط سے کام لیا ہے، اور عبارت آرائی سے بچتے ہوئے لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

علامہ ابن خلدون کی اس تفصیل سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے موقف اور ان کی نیت کے بارے میں اعتدال و استقامت کی جو رائے ملتی ہے وہ علامہ ابن خلدون جیسے ناقد محتاط اور مورخ ذی ہوش کا حق ہے، خوب یاد رکھئے کہ یہ کسی اصولی اور مستحکم کی رائے نہیں ہے، بلکہ ایک مورخ اور ناقد کی رائے ہے، بتائیے اس میں کسی جگہ سے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حرف گیری کا کوئی شائبہ پایا جاتا ہے؟ یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر کوئی نقض ہے؟

## امام ابن تیمیہ کی تصریحات

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ تصریحات ہم ان کی کتاب منہاج السنۃ کے مختصر "المنتقى" سے پیش کر رہے ہیں، جسے علامہ شمس الدین ذہبی نے مرتب فرمایا ہے۔

امام ابن تیمیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت کے بارے میں تصریح فرماتے ہیں:-

فهذه بيعة على امتنع منها خلق من الصحابة والتابعين من لا يحصيهم  
الا الله تعالى فذالك قادح في امامته ومذهب اهل السنة ان الامامة تنعقد



عندهم بموافقة اهل الشوكة الذين يحصل بهم مقصود الامامة وهو القدرة والتمكين، ولهذا يقولون من صار له قدرة وسلطان يفعل به مقصود. الولاية فهو من اولى الامر، المأمور بطاعتهم مالم يأمروا بمعصية الله فالامامة ملك وسلطان برة كانت اوفاجرة والملك لا يصير ملكا بموافقة ثلاثة اواربعة ولهذا لما بويح على وصار... معه شوكة صار اماما (ص ۵۸)

ترجمہ:- "یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت جس سے صحابہ اور تابعین میں سے اتنے لوگ رکے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، تو کیا یہ بات ان کی امامت کے لیے قاجح ہے؟ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ ان کے نزدیک امامت و خلافت ان اہل شوکت کی موافقت سے منعقد ہوتی ہے جن سے امامت کا مقصود حاصل ہوتا ہو، یعنی قدرت اور تمکین ہو، اس لیے اہل سنت کا قول ہے کہ جس کے لیے قدرت اور سلطنت ہو جائے کہ وہ اس کے ذریعہ ولایت و امامت کا مقصد پورا کرنے لگے تو وہ اولی الامر میں سے ہے، جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، جب تک وہ اللہ کی معصیت کا حکم نہ کریں، پس امامت ملک اور طاقت ہے، نیک ہو یا بد ہو، اور ملک تین یا چار آدمیوں سے ملک نہیں ہو سکتا، اس لیے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی گئی اور شوکت ان کے ساتھ ہو گئی تو وہ امام و خلیفہ ہو گئے۔"

اس تصریح میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت کو ہر طرح کامل و مکمل تسلیم کیا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، آگے چل کر شہادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کا ذکر کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے

میں پانچ اقوال نقل کئے ہیں، اور تیسرے قول کی تائید کرتے ہوئے لکھا ہے۔

وقالت طائفة ثالثة بل على هو الامام وهو مصيب في قتال من قاتله كطلحة  
والزبير وهم مصيبون بناء على ان كل مجتهد مصيب كقول ابى الهذيل والجبائى  
وابنه وابن الباقلانى واحد قولى الاشعري وهم لا يجعلون معاوية مجتهداً مصيباً.  
(يضاص ۵۹)

ترجمہ:- "اور تیسرے گروہ نے کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی امام و خلیفہ  
ہیں، اور جن لوگوں نے ان سے قتال کیا، جیسے طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ،  
حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے قتال کرنے میں صواب و حق پر ہیں، اور وہ لوگ بھی  
صواب و حق پر ہیں۔ اس بنا پر کہ سب کے سب مجتہد مصیب ہیں، جیسا کہ ابو الہذیل  
الجبائی، اس کے بیٹے اور ابن باقلانی کا قول اور امام اشعری کے دو اقوال میں سے ایک  
قول ہے، اور یہ لوگ حضرت معاویہ کو بھی مجتہد مصیب نہیں مانتے۔"

امام ابن عبد البر اندلسی کی تصریحات

امام حافظ ابو عمر یوسف بن عبد اللہ المعروف ابن عبد البر قرطبی اندلسی  
متوفی ۶۳۳ھ رحمہ اللہ اندلسی علماء میں بہت بڑے محدث و حافظ حدیث ہیں، جن کا  
ذہن و دماغ اموی اور ہاشمی آویزشوں سے پاک تھا، اور جن کی کتاب "الاستیعاب فی  
معرفة الاصحاب" کو مؤلف کتاب خلافت معاویہ و یزید نے بھی "صحابہ کرام کے  
حالات کی معتبر کتاب" قرار دیا ہے (ص ۲۱۶)  
اور پانچویں نمبر کا ماخذ قرار دیا ہے۔

ان ہی علامہ عبد البر نے اسی کتاب میں حضرت علیؑ کے حال میں لکھا ہے:-

" بویع لعلی رضی اللہ عنہ بالخلافة یوم قتل عثمان رضی اللہ عنہ  
 واجتمع علی بیعتہ المهاجرون والانصار، وتخلف عن بیعتہ منهم نفر فلم  
 یہجروہم، ولم یکرہہم وسئل عنہم فقال اولئک قوم قعدوا من الحق ولم یقوموا مع  
 الباطل وفی روایة اخرى اولئک قوم خذ لوا الحق ولم ینصروا الباطل، و تخلف  
 ایضاً عن بیعتہ معاویة ومن معہ فی جماعة اہل الشام فکان منهم فی صفین بعد  
 الجمل ماکان تخمد اللہ جمیعہم بالغفران" (الاستیعاب ج ۲ ص ۲۸۱)

ترجمہ :- " حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت کی بیعت حضرت  
 عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن ہی کر لی گئی اور آپ کی بیعت پر مہاجرین اور  
 انصار متفق و مجتمع ہوئے، اور آپ کی بیعت سے ان میں سے چند آدمی رہ گئے، مگر  
 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہ ان کی بھوک، اور نہ ہی ان پر دباؤ ڈالا، اور جب ان کے  
 بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حق سے تو  
 بیٹھ رہے، مگر باطل کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اور ایک روایت میں ہے کہ ان  
 لوگوں نے حق کو رسوا کیا، مگر باطل کی مدد نہیں کی، نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ کی  
 بیعت سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور جو لوگ اہل شام کی جماعت سے ان کے ساتھ  
 تھے، رہ گئے، اور ان کی طرف سے جمل کے بعد صفین میں جو کچھ ہوا، اللہ تعالیٰ ان سب

کو اپنی رحمت میں چھپالے "

صحابہ کرام کے حالات کی معتبر کتاب کی یہ تصریحات اہل علم و تحقیق کے نزدیک

نہایت معتبر ہیں۔

## بیعت و خلافت کامل و مکمل تھی

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، علامہ ابن خلدون، امام ابن تیمیہ اور امام ابن عبد البراندلسی رحمہم اللہ جن کو مؤلف "کتاب معاویہ و یزید" حجت مانتے ہیں، ان کی تصریحات سے معلوم ہو چکا ہے کہ شہادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت عامہ ہو گئی اور مدینہ کے انصار و مہاجرین کے بیعت کر لینے سے خلیفہ کا تقرر ہو گیا، جیسا کہ اس سے پہلے خلفائے ثلاثہ کا انتخاب و تقرر بھی اہل مدینہ ہی کے اتفاق و اجتماع سے ہوا تھا، اور اس طرح ایک خلیفہ کے منتخب و مقرر ہو جانے کے بعد دوسرے کا انتخاب غلط تھا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کے بعد جو سب سے پہلا خطبہ دیا اس میں اسی حقیقت کو بیان کیا:-

ایہا الناس بايعتموني على ما بويح عليه من كان قبلي، وانما الخيار قبل ان تقع البيعة فاذا وقعت فلا خيار، وانما على الامام الاستقامة، وعلى الرعية التسليم، وان هذه بيعة، من ردها رغب عن الاسلام. (الاخبار الطوال ص ۱۲۳ طبع مصر)

ترجمہ - "اے لوگو! تم نے میری بیعت ان ہی باتوں پر کی ہے جن پر مجھ سے پہلے حضرات کی بیعت کی گئی ہے، بیعت ہو جانے سے پہلے انتخابِ امام و خلیفہ میں اختیار تھا، اور جب بیعت ہو چکی تو اب یہ اختیار باقی نہیں رہا، اب تو امام کے ذمہ استقامت اور عوام کے ذمہ تسلیم و رضا ہے، اور جو آدمی اس بیعت کو رد کرے گا وہ اسلام کی راہ سے بے راہ ہو گا۔"

نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی حقیقت کو اس وقت بھی بیان کیا جب ان کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ سے فلاں فلاں گزارش کی، مگر آپ نے توجہ نہ فرمائی۔

" اما انتظاری طاعة جميع الناس من جميع الآفاق فان البيعة لاتكون الا لمن حضر الحرمین من المهاجرین والانصار، فاذا رضوا وسلموا وجب على جميع الناس الرضا والتسليم." (الاخبار الطوال طبع مصر ص ۱۲۷)

(ترجمہ۔) "ربا میرا انتظار کرنا کہ پوری دنیا سے تمام لوگ میری اطاعت کر لیں، تو ایسا نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیعت صرف ان مهاجرین و انصار سے مکمل ہو جاتی ہے جو حرمین میں موجود ہیں، جب ان حضرات نے اسے تسلیم کر کے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تو اب تمام لوگوں پر تسلیم و رضا واجب ہے"

پھر اسی بات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور اہل شام کو بار بار یاد دلایا اور لکھا۔ ہے کہ حرمین کے مهاجرین و انصار نے میری بیعت کر لی ہے، اور ان کی بیعت کر لینے کے بعد خلیفہ کا انتخاب ہو گیا، تم لوگ بھی میری بیعت میں داخل ہو جاؤ، بیعت سے پہلے انتخاب کا حق حاصل تھا، مگر جب بیعت مکمل ہو گئی تو اب اختلاف کا حق باقی نہیں رہا، اور اب تسلیم و رضا ضروری ہے، جیسا کہ پہلے تین خلفاء کے بارے میں ہو چکا ہے۔

انصار و مهاجرین اور عامۃ المسلمین نہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت و خلافت کو تسلیم کرتے تھے، بلکہ ان کے خلاف فتنہ برپا کرنے کو غلط قرار دیتے

تھے، اور دل سے اسے بُرا سمجھتے تھے، مگر ان کے سامنے رسول اللہ ﷺ کی وہ احادیث تھیں جن میں ان کو فتنوں سے بچنے کی تلقین کی گئی تھی، اور کلمہ پڑھنے والوں پر تلوار اٹھانے کی سخت ممانعت کے ساتھ آپس کے اختلافات میں گھر میں بیٹھ رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ مورخ ابو حنیفہ دینوری کا بیان ہے:-

"ثم ان علياً رضی اللہ عنہ اطهرانه يريد السيرالى العراق. فوافاه الناس الا ثلاثه نفر سعد بن ابى وقاص، وعبد اللہ بن عمر بن الخطاب، ومحمد بن مسلمة الانصارى (ايضاً ص ۱۴۲)

(ترجمہ)۔ "بیعت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عراق جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو تمام لوگوں نے ان کی موافقت کی، البتہ تین حضرات سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ تیار نہ ہوئے۔"

علامہ دینوری نے صاف طور سے لکھا ہے کہ مدینہ کے تمام انصار و مہاجرین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دے کر عراق جانے کے لیے تیار ہوئے، صرف تین حضرات نے اس سے معذرت کی، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام و خلیفہ تسلیم کرتے ہوئے صرف فتنہ سے بچنے کی وجہ سے، چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عراق جانے کی تیاری کی اور لوگوں میں اس کا اعلان کر کے ساتھ چلنے کی تلقین کی، تو یہ تینوں حضرات تشریف لائے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان حضرات سے فرمایا کہ:-

"قد بلغنى عنكم هنات كرهتها لكم" (آپ لوگوں کی طرف سے میرے پاس کچھ

عراق میں آپ کو اُمید ہے، اگر آپ اہل شام سے جنگ کے لئے جا رہے ہیں تو حضرت عمرؓ مدینہ میں ہمارے اندر ٹھہرے اور ان کی طرف سے سعدؓ نے قادیسیہ اور ابو موسیٰ نے ابواز کا مورچہ سنبھالا تھا آپ کے پاس بھی ان جیسے آدمی ہیں آدمی ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں اور زمانہ آتا جاتا رہتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ "مال اور آدمی عراق میں ہیں اور اہل شام کی اچھل کود ہو رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ شام سے قریب رہوں"

خلافت اسلامیہ کے انعقاد کے بعد بھی جن چند حضرات نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی، آپ نے ان کے ساتھ نہایت شریفانہ برتاؤ کیا، نہ ان پر سختی کی، نہ بیعت کے لیے مجبور کیا، حالانکہ خلیفہ ہو جانے کے بعد آپ کو اس کا حق حاصل تھا، بلکہ صرف اتنا فرمایا:-

اولئک قوم قعدوا من الحق ولم یقوموا مع الباطل (استیعاب

ج ۲ ص ۲۸۱)

(ترجمہ) "یہ لوگ حق کی مدد سے بیٹھ رہے، مگر باطل کی حمایت میں کھڑے

نہیں ہوئے"

اس سے جانبین کے دلوں کی صفائی اور وسعت قلبی معلوم ہوتی ہے، اور ان میں

اختلاف و تشاجر کے بجائے اعتماد و محبت کا یقین ہوتا ہے۔

## حضرات طلحہ وزبیر و معاویہ رضی اللہ عنہم اور اہل شام کا اقرار

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کا وہم و گمان نہیں تھا کہ معاویہؓ اور اہل شام میری بیعت سے الگ ہیں اور نہ حضرات طلحہ وزبیر رضی اللہ عنہما کی طرف سے یہ خیال تھا کہ وہ میرے مخالف ہیں، بلکہ ان دونوں حضرات اور ان جیسے بعض دوسرے حضرات کے بارے میں خیال تھا کہ کسی امر دینی کی وجہ سے فی الحال انہوں نے بیعت نہیں کی ہے اور بعد میں کر لیں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہونے کے بعد جب پہلا موسم حج آیا تو حضرات طلحہ رضی اللہ عنہ وزبیر رضی اللہ عنہ نے ان کے امیر ہونے کی حیثیت سے ان سے حج کی اجازت طلب کی، آپ نے ان کو اجازت دی۔

وحضر الموسم فاستاذن الزبير و طلحه علياً في الحج فاذن

لهما . (الاخبار الطوال ص ۱۴۳)

(ترجمہ)۔ اور موسم حج آیا تو زبیر رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حج کی اجازت چاہی اور آپ نے ان کو اجازت دی۔ "کیا معلوم تھا کہ مکہ جانے کے بعد صورت حال کچھ اور ہی ہو جائے گی، اور معاملہ دوسرا رنگ اختیار کر لے گا، بہر حال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ہونے کے بعد خلافت کے کاموں کو سکون و اطمینان سے انجام دینا اور مختلف بلاد و امصار میں عمال مقرر کرنا شروع کیا، اسی سلسلہ میں شام پر سہل بن حنیف کو عامل بنا کر روانہ فرمایا، جہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عہد فاروقی سے لے کر عہد عثمانی (اٹھارہ انیس سال) تک عامل رہ چکے تھے، سہل شام کے ارادے سے نکلے، اور جب تبوک میں پہنچے جو شمالی سرحد ہے، تو:-



جنگ صفین کے موقع پر جب عام اہل شام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی نصرت کا ارادہ کیا تو وہاں کے عباد و زبَاد نے اس کے خلاف اپنے نقیب و ترجمان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، اور اپنے جذبات کا بر ملا اظہار کیا:-

اقبل ابو مسلم الخولانی وكان من عباد اهل الشام حتى قدم على معاوية فدخل عليه في الناس من العباد فقال له يا معاوية قد بلغنا انك تهتم بمحاربة علي بن ابي طالب فكيف تنادية وليست لك سابقته (اخبار الطوال ص ۱۶۴)

(ترجمہ) "ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ جو اہل شام کے عباد و زبَاد میں سے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس عابدوں کی ایک جماعت لے کر آئے اور کہا اے معاویہ! ہمیں معلوم ہوا ہے آپ علی بن ابی طالب سے جنگ کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ کیسے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو ان جیسی سابقیت فی الاسلام حاصل نہیں ہے۔"

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات کی، ابو مسلم خولانی نے کہا کہ اس کا معاملہ خط و کتابت سے طے کر لیجیے، لایسے میں آپ کا خط لے کر علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہوں، چنانچہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا خط لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خط دینے کے بعد اثنائے گفتگو میں فرمایا:-

يا ابا الحسن انك قد قمت بامرو وليته، و والله مانحب انه

لغيرك ان اعطيت الحق من نفسك، ان عثمان رضى الله عنه قتل  
مظلوماً فادفع الينا قتلته و انت اميرنا فان خالفك احد من الناس  
كانت ايدينا لك ناصرة والستنا لك شاهدة، وكنت ذاعذر وحجة.  
(اخبار الطوال ص ۱۶۵)

(ترجمہ) اے ابو الحسن! آپ امر خلافت کو لے کر اٹھے ہیں، اور اس کے والی  
ہوئے ہیں، اور خدا کی قسم ہم اسے آپ کے علاوہ کے لیے پسند نہیں کرتے، بشرطیکہ  
آپ خود انصاف کیجئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ظلماً شہید کئے گئے، آپ ان کے  
قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں، اور آپ ہمارے امیر بنیں، اگر اس پر بھی کوئی آدمی  
آپ کا مخالف ہوگا تو ہمارے ہاتھ آپ کے مددگار ہوں گے، اور ہماری زبانیں آپ کے  
لیے گواہ ہوں گی، اور آپ کے لیے معذرت اور دلیل ہوگی۔"

اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو مسلم خولانی کو اپنے پاس ٹھہرایا،  
اور جب صبح کی نماز کے لیے مسجد میں ان کو لے کر گئے تو دیکھا کہ دس ہزار سے زیادہ  
ہتھیار بند موجود ہیں اور سب کے سب کہتے ہیں کہ ہم سب قاتل عثمانؓ ہیں۔ یہ حالت  
دیکھ کر خود ابو مسلم خولانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا:-

انى لارى قوماً مالک معهم امر واحسب انه بلغهم الذى قدمت

له ففعلوا ذلك خوفاً من ان تدفعهم الى. (اخبار الطوال ص ۱۵۶)

(ترجمہ) "میں ایسی جماعت کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی معاملہ  
نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میں کس کام کے لیے آیا ہوں، اور  
انہوں نے اس ڈر سے یہ مظاہرہ کیا ہے کہ آپ ان کو کہیں میرے حوالہ نہ کر دیں۔"

سنیں، اور بغیر کسی انکار کے خاموش رہے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط پڑھ کر اپنے مشیروں سے رائے مشورہ کیا، اور جنگی تیاری ہوئی۔

ایک اور نہایت معتبر شہادت

صفین سے پہلے ہی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح اپنے خاندان کو لے کر اور فتنہ سے الگ ہو کر فلسطین کے ایک گمنام گوشہ میں زندگی بسر کر رہے تھے۔

"وكان مقيماً في ضيعة له من حيز فلسطين قد اعتزل الفتنة"

(الاخبار الطوال ص ۱۵۹)

(ترجمہ) "عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فلسطین کی حدود میں اپنی ایک زمین میں

مقیم تھے، فتنہ سے الگ ٹھگ ہو گئے تھے"

جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جریر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تحریر لے کر گئے، تو انہوں نے خاص طور سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا، وہ اپنے دونوں صاحبزادوں عبداللہ اور محمد کو ساتھ لے کر حاضر ہوئے۔

"فسافرو معلابناہ عبداللہ ومحمد حتی قدم علی معاویہ"

(ص ۱۵۹)

(ترجمہ) "عمرو بن عاص اور ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے عبداللہ اور

محمد معاویہ کے پاس آئے۔"

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے تین اہم معاملات رکھے، جن میں

سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ خط تھا:-

اما بعد فقد لزمك ومن قبلك من المسلمين بيعتي وانا  
بالمدينة وانتم بالشام لانه بايعني الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان  
رضي الله عنهم فليس للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد، وانما  
الامر في ذلك للمهاجرين والانصار فاذا اجتمعوا على رجل مسلم  
فسموه اماماً، كان ذلك الله رضئ فان خرج من امرهم احد لظعن  
فيه او رغبته عنه رد الى ماخرج منه فان ابى قاتلوه على اتباعه غير  
سبيل المومنين، وولاه الله ما تولى ويصله نار جهنم وساءت مصيراً.  
فادخل فيما دخل فيه المهاجرون والانصار، فان احب الامور فيك  
وفيمن قبلك العافية فان قبلتها والا فاذن بحرب، وقد كثرت في  
قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه الناس ثم حاكم القوم التي احملك  
واياهم على ما في كتاب الله وسنة نبيه، فاما التي تريدها فانما هي  
خدعة الصبيبي عن الرضاع. ( اخبار الطوال ص ۱۵۹ )

(ترجمہ) "اما بعد! آپ پر اور جو لوگ آپ کی طرف میں ان سب پر میری بیعت  
لازم ہے، حالانکہ میں مدینہ میں ہوں اور آپ لوگ شام میں ہیں، کیونکہ میری بیعت ایسے  
لوگوں نے کر لی ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم سے بیعت کی تھی،  
اس کے بعد نہ حاضر کو اختیار ہے کہ دوسرا امام چننے، اور نہ غائب کو اختیار ہے کہ اس  
بیعت کو رد کرے، اس بارے میں معاملہ مهاجرین و انصار پر موقوف ہے، جب انہوں  
نے ایک مسلمان آدمی پر اجتماع کر کے اسے امام کے نام سے پکارا تو یہ اللہ کی رضا کا

معاملہ بن گیا، اب اگر کوئی آدمی ان کے اس معاملہ پر اعتراض کرے یا اس سے اعراض کر کے باہر ہو گا تو اسی بیعت کی طرف لوٹایا جائے گا، جس سے باہر ہوا ہے۔ اس کے بعد اگر اس نے انکار کیا تو لوگ اس سے مومنوں کی راہ کے علاوہ راہ اختیار کرنے پر جنگ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے عمل کے مطابق سزا دے گا، اور اسے جہنم کی آگ میں جلانے کا، اور جہنم کی آگ اس کا برا ٹھکانہ ہوگی۔ پس آپ بھی اس بیعت میں داخل ہو جائیے، جس میں مہاجرین و انصار داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے سب سے پسندیدہ چیز راحت و عافیت ہے، اگر آپ اسے منظور کرتے ہیں تو فبہا ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، آپ نے قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت کچھ کیا ہے، اب جس امر میں سب لوگ داخل ہو چکے ہیں، آپ بھی داخل ہو جائیے، پھر قوم کا محاکمہ میرے پاس لائیے میں آپ کو اور ان سب کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ ﷺ پر آمادہ کروں گا، اور جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ تو بچے کے دودھ چھڑانے کا بہانہ ہے۔"

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس خط کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت عمرو بن عاصؓ سے کہا کہ جریر علی بن ابی طالب کا یہ خط لے کر آئے ہیں، جس میں انہوں نے ہمیں اپنی بیعت میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہونے کو لکارا ہے، اس پر حضرت عمرو بن عاص نے اپنے تاثرات کو ان الفاظ میں بیان کیا:-

"اما علی بن ابی طالب فان المسلمین لایساون بینک و بینہ"  
(ترجمہ) "علی بن ابی طالب کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان ان کو اور آپ کو برابر

نہیں سمجھتے۔"

یہ سن کر حضرت معاویہ نے کہا:-

"انه ملاء على قتل عثمان واظهر الفتنة وفرق الجماعة"  
(ترجمہ) "انہوں نے قتل عثمان رضی اللہ عنہ میں مدد کی، اور فتنہ ظاہر کیا اور  
جماعت میں تفریق ڈالی۔"

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان کی اس بات کا جواب دیا:-

انه وان كان كذلك فليست لك مثل سابقته وقرابته"

(اخبار الطوال ص ۱۶۰)

(ترجمہ) "واقعہ یہ ہے کہ ان کے ایسا ہونے کے باوجود آپ کو ان کے جیسی اسلام  
لانے میں اولیت اور رسول اللہ ﷺ سے قرابت نہیں ہے۔"

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس خط اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت  
عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی اس گفتگو کے بعد یہ باتیں واضح طور پر سامنے آجاتی ہیں:-  
(۱) مہاجرین و انصار کے بیعت میں عام طور سے داخل ہونے سے بیعت پوری ہو چکی  
تھی، اور اب اس کے بعد انکار کا کوئی موقع نہیں تھا۔ بیشک اس سے پہلے اختلاف کا  
حق تھا۔

(۲) حضرت علیؓ قاتلین عثمان کے مطالبہ کو اجتماعی طور پر کتاب و سنت کی روشنی  
میں طے کرنا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک اس میں گروہ بندی مفید نہ تھی۔

(۳) حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی فریقین سے الگ ہو گئے تھے، اور اپنے بال  
بچوں کو لے کر ایک گمنام مقام پر چلے گئے تھے۔

شر حبیل کی اس عام تحریک اور پروپیگنڈے کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہا، البتہ شام کے علاقہ حمص کے عباد و زناد شر حبیل کے پھندے میں نہیں آسکے، اور انہوں نے اپنے گھروں اور مسجدوں کو نہیں چھوڑا،

"فاجابه الناس كلهم الا نفر من اهل حمص نساكا فانهم قالوا

نلزم بيوتنا و مساجدنا وانتم اعلم.

(ترجمہ) "تمام لوگوں نے شر حبیل کی آواز پر لبیک کہا البتہ حمص کے چند

افراد نے انکار کیا اور کہا کہ ہم اپنے گھروں اور اپنی مسجدوں میں رہیں گے، تم لوگ اس معاملہ کو زیادہ جانتے ہو"

جب حضرت معاویہؓ نے اہل شام کا رنگ بے رنگ دیکھا، اور شر حبیل سے ان

کی بیعت کا حال معلوم کر لیا تو مجبوراً حضرت علیؓ کے سفیر جریر سے کہا کہ جاؤ اور کچھ دو کہ میں اور اہل شام ان کی بیعت نہیں کر سکتے۔۔

" فلما ذاق معاوية اهل الشام، و عرف مبايعتهم له قال لجرير

الحق بصاحبك واعلمه اني واهل الشام لانجيبه الى البيعة. (الاخبار

الطوال ص ۱۶۲)

(ترجمہ) "جب معاویہؓ نے اہل شام کو دیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ انہوں نے شر حبیل

کی بیعت کر لی ہے تو مجبوراً جریر سے کہا کہ تم اپنے صاحب (علیؓ) کے پاس جا کر ان کو خبر کرو کہ میں اور اہل شام ان کی بیعت کو قبول نہیں کر سکتے۔"

اس واقعہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت معاویہؓ شامیوں سے کس قدر مجبور ہو

گئے تھے، اور صلح و مصالحت اور امن و امان کے لیے تیار ہو جانے کے باوجود اہل شام کی

ضد اور شرارت کے باعث نہ وہ حضرت علیؑ کی بیعت کر سکے، اور نہ فتنہ کے فرو کرنے کرانے میں کامیاب ہو سکے، مولف نے بار بار حضرت علیؑ کو سبائیوں کے ہاتھوں مجبور و معذور ہو جانے کا پروپیگنڈا کیا ہے مگر حضرت معاویہؓ کا شامیوں کے ہاتھوں اس درجہ مجبور ہو جانے کو بیان نہیں کیا۔

واقعہ یہ ہے کہ آخر میں دونوں طرف شریروں اور فتنہ پروروں کا زور ہو گیا تھا۔ اور وہ معاملہ پر غلبہ حاصل کر کے صلح نیتوں کے لیے حجاب بن گئے تھے، صرف حضرت علیؑ کو سبائیوں کے پردے میں مطعون کرنا، اور ان پر الزام دینا، اور شامیوں کی ان حرکتوں کو چھپاتے ہوئے سراہنا دیا ننداری نہیں، جانبداری ہے، جو بے لاگ محقق کے لیے کسی طرح زبا نہیں ہے۔

صحابہ کرامؓ ان فتنوں سے الگ رہے

پھر چونکہ جنگ جمل اور جنگ صفین کا تعلق بیگامی اور مقامی صورت حال سے تھا، اس لئے پورا عالم اسلام اس سے الگ رہا، اور شامی اور مصری فوجیں نبرد آزما ہوئیں، یہ نہ کوئی کفار کے خلاف جہاد تھا، اور نہ فتنہ ارتداد کے خلاف اقدام تھا، بلکہ مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی تھی، اس لیے تمام بلادِ اسلامیہ عموماً اس سے الگ ہی رہے، اور طرفدارانِ بنو امیہ اور شیعانِ اہل بیت لڑے بھڑے اسی لیے حضرات صحابہ کرامؓ نے حضرت علیؑ کے موافق ہونے کے باوجود اپنے کو فتنہ سے دور رکھا، اور حضرت معاویہؓ کا ساتھ تو کیا دیتے، حضرت علیؑ کا ساتھ بھی نہ دے سکے، اگر وہ حضرت معاویہؓ کے طرفدار بن کر حضرت علیؑ کے خلاف صف آراء ہوئے ہوتے تو حضرات طلحہ و زبیرؓ کی طرح وہ بھی



## حضرت علیؓ کا اپنی خلافت پر بلیغ تبصرہ

حضرت علیؓ نے اپنی خلافت کے بارے میں ایک نہایت ہی بلیغ اور جامع تبصرہ فرمایا ہے، اور دو لفظ میں اپنے دورِ خلافت کی پوری حقیقت واضح کر دی ہے، حضرت علیؓ کا اپنی خلافت کے بارے میں یہ اظہار خیال بر موافق و مخالف کے غور و فکر کے لیے پینارہ نور ہے، علامہ ابن خلدون مقدمہ میں لکھتے ہیں:-

سأل رجل علياً رضي الله تعالى عنه ما بال المسلمين اختلفوا عليك، ولم يختلفوا علياً ابى بكر وعمر، فقال لان ابا بكر وعمر كانا واليين علياً مثلى، وانا اليوم وال علياً مثلك (مقدمہ ابن خلدون ص ۱۷۶)

(ترجمہ) "ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے آپ کے بارے میں اختلاف کیا، اور حضرات ابو بکرؓ اور عمرؓ کے بارے میں اختلاف نہیں کیا، حضرت علیؓ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ ابو بکر و عمر مجھ جیسے کے والی و خلیفہ تھے، اور میں آج تم جیسے کا والی ہوں"

ایک دیانتدار مورخ و ناقد اور منصف مزاج مؤلف و محقق کے لیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ ان کے پورے دورِ خلافت کی حقیقی تصویر ہے اور ان کے اس جواب کے بعد ان کے دورِ خلافت کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہو سکتی اسی لیے تو علم تاریخ کے مجدد و ناقد علامہ ابن خلدون نے یہ جملہ نقل کر کے حضرت علیؓ کے حق میں ہر طرح کے شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیا ہے۔

## ان محاربات میں اقرب الی الحق کون لوگ تھے؟

حضرت علیؑ اور معاویہؓ کے مابین جو محاربات ہوئے ہیں ان میں کون حق سے قریب تھا، اور کون حق سے دور تھا، اسے علامہ ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں:-

واما محاربتہ فلامورلا تخرجه عن الاسلام، وان كان علیؑ

اقرب الی الحق، واولیٰ بہ منه (المنتقى ص ۲۶)

(ترجمہ) معاویہؓ کا علیؑ سے جنگ کرنا ایسی باتوں کی بنا پر تھا، جو ان کو اسلام سے خارج نہیں کرتی ہیں، اگرچہ علیؑ اقرب الی الحق تھے، اور معاویہؓ کے مقابلے میں اس کے زیادہ مستحق تھے،

اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ نے حضرت علیؑ کے اقرب الی الحق کی دلیل میں بخاری و مسلم کی احادیث اور صحابہ کی روایات کو پیش کیا ہے، جن میں رسول اللہ ﷺ نے فتنہ کے ایام میں گھر میں بیٹھ رہنے کی تاکید فرمائی ہے، اور جن کے راوی نہ حضرت علیؑ کے ساتھ لڑے، نہ حضرت معاویہؓ کے ساتھ لڑے۔

كسعد بن ابی وقاص، و محمد بن مسلمة واسامہ لم یقاتلوا لا مع علیؑ، ولا مع معاویہ ثم الذین قاتلوا مع علیؑ اخف جرماً من الذین قتلوا عثمان صبراً“ (المنتقى ص ۲۶)

(ترجمہ) جیسے سعد بن ابی وقاص، و محمد بن مسلمہ، واسامہ، جنہوں نے نہ تو علیؑ کے ساتھ لڑ کر قتال کیا اور نہ معاویہؓ کے ساتھ لڑ کر قتال کیا پھر جن لوگوں نے علیؑ کے ساتھ لڑ کر قتال کیا ان کا جرم ان لوگوں سے ہلکا ہے جنہوں نے حضرت عثمانؓ کو گھیر کر قتل کیا۔

امام ابن تیمیہ حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ دونوں کی حیثیت اور ان کے مقام و موقف کی توضیح کرتے ہوئے دونوں کے طرفداروں کی حرکتوں کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

"واكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون علياً ولا معاوية وكان علي ومعاوية رضی اللہ عنہما اطلب لكف الدماء من اكثر المقتتلين لكن غلبا فيما وقع (ص ۲۶۳)

(ترجمہ) دونوں گروہوں میں سے اکثر لوگ جو جنگ کرنا چاہتے تھے وہ علیؑ کی اطاعت کرتے تھے نہ معاویہؓ ہی کی۔ اور علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما خون خرابہ نہ ہونے کے خواہاں ان لوگوں سے زیادہ تھے جو وہاں طلب جنگ کر رہے تھے لیکن جو واقع ہوا اس میں دونوں حضرات مغلوب ہو گئے۔"

مؤلف نے صرف حضرت علیؑ کو سبائیوں کے ہاتھوں مجبور و معذور بنانے پر سارا زور خرچ کیا ہے، اور ان کو بے دست و پا بنا کر سبائیوں کے ہاتھ دے دینے کی ترکیب نکالی ہے، مگر امام ابن تیمیہ حضرت علیؑ کو حق سے قریب تر اور ان کے آدمیوں کو قاتلین عثمانؓ کے مقابلہ میں کم گناہ گار بناتے ہیں اور حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ دونوں کے آدمیوں کو نافرمان، خود غرض، اور من مانی کارروائی کرنے والے کے ساتھ دونوں کو نافرمان ثابت کرتے ہیں، اور حضرت علیؑ کی طرح حضرت معاویہؓ کو بھی جنگ بازوں سے مغلوب ثابت کرتے ہیں، حضرت معاویہؓ کا شامیوں کے ہاتھوں مجبور ہو جانے کا واقعہ ابھی ابھی آپ نے پڑھا ہے، اس کی روشنی میں امام ابن تیمیہ کے اس قول کو دیکھئے تو حقیقت سامنے آجائے گی۔

## حضرت علیؓ اور امام احمد بن حنبلؒ

سید الفقہاء والمحدثین، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت علیؓ کی خلافت و امامت کے بارے میں جو حقیقت بیان کی ہے، اسے ہم امام ابن جوزی کی کتاب ”مناقب الامام احمد بن حنبل“ سے پیش کرتے ہیں محترم ناظرین اس تصریح کو اس حیثیت سے دیکھیں کہ یہ امام المحدثین حضرت امام احمد کا مسلک ہے، اور ان کے مقابلہ میں مؤلف کتاب ”خلافت معاویہ و یزید“ نے جو کوشش کی ہے وہ ان کی یا ان جیسے لوگوں کی ذاتی رائے ہے۔

ایک مرتبہ کچھ لوگ خلفائے اربعہ کی خلافت کا ذکر کر رہے تھے، انہوں نے حضرت علیؓ کے بارے میں گفتگو طویل کی تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا:-

يا هؤلا وقد اكثرتم القول في علي و خلافته ان الخلافة لم

تزين علياً بل علي زينها (مناقب الامام احمد ص ۱۶۳)

(ترجمہ) ”اے لوگو! تم نے علیؓ اور خلافت علیؓ کے بارے میں گفتگو طویل کی،

خلافت نے علیؓ کو زینت نہیں بخشی، بلکہ علیؓ نے خلافت کو زینت بخشی ہے۔“

آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد بن حنبل کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ والد

محترم نے حدیث سفینہ کو بیان فرمایا میں نے عرض کیا، اے والد تفضیل صحابہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا خلافت میں ابو بکرؓ اور عمرؓ، اور عثمانؓ ہیں، یہ سن کر میں نے عرض کیا اور علیؓ ابن ابی طالب تو فرمایا:-

يابنبي علي بن ابي طالب من اهل بيت لا يقاس بهم احد (ايضاً ص ۱۶۳)

حیدرآباد لطیف آباد، پونٹ نمبر ۸-۸۱-۸۱

(ترجمہ) "اے بیٹے! حضرت علی تو ایسے خاندان سے ہیں کہ اس پر کسی کو

قیاس نہیں کیا جاسکتا۔"

ضاحر زاده عبداللہ کا بیان ہے کہ :-

سمعت ابی یقول مالا حد من الصحابه من الفضائل بالاسانید

الصّاح مثل لعلی رضی اللہ عنہ (ص ۱۶۳)

(ترجمہ) "میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت علیؑ کے جتنے

فضائل صحیح سندوں کے ساتھ احادیث میں وارد ہوئے ہیں اتنے کسی دوسرے صحابی کے نہیں۔"

ابو سعید بشام بن منصور بخاری کا بیان ہے میں نے امام احمد بن حنبل کو یہ

فرماتے ہوئے سنا ہے :-

من لم یثبت الامامة لعلی فهو اضل من حمار اہلہ (ص ۱۶۳)

(ترجمہ) "جو آدمی حضرت علی کے لیے خلافت نہ تسلیم کرے تو وہ اپنے

گھروالوں کے گدھے سے بھی احمق ہے۔"

حنبل نامی ایک راوی کا بیان ہے کہ میں نے امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل

سے سوال کیا کہ کیا حضرت علیؑ کی خلافت ثابت ہے؟ تو آپ نے فرمایا :-

سبحان اللہ یقیم علیّ الحدود، ویقطع، ویأخذ الصدقة،

ویقسمها بلا حق وجب له؟ اعوذ باللہ من هذه المقالة نعم خليفة

رضیہ اصحاب رسول اللہ ﷺ وصلوا خلفه، وغزوا معه وجاهدوا

وحجوا وكانوا یسمونه امیر المومنین، راضین بذالك غیر منکرین

فمن تبع لهم. ( مناقب الامام ص ۱۶۴ )

(ترجمہ) "سبحان اللہ! کیا بلا حق کے جو حضرت کو حاصل تھا وہ حدود قائم کرتے تھے ہاتھ کاٹتے تھے، اور زکوٰۃ و صدقات وصول کر کے اسے تقسیم کیا کرتے تھے؟ میں اس بات سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، ہاں اس لئے علیؑ خلیفہ تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ ان سے راضی تھے، انہوں نے حضرت علیؑ کے پیچھے نماز پڑھی، ان کے ساتھ غزوہ جہاد، اور حج کیا، اور وہ ان کو امیر المؤمنین کہتے تھے، ان کی امارت و خلافت سے راضی تھے، منکر نہیں تھے، اس لیے ہم تو ان ہی صحابہ کے تابع ہیں۔"

حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایمان افروز باتوں کو غور سے پڑھئے، اور آپ بھی بتائیے کہ آپ امام احمد کی طرح ان حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہمنوا ہیں جنہوں نے حضرت علیؑ کو خلیفہ برحق تسلیم کر کے ان کا پورا پورا ساتھ دیا، یا ان لوگوں میں سے ہیں جو حضرت علیؑ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور ان کو گدھے کی سی بھی عقل نہیں ہے، یہاں پر حدیث سفینہ کا تذکرہ اس ضمن میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ امام صاحب نے اسی حدیث کو بیان فرمایا اور اسی کی روشنی میں خلفائے اربعہ کی خلافت کے برحق ہونے کو ثابت کیا، اس حدیث پر امام صاحب کا مفصل بیان آگے آئے گا۔

اگر ہم اس جگہ محدثین گرام کے بیانات کو درج کریں اور خلافت اور خلفائے اربعہ کے اعتقاد کے بارے میں احادیث کی روشنی میں سلف صالحین کی تصریحات کو پیش کریں تو بات طویل ہو جائے گی، اور اس کے لیے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہوگی۔

فبین ان کل طائفة منهما تتعلق بالحق ولكن طائفة علی ادنی الیه  
(ص ۱۶۸)

(ترجمہ) "رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا کہ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے گروہوں میں سے ہر ایک حق سے تعلق رکھتا تھا مگر علیؓ کا گروہ حق سے بہت زیادہ قریب تھا۔"

رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمار بن یاسرؓ کے بارے میں فرمایا تھا کہ  
تقتله الفئة الباغية. (صفحہ ۱۷۰) ان کو حضرت معاویہؓ کے گروہ نے قتل کیا، اس کے  
بعد قاضی ابوبکر بن العربی مالکی اندلسی لکھتے ہیں:-

وقتل عثمان فلم يبق على الارض احق بها من عليؓ، فجاءته  
على قدر في وقتها و محلها، و بين الله على يديه من الاحكام  
والعلوم ما شاء الله ان يبين، وقد قال عمر لولا عليؓ لهلك عمر،  
وظهر من فقهه وعلمه في قتال اهل القبلة، من استدعائهم ومناظرتهم  
وترك مبادرتهم والتقدم اليهم قبل نصب الحرب معهم وندائه انه لا نبدا  
بالحرب ولا يتبع مولى، ولا يجهز على جريح، ولا تهاج امرأة ولا نغتم  
لهم مالا، وامره بقبول شهادتهم، والصلوة خلفهم، حتى قال اهل

العلم لولا ماجرى ما عرفنا قتال اهل البغي (ص ۱۹۴)

(ترجمہ) "جب حضرت عثمانؓ کا قتل ہوا تو روئے زمین پر خلافت کا مستحق  
حضرت علیؓ سے زیادہ کوئی نہیں تھا، چنانچہ خلافت علیؓ کے پاس بروقت اور بر محل آئی،  
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر اسلامی احکام و علوم میں سے جس قدر چاہا، ظاہر فرمادیا

اور حضرت عمرؓ نے کہا ہے کہ اگر علیؓ نہ ہوتے تو عمرؓ بلاک ہو جاتا اور اہل قبلہ کے ساتھ قتال کرنے کے سلسلے میں حضرت علیؓ کے علم و فہم سے یہ حقائق ظاہر ہوئے کہ انہوں نے ان کو خود بلایا ان سے بحث و مباحثہ کیا، اور ان سے جنگ چھڑنے سے پہلے ان کی طرف نہیں بڑھے، اور نہ ان پر وار کیا، اور جب لڑائی ہونے لگی تو اعلان کیا کہ بھاگنے والے کا تعاقب نہ کیا جائے کسی زخمی کو اور زخمی کر کے نہ مار ڈالا جائے، نہ کسی عورت کو چھیڑا جائے، نہ ان کا مال غنیمت کے طور پر لیا جائے۔ نیز آپ نے ان کی گواہی قبول کرنے، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اہل علم نے کہا ہے کہ اگر یہ باتیں حضرت علیؓ کی طرف سے وقوع پذیر نہ ہوئی ہوتیں تو ہم باغیوں سے جنگ کرنے کو نہ سمجھتے۔"

فرمائیے یہ امام قاضی ابو بکر بن عربیؒ کی تصریحات کیا ثابت کر رہی ہیں، جن کی مؤلف نے تعریف و توصیف کی ہے، اور خود مؤلف کیا سمجھتے ہیں؟ ان عبارتوں سے یہ باتیں بالکل ظاہر ہیں:-

- (۱) حضرت علیؓ کے خلاف حضرت معاویہؓ کا اقدام دم عثمان کے پردے میں غلط تھا۔
- (۲) قتل حضرت عثمانؓ سے حضرت علیؓ بالکل بری تھے، (۳) ان مشاجرات میں حق حضرت علیؓ کی طرف تھا، (۴) حضرت علیؓ کی خلافت برحق و بر محل تھی اور انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ اسلامی تعلیم کے عین مطابق تھا، قاضی ابو بکر بن عربی اور ان کی کتاب پر تفصیلی بحث بعد میں آئے گی۔



## حضرت حسینؑ اور ان کا مقام و موقف

مؤلف کتاب ”خلافت معاویہؓ و یزیدؓ“ نے حضرت حسینؑ کو غلط کار اور حق کے خلاف خروج کا اقدام کرنے والا ثابت کرنے کے سلسلہ میں لکھا ہے:-

نبی ﷺ کے ارشادات اور احکام شریعت کی تصریحات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت حسینؑ کے امیر یزید کے خلاف اقدام خروج کا جواز مطلق نہ تھا، صحابہ کرامؓ نے جو ان سے ملے، انہیں طرح طرح سے سمجھایا، اور اس غلط اقدام سے باز رکھنے کی کوششیں کیں، (ص ۶۸)

یزید کا ایک قصیدہ نقل کر کے لکھا ہے:-

”تیسرے شعر کے مضمون سے ثابت ہے کہ حضرت حسینؑ نے بھی امیر المومنین معاویہؓ کی زندگی میں امیر یزید کی ولی عہدی کی بیعت کی تھی (ص ۷۵)

اس کے بعد کمال غیر ذمہ داری سے ایک مسیحی مورخ ”دوزی“ کا یہ اقتباس حضرت حسینؑ پر چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے:-

”یہی کیفیت اخلاف کی (حضرت) حسینؑ کے متعلق ہے جو ان کو ایک طفلانہ جرم کا کشتہ خیال کرتے ہیں، ایرانی شدید تعصب نے اس تصویر میں خدوخال بھرے، اور (حضرت) حسینؑ کو بجائے ایک معمولی قسمت آزما کے جو ایک انوکھی نغزش و خطائے ذہنی اور قریب قریب غیر معقول حب جاہ کے کارن بلاکت کی جانب تیزی سے رواں دواں ہوں، ولی اللہ

کے روپ میں پیش کیا ہے، ان کے ہم عمروں میں اکثر و بیشتر انہیں ایک دوسری نظر سے دیکھتے تھے، وہ انہیں عہد شکنی اور بغاوت کا قصور وار خیال کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے (حضرت) معاویہؓ کی زندگی میں یزید کی (ولی عہدی) کی بیعت کی تھی، اور اپنے حق یا دعویٰ خلافت کو ثابت نہ کر سکے تھے۔ (ص ۷۶)

ایک متعصب نصرانی مورخ کا نام لے کر مؤلف نے حضرت حسینؓ کو ولی اللہ کے روپ میں حب جاہ اور خطائے ذہنی کا گرفتار بتایا ہے، ان کے معاصرین کو انکے بارے میں بدگمان ثابت کیا، اور ان کو ایک معمولی قسمت آزما بنانے کی کوشش کی ہے۔

اس کے آگے مؤلف نے کھل کر اپنی بیماری کو جو حضرت علیؓ اور حضرت حسینؓ کے خلاف دل میں پیدا ہو گئی ہے، ان الفاظ میں ظاہر کیا ہے:-

”حضرت علی المر تقنی کی تلوار اگر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہؓ زوجہ مطہرہ و خبیبہ رسول صلوٰۃ اللہ علیہا کے خلاف بے نیام ہو سکتی اور اس بودج پر تیر برسائے جاسکتے ہیں، جس میں تمام امت کی ماں تشریف فرما ہو تو حضرت حسینؓ کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھائی جاسکتی جن کی دعوت محض یہ تھی کہ نبی ﷺ کا نواسہ اور حضرت علیؓ کا فرزند ہونے کی حیثیت سے خلیفہ انہیں بنایا جائے، باوجود اس کے ان کے خلاف شروع سے متشددانہ کارروائی نہیں کی گئی، حالانکہ اصولاً یہ مطالبہ ایسا تھا کہ نہ کتاب اللہ سے اس کی کوئی سند پیش کی جاسکتی ہے، نہ سنت رسول ﷺ

ﷺ سے، نہ تعامل خلفائے راشدین اور نہ عزائم آل البیت سے، یہی وجہ ہے کہ امت اس نظریہ پر مجتمع نہیں ہوئی، بلکہ کسی درجہ میں بھی اسے قابل اعتناء نہیں سمجھا (ص ۱۸۰)

ان چند سطروں میں حضرت حسینؑ کے خلاف اس قدر زہر ہے کہ اگر اسے ساری کتاب میں پھیلا دیا جائے تو بھی پورا کا پورا بچ رہے گا، اور کتاب زہریلی ہو جائے گی، جب کہ مؤلف نے پوری کتاب میں یہی کیا ہے۔

ان خرافات، مزعومات، اور یہودہ خیالات کو ثابت کرنے کے لیے مؤلف نے وہ سب کچھ کیا ہے جو ایک کھلے ہوئے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔

انہوں نے کتابوں کے حوالے غلط دیے ہیں، عبارتوں میں خیانت کی ہے، مطالب غلط بیان کیے ہیں، ترجمہ غلط کیا ہے، واقعہ کہیں کا ہے، اور اسے کہیں چسپاں کیا ہے، جیسا کہ آئندہ صفحات میں نہایت مدلل و مفصل طور پر معلوم ہو گا۔

## اقدام حسینؑ کی ضرورت کتاب و سنت کی روشنی میں

اسلام میں جہاں ایک طرف اتحاد و اتفاق اور امن و امان قائم کرنے اور برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے اور اس کے لیے بڑی سے بڑی جماعتی اور انفرادی قربانی دے کر صبر کی تلقین آئی ہے، وہاں ظلم و ستم، فسق و فجور اور منکرات کو مٹانے اور ان کے خلاف خروج کرنے اور صف آراء ہونے کا حکم بھی آیا ہے۔ اسلام کی راہ اعتدال کی راہ ہے، اور حالات کو اعتدال پر رکھنے کے لیے زمانہ اور ماحول کے مطابق دونوں قسم کے احکام

سریع طور سے موجود ہیں، اگر ہر جابر و ظالم اور فاسق و فاجر غلبہ و حکمران کے مقابلہ میں صبر و ضبط کی روش اختیار کی جائے گی تو دنیا میں ظلم و ستم اور فسق و فجور کا بازار گرم ہو جائے گا، اور ارباب عزیمت کے لیے اصلاحِ حال کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور اگر حال و استقبال کا جائزہ لیے بغیر ہر ظالم و جابر طاقت سے ٹکری جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اصلاح کے بجائے شر و فساد میں اور بحران پیدا ہو جائے، اس لیے مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ جہاں تک امن و امان اور اتحاد و اتفاق کا تعلق ہے تم اپنی طرف سے اس کی بحالی کی پوری کوشش کرو، اور اپنی ذات سے امت میں فتنہ نہ ہونے دو، اور جہاں تک ظلم و ستم، فسق و فجور اور نواہی و منکرات کے خلاف نفرت، اقدام اور مقابلہ کا تعلق ہے اس کی روح ضرور باقی رہنی چاہئے، اور کم از کم ایک جماعت اس کے لیے ہونی ہی چاہئے جو ظلم و فسق کا مقابلہ کرے، اور حالات کے تقاضے کے مطابق وہ اپنی قوت و عزیمت کو اپنی صوابدید کے مطابق استعمال کرے،

مؤلف کتاب "خلافتِ معاویہؓ و یزید" نے یزید کی طرف داری میں فتنہ سے بچنے اور پر امن رہنے کے بارے میں احادیث و واقعات تو نقل کر دیے مگر حضرت حسینؓ کو غلط کار ثابت کرنے کے لیے ان تمام آیات و احادیث اور واقعات کو چھپا دیا جن میں امر بالمعروف و نہی المنکر کا حکم آیا ہے۔ ظالم حکمران کے مقابلہ میں حق بات کہنے کو افضل جہاد بتایا گیا ہے، اور دین کے اصول و فروع میں تغیر و تبدل کو مردود قرار دے کر اس کے مٹانے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہم چند آیات و احادیث مثال کے طور پر یہاں درج کرتے ہیں، جن سے معلوم ہوگا کہ حضرت حسینؓ کا خروج یزید کے خلاف ارشاداتِ نبوی اور احکامِ شریعت کی رو سے نہ صرف جائز بلکہ واجب تھا، اور حضرت

نے فرمایا:-

كلمة حق عند سلطان جائر ( نسائی با سناد صحیح )

(ترجمہ) "ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کبھ دینا ہے۔"

(۴) والذی نفسی بیدہ لتامرین بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، ثم تدعونہ فلا یتجاب لکم (ترمذی)

(ترجمہ) "قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرو اور نہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عقاب و عذاب برپا کرے گا، اس کے بعد تم اس سے دعا کرو گے تو تمہاری دعا مستجاب نہ ہوگی۔"

(۵) ان الناس اذاروا الظالم فلم یأخذوا علیٰ یدیہ، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب منہ ( ابو داؤد، ترمذی نسائی )

(ترجمہ) "جب لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب پر اپنا عام عذاب و عقاب برپا کر دے گا۔"

(۶) انه یتعمل علیکم امراء فتعرفون وتنكرون، فمن کره فقد بریء، ومن انکر فقد سلم، ولكن من رضی وتابع قالوا یا رسول اللہ الاتقاتلہم؟ قال لا ما قاموا فیکم الصلوۃ، (مسلم)

(ترجمہ) "خوب سمجھ لو کہ تم لوگوں پر ایسے ایسے امیر و حاکم بنائے جائیں گے جنہیں تم اچھا اور برا سمجھو گے، جو آدمی ان کو ناپسند کرے وہ بری الذمہ ہے، اور جو ان

کا انکار کریگا، سلامت رہے گا، مگر جو ان سے راضی ہو کر ان کا تابع ہوگا، اس پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم لوگ ایسے امراء و حکام سے جنگ نہ کریں؟ آپ نے کہا، جب تک وہ تم میں رہ کر نماز پڑھیں اس وقت تک جنگ نہ کرنا۔"

(۷) عن عبادة بن الصامت قال با معنا رسول الله علي السمع والطاعة في العسر، واليسر، والمنشط والمكره، وعلى اثرة علينا، وعلى ان لانتازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا، عندكم من الله برهان، وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. (بخاری و مسلم)

(ترجمہ) "حضرت عباده بن صامتؓ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے ان باتوں پر بیعت کی، تنگی، کشادگی، خوشی، ناخوشی ہر حال میں سماع و طاعت پر اور مستحق کا حق غیر مستحق کو دے دینے پر صبر کرنے پر اور اس بات پر کہ ہم صاحب امر سے جھگڑا نہ کریں گے مگر اس صورت میں کہ تم لوگ کفر صریح دیکھو، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل بھی ہو اور اس بات پر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔"

(۸) من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد (بخاری مسلم)

(ترجمہ) "جو شخص ہمارے امر میں ایسی بات ایجاد کر دے جو اس سے نہیں ہے تو اس کا یہ کام مردود ہے۔"

(۹) من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد (مسلم)

(ترجمہ) "جو شخص ایسا کام کرے جس پر ہمارا امر نہیں ہے تو اس کا وہ کام مردود ہے"

(۱۰) حضرت عائد بن عمرو رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عراق کے والی عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے اور کہا۔

یا بنی ائی سمعت رسول اللہ ۱؎ یقول ان شر الرعاء الحطمة، فیاک ان تکون منهم

(ترجمہ) "اے بیٹے! میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بدترین حکمران ظالم لوگ ہیں، اس لیے تم اس بات سے بچو کہ ان میں سے ہو۔ صحابی رسول ﷺ کی اس زرم و شیریں بات کو سن کر عبید اللہ بن زیاد نے کہا:-

قال له اجلس فانما انت نخالة اصحاب محمد ﷺ

(ترجمہ) "بیٹہ جاؤ تم اصحاب محمد ﷺ میں (کھوکھلے) ہو۔"

اس کے اس جملہ کو سن کر حضرت عائد نے فرمایا:-

وهل كانت لهم نخالة، انما كانت النخالة بعد هم وفي غير هم (مسلم)

(ترجمہ) "کیا صحابہ میں نخالہ بھی تھے، نخالہ تو ان کے بعد اور ان کے سوا لوگوں میں تھا۔"

ان احادیث و واقعات کو دیکھئے اور سوچئے کہ اگر حسینؑ اور ان کے ہمراہی اس

وقت ظلم و فسق کے مقابلہ میں کھڑے نہ ہو جاتے تو امت مسلمہ کا انجام کیا ہوتا اور بات

کہاں سے کہاں جا پڑتی۔

یزید کے خلاف اقدام کی شدید ضرورت اور حسین رضی اللہ عنہ کا مقام

جب یزید کا فسق و فجور خلافت و امارت پانے کے بعد اور زیادہ ہو گیا اور وہ علی الاعلان غلط کاریوں میں مبتلا ہوتا رہا، جس کی خبر دور دراز مقامات تک پھیل گئی، تو ایسے وقت میں حضرت حسینؑ اس امام جا ر اور خلیفہ غلط کار کے مقابلہ میں دین و دیانت کے خالص جذبہ اور حق و صداقت کی پاکیزہ نیت کے ساتھ نکلے، علامہ ابن خلدون مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

واما الحسينؑ فانه لما ظهر فسق يزيد عند الكافة من اهل عصره بعثت شيعة اهل البيت بالكوفة للحسينؑ ان ياتيهم فيقوموا بامرہ فرأى الحسينؑ ان الخروج على يزيد متعين من اجل فسقه لاسيما من له القدرة على ذلك ووطنها من نفسه باهلية و شوكة فاما الاهلية فكانت كما ظن او زيادة واما الشوكة فغلط يرحمه الله فيها، (مقدمہ

ابن خلدون طبع مصر ص ۱۸۰)

(ترجمہ) "حسینؑ کا معاملہ یہ ہے کہ جب یزید کا فسق اس کے زمانہ کے تمام لوگوں پر ظاہر ہو گیا تو کوفہ میں اہل بیعت کے طرفداروں نے حسینؑ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ان کے یہاں آجائیں، وہ لوگ اس کے معاملہ کو اٹھائیں گے، اس وقت حسینؑ نے سوچا کہ یزید پر خروج اس کے فسق و فجور کی وجہ سے ضروری ہے خصوصاً اس آدمی کے لیے جسے اس پر قدرت ہے، اور حسینؑ نے اپنی اہلیت اور شوکت کی وجہ سے قدرت و طاقت کا خیال کیا، جہاں تک اہلیت کا تعلق ہے، وہ ان کے گمان کے مطابق بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی مگر شوکت کے بارے میں انہوں نے غلط سوچا اس بارے میں اللہ ان پر رحم کرے۔"

اس کے بعد علامہ ابن خلدون نے شوکت میں غلطی کی وجہ بیان کی ہے کہ قبیلہ مغیر



کی عصبیت سمٹ سمٹا کر قریش کے قبیلہ بنی امیہ کے اندر آگئی تھی، مگر اسلام نبوت اور وحی کی برکتوں کی وجہ سے اس پر پردہ پڑ گیا تھا، اور جب نبوت اور وحی کا انقطاع ہو گیا، اور عہد رسالت سے دوری ہو گئی، تو پھر بنو امیہ کی پرانی عصبیت عود کر آئی، مگر شوکت کے بارے میں حضرت حسینؑ کا واقعہ کے خلاف سوچنا کہ وہ بھی میرے ساتھ ہے، اور لوگ دین و دیانت کا ساتھ دے کر اس اقدام میں میری ہمنوائی کریں گے، ان کے لیے کسی صورت میں معیوب و نقصان دہ نہیں ثابت ہوا۔

فقد تبیین لك غلط الحسین الا انه فی امر دنیوی لا یضره الغلط فیہ، واما الحکم الشرعی فلم یغلط فیہ لانه منوط بظنہ وکان ظنہ القدرۃ علی ذلک (ص ۱۸۱)

(ترجمہ) "اس تفصیل سے تم کو حسینؑ کے اندازہ کی غلطی معلوم ہو گئی، مگر یہ غلطی دنیوی امر میں ہوئی، اور یہ دنیوی و سیاسی غلطی ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ان کے اندازہ کی وجہ سے ہوئی، آپ کا اندازہ تھا کہ یزید پر خروج کی قدرت و طاقت ہے۔"

ارباب دین و دیانت کے نزدیک ارباب عزیمت کے اس قسم کے غلط اندازے کسی طرح معیوب و نقصان دہ نہیں ہوتے، مگر اہل حق کے کارناموں پر پردہ ڈالنے والے غلط کارجانبداروں کے نزدیک یہی باتیں عجیب جوئی اور بہتان طرازی کے لیے بہانہ بن جاتی ہیں، اور وہ ان کو اپنے مزاج و ماحول کے مطابق رنگ و روغن دے کر پیش کرتے ہیں۔

ان ہی دنوں حضرت حسینؑ نے اہل بصرہ میں سے اپنے طرفداروں کے نام ایک خط لکھا، اور اپنے مولیٰ سلمان کے ہاتھ روانہ کیا، اس خط کا مضمون یہ تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

من الحسين بن علی الی مالک بن مسمع والا حنف بن قیس ،  
والمنذر ابن الجارود، و مسعود بن عمرو، و قیس بن الہیثم سلام  
علیکم اما بعد فانی ادعوکم الی احياء معالم الحق واماتة البدع فان  
تجیبوا تہتدوا سبل الرشاد، والسلام (الاخبار الطوال ص ۲۳۳)

حسین بن علیؑ کی طرف سے مالک بن مسمع، احنف بن قیس، منذر  
بن ابی جارود و مسعود بن عمرو، اور قیس بن الہیثم کے نام السلام علیکم  
اما بعد میں تم لوگوں کو معالم حق کے احياء اور بدعات کو  
ختم کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم لوگوں نے اس دعوت کا  
جواب دے کر لبیک کہا تو رشد و ہدایت کی راہ پا کر ہدایت یاب  
ہو جاؤ گے "والسلام"

ان مسلمہ تصریحات سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت حسینؑ کی دعوت یزید کے  
خلاف سراسر دین و دیانت کی دعوت تھی، اور اس میں کسی قسم کی نسلی یا خاندانی  
آمیزش نہیں تھی، نہ اس اقدام میں علیؑ کا بیٹا اور رسول ﷺ کا نواسہ ہونے کی وجہ سے  
استحقاق کا تصور تھا، اور نہ ہی حب جاہ اور دنیا طلبی کا جذبہ کام کر رہا تھا، نیز اس وقت  
جو صحابہ حضرت حسینؑ کے ساتھ نہ نکلے، اور نہ ہی ان کے اس اقدام پر نکیر کی وہ بھی  
اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھے کہ حضرت حسینؑ کا یزید کے خلاف یہ اقدام  
صرف اس کے فسق و فجور کے ختم کرنے اور معالم حق کے اجاگر کرنے کے لیے ہے۔  
چنانچہ حضرت حسینؑ عین یزید کے معرکہ میں شامی فوجوں کو لٹکار کر کھتے تھے، کہ میری

حیدرآباد لطیف آباد، پرنٹ نمبر ۸-۷۹

دعوت و حیثیت کو تم لوگ ان اہل صحابہ سے معلوم کرو جو میرے ساتھ نہ ہونے کے باوجود صورت حال سے اچھی طرح واقف ہیں، اور یزید اور میرے حالات کو جانتے ہیں، علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں:-

وكان الحسين يستشهد بهم وهو يقاتل بكريلاء على فضله وحقه ويقول سلوا جابر بن عبد الله و ابا سعيد الخدري و انس بن مالك و سهيل بن سعيد و زيد بن ارقم و امثالهم (مقدمہ ابن خلدون ص ۱۸۱) (ترجمہ) "اور جس وقت حسینؑ کربلا میں جنگ کر رہے تھے، اپنی فضیلت و اہلیت اور برحق ہونے پر ان ہی صحابہ کو گواہ بناتے تھے، اور مقابل فوجیوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ جابر بن عبد اللہ، ابو سعید خدری، انس بن مالک، سہیل بن سعید، زید بن ارقم اور ان جیسے دوسرے صحابہ سے پوچھ لو۔"

ان ہی واقعات و حقائق کی روشنی میں علامہ ابن خلدون نے نہایت واضح الفاظ میں یزید کے مقابلہ میں حضرت حسینؑ کے اقدام اور خروج کو برحق قرار دے کر ان کو شہید مثاب و قلیل برحق قرار دیا ہے، اور قاضی ابو بکر بن العربی مالکی اندلسی صاحب "العواصم من القواصم" کا شدومد سے رد کر کے ان کی غلطی کو بیان کیا ہے، اور یزید کی کارستانیوں کو اس کے فسق و فجور کے لیے موکد بتایا ہے

بل هي من قعاته ، الموكدة لفسقه والحسين فيها شهيد مثاب وهو على حق واجتهاد... وقد غلط القاضي ابوبكر بن العربي المالكي في هذا فقال في كتابه الذي سماه بالعواصم والقواصم مامعناه ان الحسين قتل بشرع جده، وهو غلط حملته عليه الغفلة عن

اشترط الامام العادل ، ومن اعدل من الحسين في زمانه في امامته و  
عدالته في قتال اهل الآراء (مقدمه ص ۱۸۱)

(ترجمہ) "بلکہ حسینؑ سے یزید کی جنگ ان حرکتوں میں سے ہے جو اس کے  
فسق و فجور کو موکد بناتی ہیں، اور حسینؑ اس میں شہید ہو کر اللہ سے اجر و ثواب کے  
مستحق ٹھہرے اور وہ حق و اجتهاد پر تھے، اور قاضی ابو بکر بن العربی مالکی نے اس  
مسئلہ میں غلطی کی اور اپنی کتاب العواصم والقوصم میں لکھ دیا کہ حضرت حسینؑ اپنے نانا  
کی شریعت کے مطابق قتل کئے گئے، حالانکہ یہ رائے غلط ہے، انھوں نے یہ غلطی اس  
لیے کی کہ وہ امام عادل کی شرط سے غافل ہو گئے، اور حضرت حسینؑ سے بڑھ کر ان کے  
زمانہ میں دوسرا کون شخص امامت و عدالت کے اعتبار سے اہل آراء کے قتال کے لیے  
اعدل و برحق ہو سکتا تھا؟"

اسی طرح امام ابن تیمیہؒ نے حضرت حسینؑ کو نہایت واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ  
کے یہاں بلند مرتبہ اور پاک نیت تسلیم کیا ہے، حالانکہ انھوں نے یزید یا اس جیسے  
خلیفہ و امیر کے خلاف خروج کو غلط قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، اور  
عموماً اس کے نتیجہ میں اہل حق پر اہل باطل غالب آجاتے ہیں، پھر بھی علامہ ابن تیمیہؒ  
نے ایسے مردان حق اور ارباب صدق و صداقت کو خاموش رہنے والوں کے مقابلہ میں ہر  
اعتبار سے بہتر قرار دیا ہے، وہ لکھتے ہیں :-

وهو اعظم قدرا عند الله واحسن نيتاً من غيرهم (المنتقى ص ۲۸۶)  
(ترجمہ) "ایسے لوگوں کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، اور  
دوسروں کے اعتبار سے ان کی نیت بہتر ہے"

علامہ ابن تیمیہؒ نے حضرت حسینؑ کے مقابلہ میں یزیدؑ کی فوجوں کو ظالم و طاغی قرار

دیتے ہوئے آپ کو شہید مظلوم بتایا ہے، اور یزیدی فوجوں کو ان کے قتل کا مجرم گردانا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں:-

بل تمكن اولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله ﷺ حتى قتلوه  
مظلوما شهيدا (المنتقى ص ۲۸۷)

(ترجمہ) "بلکہ ان ظالموں سرکشوں نے رسول اللہ ﷺ کے نواسے پر قبضہ پایا یہاں تک کہ آپ کو ظلماً قتل کر کے شہید مظلوم بنا دیا۔"  
آگے چل کر شہادت حسینؑ کو شہادت عثمانؑ کے ہم پدہ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:-

وكان قتل الحسين مّا اوجب الفتن كما كان قتل عثمان مّا اوجب  
الفتن (ص ۲۸۷)

(ترجمہ) "اور شہادت حسینؑ کے نتیجے میں فتنے برپا ہوئے، جس طرح کہ شہادت عثمانؑ کے نتیجے میں فتنے برپا ہوئے۔"

ایک مقام پر یزیدی فوجوں کی شرارت اور حضرت حسین کی براءت کا اظہار فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، کہ آخر میں حضرت حسینؑ نے یزیدی فوجوں سے امن وامان کی بات کی، مگر انہوں نے آپ کو قتل کر ڈالا، ملاحظہ ہو:-

اراد الرجوع فادركته السرية الظالمة فطلب ان يذهب الى يزيد او  
يذهب الى الثغور او يرجع الى بلده فلم يمكنه من ذلك حتى  
يستاسرلهم ولكن هو رضى الله عنه ابى ان يسلم نفسه وان ينزل على  
عبيدالله بن زياد و قاتل حتى قتل شهيداً مظلوماً رضى الله عنه

(المنتقى ص ۲۶۸)

(ترجمہ) "آپ نے کربلا سے واپسی کا ارادہ کیا تو ظالم دستہ نے آپ کو پالیا، آپ نے یزید کے پاس جانے کی مہلت طلب کی یا صحرا سرحد کی طرف میں چلے جانے یا پھر اپنے شہر مدینہ میں لوٹ جانے کی پیش کش کی، مگر انھوں نے ان تین باتوں میں سے کسی ایک کو نہ ہونے دیا اور یہ کہ آپ پہلے ان کے قیدی بن جائیں مگر حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے کو ان کے حوالے کرنے سے اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس جانے سے انکار فرمایا اور جنگ کی یہاں تک کہ قتل کر دیئے گئے، اور شہید مظلوم ہو گئے۔"

علامہ ابن خلدون اور علامہ ابن تیمیہ کی ان تصریحات کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اقدام خروج اور موقف کی حقیقت سامنے آجاتی ہے اور اس حقیقت پر پردہ ڈالنا آفتاب پر خاک ڈالنے کے مترادف بن جاتا ہے۔

امن و صلح کی کوشش اور تمام حجت

حضرات حسینؑ نے پوری زندگی امن و صلح کی بحالی کے لیے قربانیاں دیں حضرت حسنؑ اپنے حق سے حضرت معاویہ کے حق میں دست بردار ہوئے، اور دونوں بیانیوں نے نہایت خوش دلی اور رضامندی سے نبایا، اور ہر طرح ان کا ساتھ دے کر اپنی طرف سے حجت تمام کر دی، اور دوسروں کو خلاف امن و صلح سرگرمیوں سے برابر روکا۔

جن لوگوں نے ان حضرات کو اور غلایا، ان کا جواب نہایت سنجیدگی اور صفائی کے ساتھ دیا، چنانچہ جب حجر بن عدی اور عبیدہ بن عمرو نے حضرت حسنؑ کو اس پر عار دلایا

اور ورغلا یا تو آپ نے ان کو جواب دیا:-

قد بايعنا وعاهدنا ولا سبيل الى نقض بيعتنا (الاخبار الطوال ص ۲۳۳)  
 (ترجمہ) "ہم معاویہؓ کی بیعت کر کے اس سے عہد کر چکے ہیں، اور ہماری بیعت  
 کے توڑنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔"

علی بن محمد ہمدانی کا بیان ہے کہ میں اور سفیان بن معاذ دونوں مدینہ میں حسنؓ  
 کے پاس گئے، اس وقت ان کے پاس مسیب بن عتبہ اور عبداللہ بن دواک تمیمی اور  
 سراج بن مالک خشعی موجود تھے، میں نے کہا السلام علیک یا ائدیل المؤمنین (تم پر سلام  
 ہو اے مومنوں کے ذلیل کرنے والے) حسنؓ نے جواب دیا۔

(و علیک السلام اجلس لست منذل المؤمنین، ولکنی معزہم ما اردت  
 بمصالحتی معاویہ الا ان ادفع عنکم القتل عند ما رایت من تباطؤ  
 اصحابی من الحرب و نکولہم من القتال واللہ لئن سرنا الیہ بالجبال  
 والشجر وما کان بدامن امضاء هذا الامر الیہ (ص ۲۲۳)

(ترجمہ) "وعلیک السلام، بیٹھ جاؤ میں مومنوں کو رسوا کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ ان  
 کو معزز بنانے والا ہوں، میں نے معاویہ سے صلح کر کے اس کے سوا کوئی ارادہ نہیں کیا  
 ہے کہ تم لوگوں سے کشت و خون کو دفع کر دوں، کیونکہ میں نے اپنے لوگوں کی جنگ  
 سے سستی اور ان کے اس سے کترانے کو دیکھا خدا کی قسم اگر ہم معاویہؓ کے پاس پہاڑوں  
 اور درختوں کی فوج لے کر جائیں تب بھی اس معاملہ کے جاری کرنے کے علاوہ کوئی چارہ  
 نہیں ہے۔"

حسنؓ سے یہ جواب پانے کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکل کر حسینؓ کے پاس گئے اور  
 ان کو حسنؓ کے جواب کی خبر دی تو انھوں نے کہا:-

"صدق ابو محمد فليكن كل رجل منكم حلسا من احلاس بيته مادام  
هذا الانسان حيا." (ص ۲۲۳)

(ترجمہ) "ابو محمد (حضرت حسن کی کنیت ہے) نے سچ کہا، تم لوگوں سے ہر شخص کو  
چاہیے کہ اپنے گھر کا فرش بن جائے، جب تک یہ انسان زندہ ہے۔"

اس کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، اور اہل کوفہ کو اس کی  
خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اس مضمون کا خط لکھا کہ  
ہمارے یہاں کے شیعہ (طرفداران اہل بیت) آپ کی طرف نظر جمائے ہوئے اپنی  
جانوں کو مستحیلی پر لئے بیٹھے ہیں، وہ آپ کے برابر کسی دوسرے کو نہیں سمجھتے، ان کو  
آپ کے بجائی حسنؑ کی رائے جنگ کے دفع کرنے کے بارے میں معلوم ہے، اور وہ آپ  
کی نرمی اپنے دوستوں کے حق میں اور سختی اپنے دشمنوں کے حق میں پہچان چکے ہیں،  
اگر آپ اس امر خلافت کو طلب کرنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے پاس آجائیے، ہم نے  
آپ کے ساتھ اپنے کو موت کے لیے پوری طرح تیار کر رکھا ہے۔"

اس خط کا جواب حضرت حسینؑ نے ان الفاظ میں دیا:

اما اخی فارجو ان یکون اللہ قد وفقہ وسددہ فیما یاتی، واما انا  
فلیس رائی الیوم ذاک فالصقوا رحمکم اللہ بالارض، وامکنوا فی  
البیوت واخترسوا من الفتنة مادام معاویة حیا فان یحدث اللہ بہ حدثا  
واناحی کتبت الیکم برائی والسلام (ص ۲۲۳، ۲۲۴)

(ترجمہ) "میرے بجائی کے بارے میں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق

دی اور درست راہ دکھائی باقی رہا میرا معاملہ تو آج میری یہ رائے نہیں ہے، اللہ تم پر



برائی نہیں دیکھی اور نہ معاویہ نے ان دونوں حضرات سے ایسی چیز (وظیفہ وغیرہ) بندگی جس کی ان کے لیے شرط لگائی تھی اور نہ ہی ان حضرات کے ساتھ حسن سلوک میں فرق آنے دیا۔"

حضرت معاویہؓ نے اپنی خلافت و امارت کے پورے زمانہ میں حضرت حسنؓ اور ان کے بعد حضرت حسینؓ کے ساتھ حسن سلوک اور محبت و مروت کا رویہ رکھا، اور ان حضرات نے بھی نہایت ذمہ داری سے بیعت صلح کو فرض کے ساتھ نبھایا، اور جب کبھی ان کے طرفداروں نے ورغلیا تو ان کو صاف صاف جواب دیا گیا کہ ہم صلح اور بیعت کے بعد بد عہدی اور بے وفائی نہیں کر سکتے، بھائی کی وفات کے بعد حضرت حسینؓ نے تمام باتوں کو قائم رکھا، اور ان میں سر مو فرق نہ آنے دیا، اسی طرح حضرت معاویہؓ نے بھی ان کا پورا پورا لحاظ و احترام فرمایا۔

اس کے بعد جب حضرت معاویہؓ ۶۰ھ میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اس حالت میں بھی ان کو خاص طور سے حضرت حسینؓ کا خیال رہا، چنانچہ انھوں نے یزید کو وصیت کے لیے یاد فرمایا، مگر وہ اس وقت شہر دمشق سے غائب تھا، اور جب انتظار کے بعد نہ آیا تو اپنے پولیس افسر سخاک بن قیس فہری اور اپنے محافظ مسلم بن عقبہ کو بلایا، اور ان سے کہا کہ میری یہ باتیں یزید کو پہنچا دینا حضرت معاویہؓ نے جہاں یزید کو اور باتوں کی وصیت کی وہاں یہ بھی فرمایا یزید کے بارگاہ میں تجھے جن زیاد آدمیوں کی طرف سے خطرہ ہے ان میں سے ایک حسین بن علیؓ بھی ہیں، مگر بہر حال ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ضروری ہے۔"

فاما للحسین بن علی فاحسب اهل العراق غیر تارکيه حتی

یخرجوه فان فعل فظفرت به فاصفح عنه (ص ۲۲۷)

(ترجمہ) "ربا حسین بن علیؑ کا معاملہ تو میرا خیال ہے کہ اہل عراق ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، پس اگر وہ تمہاری مخالفت بھی کریں اور تم ان پر قابو بھی پاؤ تو ان سے درگزر کرنا۔"

### امن و صلح خطرے میں

مگر جب یزید کو تحت امارت مل گیا تو اس نے سب سے پہلا حکم یہی دیا کہ ان چاروں کی بیعت فوراً زبردستی لی جائے، اور اس میں کسی قسم کی رعایت نہ کی جائے اور نہ دیر ہونے پائے۔

فلم تکن لیزید ہمة حین ملک الا بیعة ہؤلاء الاربعہ  
(ترجمہ) "جس وقت یزید امارت و خلافت کا مالک ہوا ان چاروں کی بیعت کے علاوہ اس کو کوئی دھن نہیں تھی۔"

چنانچہ اس نے مدینہ کے عامل ولید بن عتبہ بن ابو سفیان (اپنے چچا) کو لکھا۔  
ان یاخذہم بالبیعة اخذ اشیددا لا رخصة فیہ (ص ۲۲۸)

(ترجمہ) "ان چاروں سے سخت قسم کی بیعت لے اس میں ذرا مہلت نہ ہونے پائے۔"

یزید کا یہ تند و تیز اور ناعاقبت اندیشانہ اور باپ کی وصیت کے خلاف خط دیکھ کر ولید بہت گھبرائے، کیونکہ اس سے فتنہ کا ڈر تھا، انھوں نے مروان سے مشورہ کیا، مروان بڑا چالاک تھا، اس نے بھی حضرت حسینؑ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ سے بیعت لینے اور انکار پر قتل کر دینے کا مشورہ دیا نیز اس نے کہا

یخرجوه فان فعل فظفرت به فاصفح عنه (ص ۲۲۴)

(ترجمہ) "ربا حسین بن علیؑ کا معاملہ تو میرا خیال ہے کہ اہل عراق ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، پس اگر وہ تمہاری مخالفت بھی کریں اور تم ان پر غابو بھی پاؤ تو ان سے درگزر کرنا۔"

## سبیل سکینہ

حدیث اہل بیت، نمبر ۸-۵۱

امن و صلح خطرے میں

مگر جب یزید کو تخت امارت مل گیا تو اس نے سب سے پہلا حکم یہی دیا کہ ان چاروں کی بیعت فوراً زبردستی لی جائے، اور اس میں کسی قسم کی رعایت نہ کی جائے اور نہ دیر ہونے پائے۔

فلم تکن لیزید ہمة حین ملک الابیعة ہولاء الاربعہ

(ترجمہ) "جس وقت یزید امارت و خلافت کا مالک ہوا ان چاروں کی بیعت کے علاوہ اس کو کوئی دھن نہیں تھی۔"

چنانچہ اس نے مدینہ کے عامل ولید بن عتبہ بن ابوسفیان (اپنے چچا) کو لکھا۔

ان یاخذہم بالبیعة اخذ اشدیداً لا رخصۃ فیہ (ص ۲۲۸)

(ترجمہ) "ان چاروں سے سخت قسم کی بیعت لے اس میں ذرا مہلت نہ ہونے پائے۔"

یزید کا یہ تند و تیز اور ناعاقبت اندیشانہ اور باپ کی وصیت کے خلاف خط دیکھ کر

ولید بہت گھبرائے، کیونکہ اس سے فتنہ کا ڈر تھا، انھوں نے مروان سے مشورہ کیا،

مروان بڑا جالاک تھا، اس نے بھی حضرت حسینؑ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؑ سے بیعت

لینے اور انکار پر قتل کر دینے کا مشورہ دیا نیز اس نے کہا

لكن عليك بالحسين بن عليّ وعبداللّٰه بن الزبير فابعث اليهما الساعة فان بايعا والا فاضرب اعناقهما قبل ان يعلن الخبر، فينبعث كل واحد منهما ناهية ويظهر الخلاف (ص ۲۲۹)

(ترجمہ) "تم حسین بن علیؑ اور عبداللہ بن زبیرؑ کو پکڑو، اور اسی وقت ان کو بلو، بھیجو اگر وہ دونوں بیعت کر لیں تو خیر ورنہ اس سے پہلے ان دونوں کی گردن مارو کہ معاویہ کے انتقال کی خبر عام ہو، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کسی کسی علاقہ میں اُچھل پڑے، اور مخالفت ظاہر کرنے لگے۔"

ولید حضرت معاویہؓ کی پالیسی کے آدمی تھے، طبعاً صلح پسند تھے، اور حضرت حسینؑ کا بڑا احترام کرتے تھے، انہوں نے حضرت حسینؑ کو بلایا، اور دار اللارہ میں مروان کے سامنے یزید کا خط سنا کر بیعت کے بارے میں بات کی، حضرت حسینؑ نے فرمایا۔ "ان مثلی لا یعطی بیعتہ سرأوانا طوع یدیک فاذا جمعت الناس لذالک حضرت وکنت واحدا منهم (ص ۲۲۹)

(ترجمہ) "مجھ جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کرتا، میں تو آپ کے ہاتھ میں ہوں، جب آپ اس کام کے لیے عام لوگوں کو جمع کر لیں گے تو میں حاضر ہو کر ان میں ہو جاؤں گا۔" ولید نے حضرت حسینؑ کی صاف ستھری اور دانشمندانہ بات سن کر کہا کہ اچھا اس وقت جائیے، اور لوگوں کے ساتھ پھر ہمارے پاس آئیے گا، حضرت حسینؑ کے چلے جانے کے بعد مروان نے ولید سے کہا کہ تم نے میری بات نہیں مانی، خدا کی قسم اب امکان جاتا رہا، مروان کی ان باتوں کو سن کر ولید نے نہایت صفائی سے کہا۔

"اے مروان! تم پر افسوس ہے، کیا مجھے رسول اللہ ﷺ کی بیٹی فاطمہ کے لڑکے

حسینؑ کو قتل کرنے کا اشارہ کرتے ہو، خدا کی قسم جس آدمی کا محاسبہ قیامت کے دن حسینؑ کے خون کے بارے میں ہوگا اس کے اعمال کا ترازو اللہ کے یہاں ہلکا ہوگا۔“  
(الاخبار الطوال ص ۲۲۹)

ان بیانات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسینؑ کو یزید کی بیعت سے کوئی عذر نہیں تھا، البتہ وہ چار آدمیوں سے خفیہ اور زبردستی بیعت لینے کے خلاف تھے، اور چاہتے تھے کہ یہ بیعت اہل مدینہ اور مہاجرین و انصار کے مجمع میں ہو جیسا کہ اب تک یہی ہوتا رہا ہے، بلکہ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ مروان نے عبداللہ بن زبیرؓ اور حسین بن علیؓ کے قتل کرنے کی بات حضرت حسینؑ کے سامنے ہی ولید سے کہی، جس کا آپ نے فوراً جواب دیا، تاریخ ابن خلدون میں ہے۔

”مروان بولا، ان کو بغیر بیعت کئے ہوئے نہ جانے دو، ورنہ ان جیسے شخص سے بیعت نہ لے سکو گے جب تک تم میں اور ان میں خون کا دریا نہ رواں ہوگا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں لپک کر ان کی گردن اڑا دوں گا، اس فقرہ کے تمام ہوتے ہی حسین بن علیؓ نے ڈانٹ کر کہا ”تو مجھے قتل کر دے گا؟ واللہ تو جھوٹا ہے“ مروان یہ سن کر دب گیا، آپ لوٹ کر اپنے مکان پر تشریف لائے، مروان ولید کو ملامت کرنے لگا۔“  
(ترجمہ تاریخ ابن خلدون ج ۵ ص ۶۹)

اس یزیدی اور مروانی سیاست کے مقابلہ میں حضرت حسینؑ کی اور حضرت ابن زبیرؓ کی دیانت و امانت اپنے کو ہر طرف سے غیر محفوظ پارہی تھی، جس کی وجہ سے حالات کا رخ بدلنے لگا،

چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے اپنی عزت و آبرو اور جان بچانے کی غرض سے

مدینہ منورہ کو خیر باد کہا، انہوں نے ولید سے اس کا اظہار بھی کیا تھا، علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں۔

"باقی رہے عبداللہ بن زبیرؓ وہ اپنے اعزہ واقارب کو مجتمع کر کے اپنے مکان میں چھپ رہے، ولید آدمی پر آدمی بلانے کو بھیجنے لگا، آخر الامر اپنے غلاموں کو ابن الزبیر کے گرفتار کر لانے پر متعین کیا، غلاموں نے سخت و ست کہنا، چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا، ابن الزبیرؓ نے مجبور ہو کر اپنے بھائی جعفر کے ذریعہ ولید کے پاس کھلا بھیجا، تمہارے غلاموں نے میری بے عزتی کا کوئی دقیقہ فرو گداشت نہیں کیا، تم ذرا صبر کرو، میں گل آونگا، تم اپنے غلاموں اور آدمیوں کو بلا لو، ولید نے اپنے غلاموں کو واپس بلا لیا۔

(ص ۶۹، ۷۰)

اس کے بعد حضرت ابن زبیرؓ عزت و آبرو اور جان بچانے کے لیے رات کو مکہ روانہ ہو گئے، اور ولید نے ان کے تعاقب میں آدمی روانہ کئے، ان آدمیوں نے ناکام واپس آکر حضرت حسینؓ کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا، علامہ ابن خلدون کا بیان ہے۔

"تمام دن یہ لوگ حسین بن علیؓ کو تنگ کرتے رہے، ولید بار بار آپ کو بلا بھیجتا تھا، اور آپ نہ جاتے تھے، پھر آپ نے آخر میں کھلا بھیجا، رات کا وقت

ہے، اس وقت صبر کرو، صبح ہونے دو، دیکھا جائے گا، (ص ۷۰)

اس طرح ابن زبیرؓ کے نکل جانے کے بعد حضرت حسینؓ پر مشق سیاست ہونے لگی، اور ان کے لیے بھی عزت و آبرو سے اپنے گھر میں بال بچوں کے ساتھ رہنا خطرہ میں پڑ گیا۔

## حضرت محمد بن حنفیہ کا مشورہ

حضرت حسینؑ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ تمام صورت حال سے اچھی طرح آگاہ تھے، انہوں نے اپنے بھائی حضرت حسینؑ کو مدینہ سے عزت و آبرو کے ساتھ جان بچا کر نکل جانے کا مشورہ دیا، اور حضرت حسینؑ نے ان کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے مکہ کی راہ لی تھی، علامہ ابن خلدون کا بیان ہے۔

"صرف محمد بن الحنفیہ رہ گئے، مکہ معظمہ جانے کی مجھد بن الحنفیہ ہی نے رائے دی تھی، کہ تم یزید کی بیعت سے اعراض کر کے کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ اور وہاں سے اپنے دعاۃ کو اطراف و جوانب بلاد اسلامیہ میں روانہ کرو، اگر وہ لوگ تمہاری بیعت منظور کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرنا، اور اگر تمہارے سوا انہوں نے مستفق ہو کر کسی دوسرے کو امیر بنا لیا تو تم کو اس سے کوئی نقصان نہ ہوگا، نہ تمہارے دین کو مضرت پہونچے گی، اور نہ تمہاری عقل کو، نہ اس میں تمہاری آبروریزی ہوگی، مجھے اندیشہ اس کا ہے کہ کہیں تم ایسے شہر یا ایسی قوم میں نہ چلے جاؤ جس میں سے کچھ لوگ تمہارے ساتھ، اور کچھ لوگ تمہارے مخالف ہوں، اور جس سے بدی کی ابتدا تم ہی سے ہو حسین بن علیؑ نے دریافت کیا، اچھا ہم کہاں جائیں، جواب دیا مکہ جاؤ، اگر تم کو انہیں کے ساتھ یہ باتیں وہاں حاصل ہو جائیں تو فہماور نہ ریگستان اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں چلے جانا، اور ایک شہر سے دوسرے شہر کا رخ کرنا، یہاں تک کہ کوئی امر لوگوں کے اجتماع و اتفاق سے طے ہو جائے، حسین بن علیؑ

نے اس رائے کو پسند کیا، بھائی سے رخصت ہو کر نہایت سریع السیری

کے ساتھ مکہ میں آہونچے۔ (ص ۷۰)

اس مشورہ کے بعد حضرت حسینؑ نے دوسری رات کو داروگیر سے بچتے ہوئے اپنے وطن مدینہ منورہ کو خیر باد کہا، جس کے بعد پھر ان کو اس کی طرف واپسی نصیب نہ ہو سکی، علامہ دینوری لکھتے ہیں۔

”جب شام ہو گئی اور رات کی سیاہی چھا گئی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی مکہ مکرمہ کی طرف چلے، ان کے ہمراہ ان کی دو بہنیں ام کلثوم اور زینب اور بھائیوں کے بیٹے ابو بکر، جعفر، عباس، اور آپ کے اہلبیت سے جو لوگ مدینہ میں تھے سب کے سب نکلے، صرف ان کے بھائی محمد بن حنفیہ نہیں نکلے اور وہیں مقیم رہے،“ (الاجبار الطوال ص ۲۳۰)

حضرت مسلم بن عقیل بھی حضرت حسینؑ کے ہمراہ ہی مدینہ سے مکہ چلے آئے تھے، ادھر حضرت عبداللہ بن زبیرؑ اور حضرت حسینؑ مکہ معظمہ پہنچے، اور ادھر مدینہ منورہ میں وہی تماشا برپا ہو گیا، جس کے خوف سے یہ حضرات نکلے تھے، علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں۔

”ان واقعات کی اطلاع یزید کو ہوئی تو اس نے ولید بن عتبہ کو مدینہ منورہ کی حکومت سے معزول کر کے عمرو بن سعید الأشدق کو مامور کیا، چنانچہ عمرو بن سعید ماہ رمضان المبارک ۶۰ھ میں داخل مدینہ منورہ ہوا، اس نے محکمہ پولیس کی افسری عمرو بن الزبیر کو دی، اس وجہ سے کہ ان میں اور ان کے بھائی عبداللہ بن زبیر میں کسی وجہ سے ناچاقی و کشیدگی تھی، چنانچہ اس نے اسی وجہ سے مدینہ منورہ کے چند لوگوں کو جو



ہوا خواہ عبداللہ بن زبیر تھے، گرفتار کرا کے چالیس سے پچاس ساٹھ درے تک پٹوانے، ازا نجلہ منذر بن الزبیر، اور ان کا لڑکا محمد اور عبدالرحمن بن الاسود بن عبد یغوث، عثمان بن عبداللہ بن حکیم بن حزم، محمد بن عمار بن یاسر وغیر ہم تھے، بعد اس کے عمرو بن سعید نے سات سو یا اس سے زیادہ آدمیوں کو مکہ کی طرف روانہ کرنے کو مسلح و مرتب کیا، عمرو بن الزبیر سے ان کی افسری کی بابت مشورہ لیا، عمرو بن الزبیر نے جواب دیا، نجد سے زیادہ کوئی شخص اس کام کے لیے موزوں نہ ہوگا، پس عمرو بن سعید نے عمرو بن الزبیر کو بسرافسری سات سو جنگ آوروں کے جس میں انیس بن عمرو الاسلمی بھی تھا، مکہ معظمہ کی طرف روانہ کیا۔ (ترجمہ تاریخ ابن خلدون ص ۷۱، ۷۲-ج ۵)

مکہ پر فوج کشی کو دیکھ کر مروان جیسے سخت قلب انسان کا ذل پسچ گیا اور وہ ملامت کر کے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بیت اللہ کی حرمت کو حلال نہ کرو، عبداللہ بن الزبیرؓ سے درگزر کرو، ساٹھ برس کی اس کی عمر ہو گئی، وہ کیا اس کی مخالفت کرے گا مروان کی ان ناصحانہ باتوں کو سن کر عمرو بن سعید نے کہا۔

"واللہ میں اس سے عین خانہ کعبہ میں لڑوں گا،" (ص ۷۴)

اس کے بعد عمرو بن سعید اور عمرو بن زبیر نے مکہ معظمہ پر فوج کشی کی، اور

عبداللہ بن زبیر سے مقابلہ کیا،

بہر حال حضرت حسینؓ نے بھی مکہ آکر اپنے خاندانی مقام "شعب علیؓ میں قیام

فرمایا، اور لوگ جوق در جوق ان کی زیارت کے لیے آنے لگے، اور اس درمیان میں کوئی

ایسی بات نہ حضرت حسینؓ کی طرف سے اور نہ ہی حضرت ابن زبیرؓ کی طرف سے ہوئی

جس میں یزید کی امارت کے خلاف کسی قسم کا خطرہ تھا، مگر یزید نے مکہ مکرمہ کے پرانے عامل کو معزول کر کے اس کی جگہ دوسرے کو مقرر کیا، علامہ دینوری الاخبار الطوال میں لکھتے ہیں :-

پھر یزید نے یحییٰ بن صفوان بن امیہ کو مکہ سے معزول کر کے عمرو بن سعید بن حاص بن امیہ کو وہاں کا عامل بنایا (ص ۲۳۰، ۲۳۱)

یزید کے رجحان اور منشاء کی روشنی میں مدینہ منورہ کے عامل کو بدل دینا اور حضرت ابن زبیرؓ اور حضرت حسینؓ کے مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہی وہاں کی حکومت میں تبدیلی کی وجہ معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔

جب اہل کوفہ کو حضرت حسینؓ کے مکہ چلے جانے کی خبر لگی تو انہوں نے مشورہ کر کے اپنی طرف سے حضرت حسینؓ کے نام ایک خط لکھا جو ۲۰ رمضان کو آپ کو ملا، مگر آپ نے اس خط کو کھولا تک نہیں، اور اسے کوئی اہمیت نہ دی۔

ثم لم یمس الحسین یومہ ذلک (الاخبار الطوال ص ۲۳۱)

(ترجمہ) "حسین نے اس دن ان خطوط کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔"

مگر جب خطوط کے انبار لگ گئے، اور اہل کوفہ کی طرف سے بے حد اصرار ہونے لگا تو آپ نے ان کو جواب دیا جس میں تھا کہ میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو تحقیق کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔

اس کے بعد اس واقعہ کے مبادی شروع ہو گئے، جسے واقعہ کربلا یا شہادت حسینؓ کہا جاتا ہے۔

## بحق اسلام صبر و ضبط

موتلف نے یزید کی سیرت کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کے مقابلہ میں خروج کرنے والے کو قابل گردن زدنی اور جاہلیت کی موت مرنے والا اور حکم رسول سے منحرف قرار دینے کے لیے صفحہ ۶۰ سے ۶۶ تک چند احادیث و آثار کو نقل کیا ہے جن میں اطاعت امیر کا حکم دیا گیا ہے، اور خروج سے ممانعت کی گئی ہے، حالانکہ یہ تمام احادیث اس امیر و خلیفہ کے بارے میں ہیں جو کسی وجہ سے امر خلافت پر قابض و دخیل ہو جائے، اور عامۃ المسلمین مصلح دینیہ کی بنا پر اسے امیر و خلیفہ تسلیم کر لیں۔ یقیناً ایسے امیر و خلیفہ کے خلاف جو فی نفسہ اچھا ہو یا برا مگر جب اسے عامۃ المسلمین نے حالات کے تقاضے کی بنا پر پورے طور سے خلیفہ مان لیا ہو اور اس کی بیعت ہو گئی تو اب خروج کرنا فتنہ کو دعوت دینا ہے، اور امت میں انتشار پیدا کرنا ہے، اس لیے اس کے خلاف خروج کے بجائے ایسی کارروائی کرنی چاہیے جس سے اسلام کا بول بالا رہے، اور اپنے کسی اقدام سے اسلام کو نقصان نہ پہنچے چنانچہ ان ہی احادیث پر عمل کرتے ہوئے ان صحابہ کرام نے یزید کے معاملہ میں خاموشی اختیار کی، جن کے نزدیک اس کے خلاف اقدام سے فتنہ کا ڈر تھا۔

اور جن صحابہ کرام نے دیکھا کہ ابھی یزید کی بیعت تامہ نہیں ہوئی اور وہ عامۃ المسلمین کی طرف سے خلیفہ تسلیم نہیں کیا گیا ہے، وہ اس کے خلاف اٹھے، انہوں نے کسی خلیفہ کے خلاف خروج نہیں کیا بلکہ عین اس وقت جبکہ ایک شخص خلافت پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، انہوں نے بھی بہتر صورت پیدا کرنے کی کوشش

کی، باقی رہا حضرت معاویہؓ کا پہلے ہی سے یزید کو واپس لے کر عہد بنا دینا تو یہ ان کا اجتہاد تھا، اور اس سے ان کا منشا بعد میں فتنہ و فساد کو روکنا تھا، مگر فی نفسہ ان کا یہ اقدام کوئی شرعی حجت نہیں تھا، اور نہ مسلمانوں نے اس وقت تک اس طرح اقدام کیا تھا، کہ کسی کو پہلے سے ولی عہد بنا کر بعد میں اس کو ولی عہدی کی بنا پر خلیفہ مان لیا ہو، ان کے نزدیک و امر ہم شوریٰ بینہم کا قانون تھا، ولی عہدی کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے ان کا یہ اقدام نہ خلیفہ کے خلاف خروج ہوا، نہ اطاعت امیر کے خلاف ہوا، نہ ان کی موت جاہلیت کی طرح انتشار و افتراق کی موت ہوئی اور نہ ہی وہ قابل گڑھن زدنی تھے۔

اور جن صحابہ نے اس حالت میں صبر و سکون سے کام لیا انہوں نے بحق اسلام "بر طرح کی اثرہ" اور حق تلفی دیکھتے ہوئے اسلام کی اجتماعیت اور وحدت کے لیے سب کچھ برداشت کیا، اگر اس وقت صحابہ کرام کھلی طور سے شامی غلبہ اور مضری عصبیت کے مقابلے پر آجاتے تو خدا ہی جانتا ہے کہ کیا ہو جاتا، اور ایران و روم کی طاقتیں اس سے کیا فائدہ حاصل کر لیتیں، صحابہ کرام نے بنی، خوشی اور تسلیم و رضا کے طور پر اس نازک زمانہ میں خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ سینے پر پتھر رکھ کر اور رسول ﷺ کی تعلیمات پر عمل کر کے اسلام کی عظمت و جمعیت کو باقی رکھا، اس سلسلہ میں چند احادیث و آثار ملاحظہ ہوں،

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

قال لنا رسول اللہ انکم سترون اثرہ وامورا تنکرونها قالوا فما تامرنا  
یا رسول اللہ، قال ادوا الیہم حقہم وسلوا اللہ حقکم (بخاری و مسلم)  
(ترجمہ) "ہم سے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ عنقریب اثرہ اور ایسے

معاہلات دیکھو گے جن کو ناپسند کرو گے، اس پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسے زمانہ میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا تم ان کا حق ان کو ادا کرو، اور اپنے حق کو اللہ سے طلب کرو۔"

حافظ ابن حجر نے اثرہ کی مختصر تفسیر یوں کی ہے حاصلها الاختصاص بفظ دنیوی فتح الباری (ج ۳-ص ۴) یعنی اثرہ کا مطلب دنیاوی مفاد کو مخصوص کرنا ہے اور کسی چیز پر ایک آدمی کا حق ثابت ہوتے ہوئے، اسے خود لے لینا یا اپنے اثر و طاقت سے دوسرے کو دے دینا ہے، ایسے زمانہ میں خلفاء کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ ان کو دو، اور ان کے زیر انتظام جہاد میں اگر تم کو جانا پڑے تو جاؤ تاکہ اسلام کی طاقت پر زد نہ پڑے، اور اپنے حقوق کے لیے خدا سے دعا کرو اور ان سے مطالبہ و مقابلہ نہ کرو،

عن اسید بن حضیر ان رجلا اتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملنى فال انكم سترون بعدى اثرة فاصبروا حتى تلقونى. (بخاری و مسلم)

حضرت اسید بن حضیر سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فلاں آدمی کو عامل بنایا، اور مجھے عامل نہیں بنایا، آپ نے فرمایا "کہ تم لوگ میرے بعد ترجیح اور حق تلفی دیکھو گے پس صبر کرو، یہاں تک کہ مجھ سے ملو۔"

حضرت زبیر بن عدیؓ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے حضرت انس بن مالکؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر حجاج بن یوسف کے مظالم کی شکایت کی، تو انہوں نے سن کر فرمایا:-

اصبروا فانه لایاتی علیکم زمان الا والمذی بعدہ شر منه حتی تلقوا  
ربکم سمعته من نبیکم (بخاری کتاب الفتن)

(ترجمہ) "تم لوگ صبر سے کام لو، کیونکہ اب تمہارے سامنے جو زمانہ بھی آئے گا  
اس کے بعد کا زمانہ اس سے برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملو، یہ نصیحت میں  
نے تمہارے نبی ﷺ سے سنی ہے۔"

ان احادیث و آثار میں جس اثرہ اور حق تلفی کی خبر دی گئی ہے، اس کے بارے  
میں کیا کیا جائے گا، اور خلافت و امامت کی ذمہ داریاں کن کے مناسب تھیں، اور کیسے  
کیسے لوگ عہدوں پر آئے ان کو چھپایا نہیں جاسکتا، پس اطاعت امیر کا حکم ہر حال میں  
اس لیے نہیں ہے کہ وہ خواہ کیسے ہی ہوں فی نفسہ مطاع ہیں، بلکہ صرف اسلامی جمعیت  
اور دینی وحدت کے بقاؤ تحفظ کے لیے اس کاشت سے حکم دیا گیا ہے، اور بحق اسلام،  
ہر قسم کے حالات برداشت کرنے اور وحدت اسلامیہ کو برقرار رکھنے کو کہا گیا ہے، اور  
امیر و خلیفہ کے اچھے برے ہونے سے قطع نظر کر کے اسلامی مفاد کو بچایا گیا ہے۔

## یزید کی روش اور عام صحابہؓ اور جمہور امت کا موقف

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطا کار، غلط کار، جاہ طلب اور سل و خاندان پر منصب کا دعویٰ دے رہے تھے، مولف نے یزید کو پاک سیرت نیکو کار بتایا ہے اور اس میں کسی ایسی خامی کا وجود نہیں تسلیم کیا، جس کی وجہ سے اس کے خلاف خروج جائز ہو، اور اسے بغاوت و سرکشی سے تعبیر نہ کیا جائے، بلکہ بتانا چاہا ہے کہ صرف حسینؓ اور ان کے چند ہوا خواہ ایسے برگزیدہ اور مسلمہ امیر و خلیفہ کے خلاف علم بغاوت لے کر اٹھے، اور دوسرے تمام صحابہ اور جمہور امت یزید سے راضی اور خوش تھے، اور ان کو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تھی، چنانچہ مولف لکھتے ہیں:-

”بم عصر حضرات کو جن میں کثیر تعداد صحابہ رسول اکرم ﷺ اور تابعین کرام کی شامل تھی، امیر یزید کی سیرت اور کردار میں کوئی خامی ایسی نظر نہ آتی تھی، جس کی بنا پر عقد بیعت خلافت ناجائز ٹھہرے، یا بعد بیعت ان کے خلاف خروج و بغاوت کا جواز نکالا جاسکے۔“ (ص ۱۴۱)

نیز ارشاد ہوتا ہے:-

”مگر ان میں سے کسی ایک صحابی نے بھی متفق علیہ خلیفہ کے خلاف خروج میں حضرت حسینؓ کا ساتھ کسی طرح نہیں دیا (صفحہ ۸) آگے چل کر لکھتے ہیں:-  
کردار خلیفہ میں کوئی خامی یا برائی ایسی نہ تھی کہ اس کے خلاف خروج کا جواز نکالا جاسکتا (ص ۹۷)

حالانکہ جن مورخوں اور عالموں کو مولف نے سند امامت عطا کی ہے اور ان کو

معتبر و مسلم تسلیم کیا ہے، ان ہی کی کتابوں میں یزید کے کردار اور صحابہ کرام اور جمہور امت کے موقف کا بیان نہایت صفائی کے ساتھ موجود ہے، مگر اس کو مؤلف نے حسب عادت چھپا کر ثابت کرنا چاہا ہے کہ یہ مورخین و مؤلفین بھی حضرت حسینؑ کو باغی اور یزید کو خلیفہ برحق سمجھتے ہیں، یہاں پر ہم صرف علامہ ابن خلدون کی تصریحات پیش کرتے ہیں، اور فیصلہ ناظرین پر چھوڑتے ہیں۔

علامہ ابن خلدون یزید کو ولی عہد بنانے کی مصلح کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں پر چند ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں حق بات بیان کرنے کی ضرورت ہے۔

الأول منها ما حدث في يزيد من الفسق أيام خلافته فإياك ان  
تظن بمعاوية رضي الله عنه انه علم بذلك من يزيد، فانه اعدل من  
ذالك وافضل بل كان يعذله أيام حياته في سماع الغناء وينهاه عنه،  
وهو اقل من ذلك. (مقدمه ص ۱۵۶، ۱۵۷)

(ترجمہ) "پہلا معاملہ یزید کے فسق کا ہے، جو اس کے زمانہ خلافت میں ظاہر ہوا  
خبردار تم معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ گمان مت کرنا کہ وہ یزید کے فسق و فجور  
کو جانتے تھے کیونکہ وہ اس سے بالا و بلند تر ہیں کہ یزید کے فسق کو جان کر اسے ولی عہد  
بنائیں، بلکہ وہ اپنی زندگی میں یزید کو اس کے گانا سننے پر ملامت کرتے تھے، اور اس  
سے روکتے تھے حالانکہ گانا سننا فسق سے کم درجہ کا تھا،

ویسے تو صحابہ کرام اور اس دور کے لوگوں کے خیالات یزید کے بارے  
میں پہلے ہی سے مختلف تھے، مگر جب زمانہ امارت و خلافت میں اس کا فسق کھل کر منظر



عام پر آگیا تو تمام صحابہ کرام نے اس کے بارے میں اختلاف کیا، اور یہ اختلاف اس کے فسق و فجور کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اس بارے میں تھا کہ ایسی حالت میں اسے امیر و خلیفہ تسلیم کرنا چاہئے، اور اس کی بیعت کو باقی رکھنا چاہئے یا توڑ دینا چاہئے۔ پہلے ان کے اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ باہمت اور باعزیمت صحابہ تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور عام صحابہ اور جمہور مسلمین نے اس کے فسق و فجور کے باوجود فتنہ و فساد اور قتل و غارت کے ڈر سے کھل کر خروج نہیں کیا، بلکہ دعا کرتے رہے کہ یا تو اسے ہدایت نصیب ہو، یا پھر اس سے امت کو نجات مل جائے، علامہ ابن خلدون صحابہ کے موقف کو اس طرح بیان کرتے ہیں:-

وكانت مذاهبهم فيه مختلفة ومما حدث في يزيد ما حدث من  
 الفسق اختلف الصحابة حينئذ في شأنه فمنهم من رأى الخروج عليه  
 ونقض بيعته من اجل ذلك كما فعل الحسين و عبد الله بن الزبير  
 رضى الله عنهما ومن اتبعهما، ومنهم من اباه لمافيه من اثار الفتنه  
 وكثرة القتل مع العجز عن الوفاء، لان شوكة يزيد يومئذ هي عصابة  
 بنى اميه، و جمهور اهل الحل و العقد من قريش، و تتبع عصبية  
 مضراجم وهي اعظم من كل شوكة ولا تطاق مقاومتهم فاقصروا عن  
 يزيد بسبب ذلك واقاموا على الدعاء بهدايته والراحة منه، وهذا كان  
 شان جمهور المسلمين، (مقدمه ص ۱۷۷)

یزید کے بارے میں صحابہ کے خیالات مختلف تھے اور جب یزید میں فسق و فجور ظاہر ہوا تو اس وقت صحابہ نے اس بارے میں اختلاف کیا، پس ایک جماعت یزید کے

فسق و فجور کی وجہ سے اس کے خلاف خروج کرنے اور اس کی بیعت توڑنے کی قائل ہو گئی، جیسا کہ حضرات حسین و عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھیوں نے کیا، اور دوسری جماعت یزید کے خلاف خروج و نقض بیعت کی منکر تھی، اس لئے کہ اس سے فتنہ برپا ہوگا، اور قتل کی کثرت ہوگی، اور یہ اقدام کماحقہ کامیاب نہ ہوگا، کیونکہ اس وقت شوکت و طاقت بنو امیہ میں تھی، اور جمہور اہل حل و عقد قریش سے تھے، نیز اسی کے ساتھ پورے قبیلہ مضر کی عصبیت بھی کام کر رہی تھی، جو سب سے بڑھی طاقت تھی، اور ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں تھی، اسی وجہ سے دوسری جماعت خاموش رہی اور یزید کی ہدایت یا اس کے شر سے محفوظ ہو جانے کی دعا کرتی رہی، جمہور مسلمانوں کا یہی رویہ تھا۔"

ان تصریحات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جہاں تک یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے صحابہ کرام کے نفرت کرنے کا تعلق ہے، اس میں سب صحابہ متفق تھے، اس میں اختلاف نہیں تھا، البتہ اس کے خلاف خروج کرنے میں ان کا اجتہادی اختلاف تھا، یزید کے خلاف اقدام نہ کرنے والے صحابہ اور تابعین کے نقطہ نظر کو علامہ ابن خلدون یوں واضح کرتے ہیں:-

اور حسینؑ کے علاوہ جو صحابہؓ حجاز، عراق، اور یزید کے ساتھ شام میں تھے انہوں نے سوچا کہ یزید اگرچہ فاسق ہے، مگر اس کے خلاف خروج جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے قتل و غارت اور خون خرابہ ہوگا، یہ سوچ کر وہ لوگ رک گئے، اور حسینؑ کا ساتھ نہ دے سکے، مگر ان حضرات نے حسینؑ کے اس اقدام پر نہ نکیر کی، اور نہ ہی ان کو خطا کار کہا،

ولا انکروا علیہ ولا اثموا لانه مجتهد وهو اسوة المجتہدین،  
(ترجمہ) "انہوں نے نہ حسینؑ پر کسی قسم کی نکیر کی اور نہ ہی ان کو گناہ گار بنایا کیونکہ وہ مجتہد بلکہ مجتہدوں کے اسوہ تھے،

اور خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان حضرات کے ساتھ نہ دینے پر کچھ نہیں کہا اور نہ ہی ان پر کسی قسم کی نکیر کی،

ولم ینکر علیہم قعود ہم عن نصرہ ولا تعرض لذلك لعلمہ  
انہ عن اجتہاد منہم کماکان فعلہ عن اجتہاد منہ،

حسین رضی اللہ عنہ نے بھی ان حضرات کے اپنی نصرت سے بیٹھ جانے پر

کسی قسم کی کوئی نکیر نہیں کی، اور نہ ہی کوئی تعرض کیا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ بات ان کے اجتہاد کی وجہ سے ہے، جیسا کہ خود حسینؑ نے یہ اقدام اپنے اجتہاد سے کیا تھا،

یہی نہیں، بلکہ امام حسینؑ ان "صادق اللہ، اور خالص النیہ" امن پسند بزرگوں کو پوری طرح اپنا ہمنوا تسلیم کرتے تھے، اور یزید کے مقابلہ میں ان کو اپنا طرفدار اور حامی سمجھتے تھے، چنانچہ عین معرکہ کربلا میں آپ نے شامی فوجوں کے سامنے ان جلیل القدر اور نامی گرامی صحابہ کرام کے نام لے لے کر اور اپنی حقانیت پر ان کو گواہ بنا کر کہا کہ "تم لوگ میرے بارے میں جابر بن عبد اللہ، ابو سعید خدری، انس بن مالک، سہل بن سعد، زید بن ارقم جیسے دیگر اجلہ صحابہ سے پوچھ لو کہ وہ حضرات میرے متعلق کیا فرماتے ہیں، اور ان کی رائے یزید کے بارے میں کیا ہے؟"

اس میں شک نہیں کہ حضرت حسینؑ کو بہت سے صحابہ کرام نے اس اقدام سے منع کیا، اور اس کے خلاف مشورے دیئے، مگر یہ فہمائش اس لئے نہیں تھی کہ یزید خلیفہ عادل اور امام برحق ہے، اس کے خلاف خروج غلطی ہے، بلکہ ان کی تمام تر فہمائش حضرت حسینؑ کو اس بات پر تھی کہ آپ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر اس اقدام میں کامیابی کی طاقت و شوکت ہے تو آپ کا یہ اندازہ صحیح نہیں ہے کیونکہ پوری طاقت و شوکت سمٹ سمٹا کر بنو امیہ میں آگئی ہے، اور وہ اپنی طاقت کے مقابلہ میں کسی کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے،

وكان ظنّه القدرة على ذلك، ولقد عدله ابن عباس، وابن الزبير،

وابن عمرؓ، وابن الحنفیة واخوه وغیره فی سیره الی الکوفة و علموا غلطہ فی ذالک. (مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۱۸۱)

(ترجمہ) "آپ کو اندازہ تھا کہ مجھے اس بات کی طاقت ہے، اور ابن عباس، ابن زبیر، ابن عمر اور ان کے بھائی ابن حنفیہ وغیرہ نے ان کے کوفہ جانے پر سخت و ست لہجہ میں سمجھایا کیونکہ انہوں نے اس اندازہ میں ان کی غلطی کو جانا۔"

ان صاف و صریح بیانات کے بعد مؤلف خلافت معاویہؓ و یزید کا وہ گھرونداگر جاتا ہے جسے انہوں نے بزرگوں سے جرح و قدح کے عنوان سے ص ۹۸ سے ص ۱۰۶ تک بتایا ہے، اور جگہ جگہ کہا ہے کہ حضرت حسینؓ کو غلط اقدام پر صحابہ نے روکا مگر وہ نہ مانے، مذکورہ بالا حضرات اور دوسرے صحابہ نے اگرچہ مصلحتاً یزید کے فسق و فجور کے باوجود اس کے خلاف خروج نہیں کیا لیکن، ان کے نزدیک یزید کے افعال مستحسن اور صحیح نہ تھے، بلکہ وہ ان کو اسی طرح غلط اور ناجائز سمجھتے تھے، جس طرح حضرت حسینؓ سمجھتے تھے،

ولا تقولن ان یزید وان کان فاسقا ولم یجز هؤلاء الخروج  
علیہ فافعالہ عندہم صحیحۃ واعلم انہ انما ینفذ من اعمال الفاسق  
ماکان مشروعاً. (ص ۱۸۱)

(ترجمہ) "خبردار تم ہرگز ہرگز یہ نہ کہنا کہ جب یزید فاسق تھا، اور ان حضرات نے اس کے خلاف خروج کو جائز نہیں سمجھا تو ان کے نزدیک یزید کے تمام اعمال صحیح تھے، تم کو سمجھنا چاہیے کہ فاسق و فاجر حکمران کے اعمال سے وہ امر و حکم نافذ ہوگا، جو مشروع ہوگا،

اس سے یہ بات بھی بالکل صاف ہو گئی کہ یزید کے خلاف خروج نہ کرنے والے تمام صحابہ بھی اس کے افعال و اعمال کو غلط سمجھتے تھے، البتہ امور شرعیہ مثلاً جہاد، قصاص وغیرہ کو اس کی طرف سے نافذ مانتے تھے، کیونکہ مسئلہ یہی ہے کہ فاسق حکمران کا امر شرعی واجب العمل اور نافذ ہوتا ہے۔ جو حضرات صحابہ، یزید کے فسق و فجور کے قائل ہونے کے باوجود اس کے خلاف خروج کو فتنہ و فساد اور قتل و غارت کا سبب بتا کر حضرت حسینؑ کی نصرت سے الگ رہے مگر دل سے ان کے ساتھ رہے، ان کے بارے میں کسی کو لب کشائی کا حق حاصل نہیں ہے، اور ان پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں رکھا جاسکتا، اسوہ حسینی بھی ان کے بارے میں یہی ہے، اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے۔

ولا یذهب بک الغلط ان تقول بتائیم ہؤلاء بمخالفة الحسین و  
 قعودهم عن نصره، فانهم اکثر الصحابة وکانوا مع یزید، ولم  
 یروا الخروج علیه، (ص ۱۹۱)

(ترجمہ) "تم کو غلطی اس بات پر نہ آمادہ کرے کہ تم ان حضرات کو حسینؑ کے خلاف کرنے اور ان کی مدد سے بیٹھ رہنے کی وجہ سے گناہگار کہو، کیونکہ اس نظریہ کے اکثر صحابہ تھے، اور یزید کے ساتھ رہ کر اس کے خلاف خروج کو جائز نہیں سمجھتے، اور چونکہ وہ حضرت حسینؑ کو برحق سمجھتے تھے، اور حسینؑ کو بلا کے میدان کارزار میں بھی ان سے اپنے برحق ہونے پر استشہاد کرتے تھے، اس لئے بھی ان کے بارے میں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے۔"

والکل مجتهدون، ولا ینکر علی احد من القریقین فقط مقدم

فی البروتجہ الحق معروفة، وفقنا اللہ للاقتدا بہم (مقدمہ ابن خلدون ص ۱۷۷)  
 (ترجمہ) "تمام صحابہ مجتہد برحق تھے، اور فریقین میں سے کسی پر نکیر نہیں کی جا  
 سکتی، کیونکہ نیکی، اور جستجوئے حق میں ان کے ارادے اور نیتیں معلوم و مشہور ہیں،  
 اللہ تعالیٰ ان کی اقتداء کی توفیق دے،

علامہ ابن خلدون کے اس بیان سے اس بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یزید کے  
 کردار میں کوئی خرابی تھی یا نہیں تھی، صحابہ کرام اور تابعین عظام یزید کے ساتھ تھے یا  
 نہیں تھے، اور اس کے خلاف خروج و اقدام کا جواز تھا یا نہیں تھا اور عام صحابہ کرام  
 حضرت حسینؑ کو اور حضرت حسینؑ عام صحابہ کرام کو اس معاملہ میں کیا سمجھتے تھے،  
 مولف علامہ ابن خلدون کو سب کچھ تسلیم کرتے ہیں، اور علامہ ابن خلدون کی یہ  
 تصریحات کیا بتا رہی ہیں؟

یزید اور اس کی ولی عہدی و امارت

"فرقہ یزید" مولف نے یزید کو صرف عالم، فاضل، مستقی، پرہیزگار، پابند صوم و صلوة  
 کریم النفس، حلیم الطبع، سنجیدہ متین خادم خلق، حکمرانی، اور سیرت کردار میں متبع  
 فاروق اعظم و غیرہ قرار دیا ہے،

اور شیعہ دشمنی یا شیعوں کے اکاذیب و باطل کے جواب میں یزید کو نبی،  
 رسول نہیں بتایا، ورنہ قدیم زمانہ میں رد عمل کے طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور

یزید کو نبی، رسول تک مانا گیا ہے، اور یزید کے نام سے مستقل "فرقہ یزیدیہ" رائج ہو گیا تھا، اور جن گمراہوں نے حضرت علیؑ کو نبوت بلکہ الوہیت تک کا درجہ دیا، یہ فرقہ بھی ان کی مخالفت میں ان ہی کی راہ پر چلا، چنانچہ علامہ مقدسی بشاریؒ (۵۷۳ھ) احسن التقاسیم فی معرفۃ الاقوام میں لکھتے ہیں:-

"بغداد میں غالی لوگ ہیں، جو حب معاویہؓ میں بہت زیادتی کرتے ہیں، اسی طرح شبہ اور بر بہاء یہ بھی ہیں میں ایک دن واسط کی جامع مسجد میں تھا، لوگ ایک آدمی کے ارد گرد جمع تھے، میں بھی اس کے پاس گیا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا، اور اس نے نبی ﷺ سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاویہؓ کو اپنے قریب بلائے گا اور ان کو اپنے پہلو میں بٹھا کر اپنے ہاتھ سے ان کی نقاب کشائی کرے گا، (ویغلفہ بیدہ) پھر ان کو مخلوق کے سامنے عروس کی طرح جلوہ گر کرے گا، میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ یہ کیوں ہوگا؟ اے گمراہ! کیا معاویہ کے علی سے جنگ کرنے کی وجہ سے؟ تو نے جھوٹ کہا، یہ سنتے ہی اس نے کہا کہ اس رافضی کو پکڑو پھر لوگ مجھ پر جھپٹ پڑے، مگر بعض معلموں نے میرا تعارف کرایا، اور ان سے مجھ کو بچایا، (احسن التقاسیم ص ۱۲۶ طبع یورپ)

اسی طرح علامہ مقدسی بشاریؒ نے اصفہان کے لوگوں کی حمایت اور افراط و تفریط کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:-

"اصفہان میں ایک آدمی کے بارے میں مجھ سے بیان کیا گیا کہ وہ بڑا عابد زاہد



ہے، یہ سن کر میں نے اس کے یہاں حاضری کا قصد کیا، اور اپنے قافلہ کو پیچھے چھوڑ کر اس کے یہاں رات بسر کی، اور اس سے سوالات کرتا رہا، میں نے کہا کہ "صاحب" کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ سنتے ہی وہ اس پر لعنت بھیج کر کہنے لگا کہ اس نے ہمارے سامنے ایسا مذہب پیش کیا ہے جسے ہم نہیں جانتے میں نے کہا وہ کیا ہے، اس نے کہا "صاحب" کہتا ہے، کہ معاویہ مرسل (رسول) نہیں تھے، میں نے کہا، اور آپ کیا کہتے ہیں، اس نے کہا میں تو وہی کہتا ہوں جو اللہ عزوجل نے بتایا ہے، لانفرق بین احد من رسلہ (ہم اس کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے) ابوبکر مرسل تھے، اور عمر مرسل تھے، یہاں تک کہ اس نے خلفائے اربعہ کا نام لے کر ان سب کو مرسل بتایا، پھر کہا "اور معاویہؓ بھی مرسل تھے" میں نے کہا آپ ایسا نہ کہیں، یہ چاروں حضرات خلفاء تھے، اور معاویہؓ ملک (پادشاہ تھے، نبی ﷺ نے فرمایا ہے، الخلافة بعدی الی ثلاثین سنة ثم تكون ملکاً) خلافت میرے بعد تیس سال تک ہوگی پھر ملوکیت ہو جائے گی،) یہ سن کر وہ شخص علیؓ پر طعن و تشنیع کرنے لگا، اور میرے بارے میں کہنے لگا کہ یہ آدمی رافضی ہے، اگر میرا قافلہ نہ پہنچ گیا ہوتا تو وہاں کے لوگ مجھے اپنی گرفت میں لے لیتے، اور ان لوگوں کے بارے میں بہت سے قصے مشہور ہیں، (احسن التقاسیم ص ۳۹۹)

یہ حب معاویہؓ میں غلو بیجا کی مثالیں تھیں، اب خود یزید کے بارے میں بیجا غلو کا بیان علامہ ابن تیمیہؒ کی زبانی سنتے، فرماتے ہیں،  
 لم تعتقد انه من الخلفاء الراشدين كما قاله بعض الجهلة من

الاکراد، وكما قيل هونبي فهولاء نظراء من ادعى نبوة علي  
او الهيتة، (المنتقى ۲۷۹)

(ترجمہ) "ہم یہ اعتقاد نہیں رکھتے کہ یزید خلفائے راشدین میں سے ہے، جیسا کہ بعض جاہل کردوں نے کہا، اور جیسا کہ کہا گیا کہ یزید نبی ہے، پس ایسا کہنے والے ان لوگوں کے مانند ہیں جنہوں نے علیؑ کی نبوت یا ان کی الوہیت کا دعویٰ کیا ہے۔"

مخشی نے اس مقام پر لکھا ہے کہ یزید کو خلفائے راشدین میں ماننے والے یہ اکراد بکاریہ تھے، (جن کا مرکز موصل کے اوپر جبال بکاریہ تھا، ان کے پاس ایک بزرگ شیخ عدی بن حسن (ولادت ۳۶۷ وفات ۵۵۷ھ) آئے، ان کا دل شیعوں کے یزید پر الزامات و مکذوبات سے تنگ ہو گیا تھا، انہوں نے ان کردوں میں اعلان کیا کہ یزید مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے، اور اس کے اخلاق و کردار سے جو منسوب کیا جاتا ہے، اس کی کوئی صحت و سند نہیں ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے رسالہ عدویہ میں بتایا ہے کہ شیخ عدی کا طریقہ بہتر تھا، ان کے خلفاء میں شیخ حسن نامی ایک بزرگ تھے، جن کو شیعوں نے قتل کر ڈالا اور بڑا فتنہ برپا ہوا، اس کے نتیجے میں بکاریہ کردوں نے شیخ عدی، اور ان کے خلیفہ حسن کے بارے میں غلو کیا، نیز انہوں نے یزید کے بارے میں اس قدر غلو کیا کہ اس کی نبوت کے معتقد ہو گئے، یہ لوگ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے زمانے تک اسی حالت پر رہے آپ نے ان کے لئے "الرسالۃ العدویہ" نامی کتاب لکھی، جس میں بتایا گیا شیخ عدی بن مسافر نیک آدمی تھے، اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کردوں کو اپنے اور یزید کے بارے میں غلو سے بے جا سے منع کرتے، "رسالہ عدویہ"

سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے یزید کی نبوت کے قائل ہونے کے بعد اسے خدا تک مان لیا، ان کو یزید یہ کہتے ہیں، اور یہ لوگ شمالی عراق کے علاقہ سنجا، اور روس کے علاقہ اردان میں بکثرت آباد ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ دمشق، بغداد اور حلب کے اطراف میں بھی پائے جاتے ہیں، (حاشیہ ص ۲۷۹ و ۲۸۰)

قاضی تنوخی نے "نثار المحاضرہ میں لکھا ہے کہ جس زمانہ میں بغداد میں حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کے بارے میں بحث و مناظرہ جاری تھا، اور لوگ دور ایوں میں منقسم تھے، بغداد کے بھکاری دریائے دجلہ کے پل پر اس طرح کھڑے ہو کر سوال کرتے کہ ایک گروہ پل کے ایک سرے پر حضرت علیؑ کے مناقب و فضائل سناتا اور دوسرا گروہ دوسرے سرے پر حضرت معاویہؓ کے مناقب و فضائل پڑھتا، اور دن بھر کی آمدنی شام کو دونوں گروہ مل کر آپس میں برابر تقسیم کر لیتے،

"خلافت معاویہ و یزید نامی کتاب بھی آج علیؑ و حسینؑ اور معاویہؓ و یزید کی بحثوں کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان کے ناشرین اور کتب فروشوں کے لئے کھائی کا اچھا خاصا ذریعہ بن گئی ہے، اور مؤلف کو شہرت جو ملی وہ الگ رہی،

## مؤلف کے خیالات

یزید کی مدح و منقبت میں مؤلف یوں رطب اللسان ہیں:-

"علم و فضل، تقویٰ و پرہیزگاری، پابندی صوم و صلوة کے ساتھ امیر

یزید حد درجہ کریم النفس، حلیم الطبع، سنجیدہ و متین تھے، ایک عیسائی رومی

مورخ نے ان کی سیرت کے بارے میں ان کے ہم عصر کا بیان ان الفاظ میں لکھا ہے لخ۔ " (ص ۴۹)

مؤلف کی قصیدہ خوانی کی حقیقت جلد ہی آنے والے بیانات سے ظاہر ہوگی، اور عیسائی رومی مورخ کی یزید کی مدح و منقبت کا راز کر بلا کے پس منظر کے بیان میں کھلے گا، مزید ارشاد ہے:-

"حکمرانی و فرمان روائی سے مطلب و مقصد امیر یزید کے نزدیک خدمتِ خلق تھا اور اس خدمت کا آسیدیل و مطمح نظر امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عادلانہ و صالح حکومت و سیاست تھی، (ص ۵۰)

مؤلف کا مطلب شاید یہ ہے کہ یزید کی حکومت خلافت فاروقی کے ہم پلہ تھی، حالانکہ کہاں فاروق اعظم عمر بن خطاب اور کہاں یزید بن معاویہ؟ اسی صفحہ پر مزید تاکید و توشیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"امیر یزید کو حکومت و سیاسی امور میں ہی حضرت فاروق اعظم کی پیروی کا اہتمام نہ تھا، بلکہ طرز معاشرت میں بھی ان کی مثال سامنے رکھتے (ص ۵۰)

یعنی یزید کی حکومت و سیاست اور کردار و سیرت سب کچھ فاروق اعظم کے قالب میں ڈھلی ہوئی تھی،

یہ چند مثالیں ہیں جن میں مؤلف نے یزید سازی کا مظاہرہ کیا ہے،

اور جہاں تک مؤلف کی ان تحریروں کے غلط ہونے کا تعلق ہے، علمائے محققین اور جرح و تعدیل اور حضرات محدثین و مورخین کی تصریحات اس کے لئے کافی ہیں، نیز ہم ان کو علامہ ابن خلدون جیسے بالغ نظر و محتاط اور ناقد و مبصر مورخ کی تصریحات کے ذریعہ اسی کتاب میں ضمناً بیان کر چکے ہیں، علامہ ابن خلدون کے بیان کے بعد پھر کسی اور مورخ و امام کے بیان کی ضرورت نہیں رہ جاتی، اور مؤلف کو بھی علامہ ابن خلدون کی بات ماننی ہی پڑے گی، ان کے لئے اس میں کسی طرح انکار و اباہ کی گنجائش نہیں ہے،

### حضرت حسینؑ کو گرانا اور یزید کو بڑھانا

مؤلف نے اپنی کتاب میں یزید کے فضائل اور مناقب میں وہ طومار باندھا کہ تلبیس و تزویر اور تصدیق و تحقیق کو ایک کر دیا، قاتل حسینؑ عمر بن سعد کو تابعی پھر صحابی ثابت کرنے کے لیے اسماء الرجال و حدیث کو حسب منشاء استعمال کیا مروان بن حکم کے فضائل کی لمبی چوڑی داستان سنائی، ابن زیاد کے مناقب میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے، مگر اسی کے ساتھ حضرات حسنینؑ کو صحابیت تک سے محروم کرنے کی تدبیر کی، ملاحظہ ہوا ارشاد ہوتا ہے:-

"ان حقائق کے علاوہ یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت حسینؑ جیسا کہ ذکر ہو چکا سن و سال میں حضرت ابن جعفر سے کئی سال چھوٹے مثل برادر خورد کے تھے، رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت صرف پانچ برس کی عمر کے تھے،

ادرك الحسين من حياة النبي ﷺ خمس سنين اونحوها

(ص ۱۵۱ ج ۸ البدايه والنهايه )

نبی کریم ﷺ کی حیات میں حسین نے پانچ سال کا زمانہ پایا تھا یا اس کے قریب اتنی چھوٹی سی عمر میں تمیز نہیں ہوتی، بعض ائمہ نے تو ان کے بڑے بھائی حضرت حسنؓ کو جو ان سے سال بھر کے قریب بڑے تھے زمرہ صحابہ کے بجائے تابعین میں شامل کیا ہے۔

وقد روى صالح بن احمد بن حنبل عن ابيه انه قال في الحسن بن عليؓ انه تابعي ثقة و هذا غريب فلان يقول في الحسينؓ انه تابعي بطريق الاولى (ص ۱۵۰) (البدايه والنهايه)

امام احمد بن حنبل کے فرزند صالح نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ حسن بن علیؓ ثقہ تابعی تھے یہ قول غریب ہے، تاہم حسینؓ کے بارے میں بدرجہ اولیٰ کہا جائے گا کہ وہ تابعی تھے زمرہ صحابہ میں شامل نہ تھے، (ص ۱۴۶) کی اردو عربی عبارت اور ترجمہ ختم ہوا۔

مؤلف نے اس عبارت میں دجل و فریب صرف اس لئے کیا ہے کہ حضرات حسینؓ کو صحابی کے بجائے تابعی ثابت کر کے ان کے مرتبہ کو گھٹائیں، اور ان کے مقابلہ میں یزید، عمر بن سعد، مروان، ابن زیاد وغیرہ کو افضل و برتر ثابت کریں، مؤلف نے حسب عادت اس کے لئے علامہ ابن کثیر کی عبارت میں قطع و برید کی، اور ترجمہ غلط کیا، اس سے اوپر عبارت یہ ہے:-

وقد ادرك الحسين من حياة النبي خمس سنين اونها، و روى عنه احاديث وقال مسلم بن الحجاج له رواية عن النبي ﷺ.

(ترجمہ) "حسینؑ نے نبی ﷺ کی زندگی کے پانچ سال پائے یا اس کے قریب اور انہوں نے آپ سے کئی احادیث نقل کیں، اور امام مسلم بن حجاج نے کہا ہے کہ نبی ﷺ سے ان کی روایت ثابت ہے۔"

اس کے بعد علامہ ابن کثیر نے وہ عبارت لکھی ہے جسے مؤلف نے درج کیا ہے، اور اپنے ذوق کے مطابق ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے، "یہ قول غریب ہے، تاہم حسین کے بارے میں بدرجہ اولیٰ کہا جائے گا" اس ترجمہ میں مؤلف نے دو حرکتیں کی ہیں ایک تو یہ قول غریب ہے، کہہ کر تلبیس کی ہے، لغت میں "قول غریب" انکار و تعجب کے اظہار کے لئے استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ایسے لفظ سے کرنا چاہئے جو انکار و تعجب کو ظاہر کر سکے، "قول غریب" کہہ دینا قارئین کو دھوکہ میں رکھنے کے مرادف ہے، دوسرے "فلان یقول" کا ترجمہ "تاہم کہا جائیگا" غلط ہے، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، علامہ ابن کثیر کا مقصد یہ ہے کہ اگر حضرت حسنؑ کے متعلق جو کہ حضرت حسینؑ سے بڑے تھے، تابعی کے غریب و منکر قول کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر حضرت حسینؑ کو بدرجہ اولیٰ تابعین میں شمار کرنا پڑے گا، حالانکہ یہ قول ہی سرے سے نادر و منکر ہے،

مؤلف نے حضرت حسینؑ اور حضرت ابن زبیرؓ کو ایک جگہ یوں گرایا ہے،

ملاحظہ ہو،

" اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت حسینؑ کی عمر وفات نبوی کے وقت پانچ برس کے قریب تھی، اور ابن زبیرؓ کی نو دس برس کی، اس طرح گو طبقہ کے لحاظ سے بعض نے ان کا شمار صفار صحابہ میں کر لیا ہے، مگر ان کبار صحابہ کے مقابلہ میں ان حضرات کو نہیں رکھا جاسکتا جنہوں نے نبی ﷺ کے ساتھ برسہا برس گزار دیئے، اور دین قائم کرنے میں آپ کے زیر تربیت ہر قسم کی ظاہری اور باطنی قربانیاں دیں تا آنکہ بارگاہ خداوندی سے انہیں بشارت مل گئی کہ وہ سب خلاصہ کائنات اور خیر الامم ہیں، (ص ۷۳)

مؤلف نے حضرت حسینؑ اور حضرت ابن زبیرؓ کو صحابہ کے طبقہ سے نکالنے کی کوشش کی، اور طبقہ کے لحاظ سے بعض نے ان کا شمار صفار صحابہ میں کر لیا ہے، کچھ کر ان کی صحابیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی اور اس کے مقابلہ میں یزید کو کیا کیا برتری دینے کی کوشش کرتے ہیں، فرماتے ہیں۔

" امیر یزید کبار تابعین میں تھے، اپنے محترم والد ماجد کے علاوہ بعض اجلہ صحابہ سے فیض صحبت اٹھایا، یعنی حضرت وحیہ الکلبی سے جو جلیل القدر صحابی ہونے کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کے سفیر بھی رہے تھے، ان کی حقیقی بہن سیدہ شراف بنت خلیفہ سے آپ نے نکاح کیا تھا وہ امیر یزید کے رشتہ میں ماموں بھی ہوتے تھے، نیز حضرت ابو الدرداء اور حب رسول اللہ حضرت اسامہ بن زید اور دیگر متعدد صحابہ کرام سے استفادہ کیا، حضرت ابویوب انصاری (ص ۴۴) اور دوسرے صحابہ اور اپنے والد ماجد سے حدیث کی روایت کی، الخ (ص ۴۵)



پھر مولف نے صفحہ ۲۸۶ سے یزید کی تعلیم و تربیت اور جوانی کو نہایت رنگین انداز میں تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ان کو حضرت حسینؑ سے بدرجہا بہتر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اندازہ لگائیے کہ ان حرکتوں کا کیا مطلب ہے، اور اس سے کس ذنیت کا پتہ چلتا ہے۔

### حافظ ابن حجرؒ پر الزام

کتاب کے صفحہ ۴ سے خاص طور سے کردارِ یزید کا عنوان شروع ہوتا ہے، جس میں آخر تک جگہ جگہ علمی خیانتوں کا مظاہرہ کر کے یزید کے فضائل بیان کئے گئے ہیں، ہم اس قسم کی چند خیانتوں کو مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں، مولف لکھتے ہیں:-

"تہذیب التہذیب میں امام ابن حجر عسقلانی نے امیر موصوف کا ذکر رواۃ احادیث میں کرتے ہوئے محدث یحییٰ بن عبد الملک بن عتبہ الکوفی المتوفی ۱۸۸ھ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ امیر یزید کو احد الثقات "یعنی ثقہ راویان حدیث میں شمار کرتے تھے، مراسیل ابوداؤد میں ان کی مرویات ہیں، (ص ۴۵)

امام ابن حجر عسقلانیؒ پر پہلا بہتان یہ رکھا کہ انہوں نے "یزید کا ذکر رواۃ حدیث میں کیا ہے حالانکہ انہوں نے یزید کو تہذیب التہذیب میں بیان کی وجہ اسی کے تذکرہ میں یہ لکھ دی ہے۔

ذکرته للتمیز بینہ و بین النحعی (ج ۱۱ ص ۳۶۱)

(ترجمہ) "میں نے یزید بن معاویہ کا ذکر اس میں اور یزید نحعی میں فرق کرنے کے لئے کیا ہے۔"

امام ابن حجر نے یزید بن معاویہ سے پہلے یزید بن معاویہ نخعی کو فنی عابد کا تذکرہ کیا، جو نہایت مستحق اور عابد و زاہد راوی حدیث میں، ان کے بعد یزید بن معاویہ کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعض کارناموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دونوں کا نام یزید ہے، اور دونوں کی ولدیت معاویہ ہے، مگر دونوں میں فرق ہے، اور فرق کی یہ یہ باتیں ہیں، اس تصریح کے بعد بھی ان کے سر تھوپنا کہ انھوں نے یزید کو احادیث کے راویوں میں شمار کیا ہے، یزید سازی کے سوا کیا ہو سکتا ہے، پھر ابن حجر نے اس کے ذکر میں یہ بھی تصریح کر دی ہے۔

ولیسست له رواية تعتمد (ج ۱۱ ص ۳۶۱)

(ترجمہ) "اور یزید کی کوئی ایسی روایت نہیں ہے، جو قابل اعتبار ہو۔" اس تصریح کے بعد اسے رواۃ حدیث میں شمار کرنے کا الزام ابن حجر پر رکھا، پھر بڑی جرات کے ساتھ یحییٰ بن عبد الملک کی صفت "احد الثقات" کو یزید پر چسپاں کرنے کی کوشش کی، اور اسے یحییٰ بن عبد الملک کا قول قرار دے کر حافظ ابن حجر پر اس کے نقل کرنے کا الزام دھرا۔ یہ بھی سراسر جھوٹ ہے کہ مراسیل ابوداؤد میں یزید کی مرویات ہیں، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ابوداؤد میں یزید کی صرف ایک مرسل روایت ہے، جس پر میں نے اپنی کتاب "الاستدراک علی الاطراف" میں تنبیہ کر دی ہے، تہذیب التہذیب کی پوری عبارت یہ ہے۔

"ولیسست له رواية تعتمد و قال یحییٰ بن عبد الملک بن ابی عتبہ احد الثقات، ثنانوفل بن ابی عقرب ثقة، قال کنت عند عمر بن عبدالعزیز فذکر رجل یزید بن معاویہ فقال قال امیر المومنین یزید

فقال عمر تقول اميرالمؤمنين يزيد، وامر به فضرب عشرين سوطاً،  
ذكرته للتمييز بينه وبين النخعي ثم وجدت له رواية في مراسيل  
ابي داود وقد نبهت عليها في الاستدرک على الاطراف"  
(تهذيب التهذيب ج ۱۱ ص ۳۶۱)

(ترجمہ) "اور یزید کی کوئی قابل اعتماد روایت نہیں ہے، اور یحییٰ بن عبد الملک بن  
ابی عتبہ جو ایک ثقہ راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا نوفل بن ابی عقرب  
نے جو کہ ثقہ راوی ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس تھا کہ ایک آدمی نے  
کہا، "امیر المؤمنین یزید نے کہا یہ سن کر حضرت عمر نے کہا تم امیر المؤمنین یزید  
کہتے ہو یہ کہہ کر اس کی سزا کا حکم دیا، چنانچہ اس کو بیس کوڑے مارے گئے، میں نے  
یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ یزید بن معاویہ نخعی کو فہمی عابد  
ہیں اور اس میں فرق ہو جائے پھر میں نے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کی ایک  
روایت سنن ابوداؤد کے مراسیل میں پائی ہے، جس پر "استدرک علی الاطراف" میں  
تنبیہ کر دی ہے۔ "مؤلف نے کس طرح محدثین پر بہتان تراشی کر کے یزید نوازی  
کرنی چاہی ہے بات تو جب تھی کہ اس حرکت کے بغیر یزید کی فضیلت بیان کرتے۔

علامہ ابن کثیر پر الزامات

آگے چل کر مؤلف کا بیان ہے "امیر یزید نے زمانہ طالب علمی ہی سے  
احادیث نبوی کا گہرا مطالعہ کیا تھا، اور اہل علم میں ان کو بصیرت خاص حاصل تھی،  
اس زمانہ کا ایک دلچسپ واقعہ مورخین نے لکھا ہے جس کو علامہ ابن کثیر کے الفاظ میں  
یہاں (ص ۴۵) نقل کرتا ہوں،

وفى رواية ان يزيد لما قال له ابو ه سلى حاجتك قال له يزيد  
اعتقنى من النار اعتق الله رقتك منها، قال وكيف قال لانى  
وجدت فى الاثار انه من تقلد امر الامة ثلاثة ايام حرمه الله على  
النار (ص ۲۲۷ ج ۸ البداية والنهاية)

(ترجمہ) "اور روایت ہے کہ یزید سے جب ان کے والد نے کہا کہ جو بات و  
خواہش تمہاری ہو، مجھ سے کہو، تو یزید نے ان سے کہا مجھے نار دوزخ سے بچا لیجیے، اللہ  
تعالیٰ آپ کی گردن کو اس سے آزاد رکھے (معاویہ) نے پوچھا وہ کیونکر (یزید) نے کہا،  
میں نے احادیث میں پایا ہے کہ جس کو تین دن کے لئے امت کا امر (خلافت) سونپا  
جائے، اللہ تعالیٰ اس پر نار دوزخ کو حرام فرمادے گا۔"

مؤلف کی کتاب کے صفحہ ۴۵، ۴۶ سے عربی عبارت اور اس کا ترجمہ ہم  
نے نقل کر دیا ہے جس دلچسپ واقعہ کی طرف مؤلف نے اشارہ کیا ہے، ہمیں افسوس  
ہے کہ اسے کچھ تفصیل کے ساتھ نقل کرنا پڑ رہا ہے، اس واقعہ کے نقل کرنے، اور  
عربی کی پوری عبارت درج کر دینے سے مؤلف کا خانہ کذب و افتراء گر جائے گا۔

اس دلچسپ قصہ کا ما حاصل یہ ہے کہ یزید کو بچپن ہی میں اس کی والدہ بیسون نے  
کنگھی کی، اور اسے سنوارا یہ دیکھ کر حضرت معاویہؓ کی دوسری بیوی فاخہ بنت قرظہ کو  
یزید پر رشک ہوا، اور انہوں نے اس کے بارے میں ایک آدھ جملہ کہا، حضرت معاویہؓ  
نے اپنے لڑکے عبد اللہ کو جو فاخہ کے بطن سے تھا، بلایا، اور کہا کہ تمہاری جو خواہش  
ہو بیان کرو، میں پوری کروں گا، وہ بیوقوف تھا، اس نے کہا میرے لئے ایک موٹا تازہ

کتا اور ایک موٹا تازہ گدھا خرید دو، اس کے بعد حضرت معاویہؓ نے یزید کو بلایا اور کہا کہ تمہاری جو حاجت ہو مجھ سے کہو میں پوری کروں گا، یہ سن کر یزید سجدے میں گر گیا، اور سر اٹھا کر بولا، اللہ کا شکر ہے، کہ اس نے امیر المؤمنین کو اس ارادے تک پہنچا دیا ہے، اور ان کو میرے بارے میں ایسا ارادہ کرا دیا ہے، پھر یزید نے کہا۔

حاجتی ان تعقدلی العهد من بعدک وتولینی العام صائفة المسلمین  
میری حاجت یہ ہے کہ آپ اپنے بعد مجھے ولی عہد بنائیں، اور اس سال مسلمانوں کے موسم گرما کی فوج کا امیر بنائیں۔

نیز جب میں واپس آجاؤں تو آپ مجھے حج کی اجازت دیں، اور موسم حج کی امارت میرے سپرد کریں، اور اہل شام میں ہر ایک کے وظیفہ میں دس دینار کا اضافہ میری سفارش سے کریں، اور بنی حجاج، بنی سہم اور بنی عدی کے یتیموں کے لئے وظیفہ مقرر کریں۔ اس کے بعد حضرت معاویہؓ اور یزید میں مزید گفتگو ہوئی آخر میں حضرت معاویہ نے فرمایا۔

قد فعلت ذالک کله وقبل وجهه

(ترجمہ) "میں نے یہ سب کر دیا، یہ کہہ کر انہوں نے اس کے چہرے کو بوسہ دیا۔ پھر اپنی بیوی فاختہ بنت قرظہ سے کہا کہ تو نے اپنے بیٹے عبد اللہ کے مقابلہ میں یزید کو کیسا پایا۔

اس دلچسپ واقعہ کے ختم ہو جانے پر لکھا ہے کہ۔

وفی روایة ان یزید لما قال له ابوہ سلنی حاجتک قال یزید الخ۔  
مصنف نے پورا واقعہ حذف کر کے اس آخری کھڑے کو لیا ہے، جسے صرف ایک  
روایت کے بموجب صاحب البدایہ والنہایہ نے نقل کر دیا ہے، پھر مؤلف نے  
خیانت کرتے ہوئے اس عبارت کا آخری کھڑا حسب عادت حذف کر دیا ہے۔ اور  
ادھوری عبارت نقل کر دی ہے، حالانکہ پوری عبارت یوں ہے۔

حرمة الله على النار فاعهد الى بالامر من بعدك ففعل (البدایہ  
والنہایہ ، ج ۸ ص ۲۲۷)

یعنی یزید نے حدیث کا حوالہ دینے کے بعد حضرت معاویہؓ سے کہا کہ آپ اپنے بعد  
مجھے ولی عہد بنا دیجئے تو انھوں نے ایسا کر دیا۔

اس قصے سے یزید کی حدیث دانی اور پریر گاری ثابت کرنے کے لئے مؤلف  
نے جو ناقص عبارت نقل کی، اس کے پورا ہو جانے سے مطلب ہی بدل گیا ہے۔ اور  
حضرت معاویہؓ پر الزام آتا ہے۔ نیز مؤلف نے آگے چل کر صفحہ ۳۱۱ پر یزید کی  
حرارت دینیہ و خدمات ملیہ کے ماتحت اس قصہ کا یہ ایک کھڑا نقل کیا ہے:-

تولینی العام صائفة المسلمین

(ترجمہ) "اس سال کی عسکری مہم مسلمانان پر مجھے تعینات کیا جائے۔"  
حالانکہ اس عبارت کو بھی نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اور اس کہانی کے  
ان نامکمل کھڑوں کے بغیر کام چل سکتا تھا، مؤلف نے لکھا ہے:-  
علامہ ابن کثیر نے انکے (یزید) بارے میں اسی قسم کے الفاظ تحریر کئے ہیں،  
لکھتے ہیں:-

وقد كان فيه خصال محمودة من الكرم والحلم والفصاحة والشعر  
والشجاعة وحسن الرأي في الملك وكان ذا جمال حسن المعاشرة  
(ترجمہ) "اور یزید کی ذات میں قابل ستائش صفات رحم و کرم، فصاحت و شعر  
گوئی اور شجاعت و بہادری کی تھیں، نیز معاملات حکومت میں عمدہ رائے رکھتے تھے،  
اور وہ خوبصورت اور خوش سیرت تھے۔"

صفحہ ۳۹ سے مؤلف کی بیان کردہ عربی عبارت اور ان کا ہی کیا ہوا ترجمہ ختم ہوا  
علامہ ابن کثیر کی اس عبارت میں اپنی عام عبارات کے مطابق مؤلف نے تقصیر کی  
بے پوری عبارت یہ ہے:-

".....حسن المعاشرة وكان فيه ايضاً اقبال على الشهوات  
وترك بعض الصلوات في بعض الاوقات وامانتها في غالب  
الاقوات (البدایہ والنہایہ ج ۸ ص ۲۲)

--- یزید خوش سیرت تھا، نیز اس کے اندر شہوتوں پر توجہ دینا، اور بعض  
نمازوں کا چھوڑنا، بعض اوقات میں اور اکثر اوقات میں نمازوں کا قضا کر دینا بھی تھا۔  
مؤلف نے علامہ ابن کثیر کے پورے جملہ کی یہ آخری عبارت نقل نہیں کی اور یہ  
باور کرانا چاہا کہ انہوں نے یزید کے نیک ہونے کی شہادت دی ہے۔  
حالانکہ علامہ ابن کثیر نے اسی عبارت سے متصل اپنے منشاء کی تائید میں حضرت  
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے:-

سمعت رسول الله يقول يكون خلف من بعد ستين سنة اصاعوا

الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً ثم يكون خلف يقرؤن  
القران لا يتجاوز تراقيهم ويقرأ القرآن ثلاثة مومن و منافق و فاجر  
(البدایہ و النہایہ ج ۸ صف ۲۳۰)

(ترجمہ) "میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ساٹھ سال کے بعد  
سے کچھ لوگ نماز کو ضائع کرینگے، اور خواہشوں کے پیچھے پڑیں گے، پس گھر اسی میں پڑ  
جائینگے پھر اس کے بعد کے کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے جو ان کی پسلیوں سے آگے نہیں  
بڑھے گا، اور قرآن کو تین قسم کے لوگ پڑھتے ہیں مومن اور منافق اور بدکار۔"  
علامہ ابن کثیر کے اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد آخری عبارت کی تصدیق و  
توثیق ہے، اور یہ ان کی غایت دیانتداری ہے کہ وہ یزید کے بارے میں محامد اور  
معائب دونوں بیان کرتے ہیں، جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا، وہ اس بارے میں بڑے ہی  
محتاط ہیں، اور یزید سے بہتان دور کرنے کی راہ سوچتے ہیں۔

مؤلف نے صفحہ ۲۹۶ پر علامہ ابن کثیر کے حوالے سے حضرت معاویہؓ کی  
وصیت کا ترجمہ بیان کیا ہے، جس میں آپ نے یزید کو اچھی باتوں کی نصیحت فرمائی  
ہے، ترجمہ کا آغاز یوں ہے:-

"اے یزید! اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا، یہ امر (خلافت) تمہیں تفویض ہوا  
ہے، اور تم اب اس کام کے با اختیار ہو، جس کا میں بھی تھا، تم نے اگر اس کو  
خوش اسلوبی سے انجام دیا مجھے اس سے بڑی خوشی ہوگی، اور اگر اس کے خلاف کیا  
تو دکھ ہوگا، الخ"



اس کے بعد تقریباً دو صفحے میں وصیت کا ترجمہ دیا گیا ہے، اوپر کے اقتباس کی اصل عبارت اور اس کا ترجمہ یوں ہے:-

یا یزید اتق اللہ فقد وطات لك هذا الامر وو لیت من ذالك ماولیت  
فان یک خیراً أسعد به وان کان غیر ذالك شقیة به، (البدایه و النہایه  
ج ۸ ص ۲۲۸)

(ترجمہ) "اے یزید! تم اللہ سے ڈرو کیونکہ میں نے تمہارے لئے اس امر یعنی خلافت کو ہموار کر دیا ہے، اور میں جس چیز کا والی تھا، تمہیں بھی اس کا والی بنا دیا ہے، اگر میرا یہ کام بہتر ہو گا تو اس سے خوش قسمت ثابت ہو گا، اور اگر یہ کام اس کے علاوہ ہوا تو پھر میں اس کی وجہ سے ناکام و بد نصیب ثابت ہوں گا۔"

مؤلف نے ترجمہ ایسا کیا ہے کہ اس سے یہ پتہ نہ چلے کہ حضرت معاویہؓ نے یزید کو ولی عہد بنایا، اور خلافت کے معاملے کو اس کے لئے ہموار کیا، اس بات کے ظاہر کرنے میں کون سا ڈر ہے جبکہ خود حضرت معاویہؓ اسے ظاہر فرماتے ہیں، اور مؤلف نے اپنی اس کتاب میں جگہ جگہ یہ ثابت کیا ہے کہ یزید کی بیعت عام تھی، اور تمام صحابہ اور تابعین نے برضا و رغبت بیعت کی، پھر یہ جو اوپر عبارت اور ترجمہ دیا گیا ہے اس سے تو حضرت معاویہؓ کے حسن نیت اور اخلاص کا پتہ چلتا ہے، اور ان کے یزید کو ولی عہد بنانے میں جو ٹہلی اور دینی جذبہ کار فرما تھا، اس کی ترجمانی ہو رہی ہے، اس عبارت کو پیش کر کے ہم اس سے حضرت معاویہؓ کی پاک نیتی اور دیانتداری کو ثابت کر سکتے ہیں،

## کتاب فضل یزید کی حقیقت

مؤلف نے "کتاب فضل یزید" کے بیان میں ابن کثیر کے حوالہ سے شیخ عبد اللہ عبد المغیث بن زبیر عربی حنبلیؒ کی اس کتاب کا ذکر یوں کیا ہے:-  
 "انہوں نے امیر یزید کے حسن سیرت اور اوصاف پر مفصل تصنیف کی،"  
 ولہ مصنف فی فضل یزید بن معاویہ اتی فیہ بالغرائب والعجائب  
 (ص ۳۲۸ ج ۱۲ البدایہ والنہایہ)

(ترجمہ) "اور ان کی (شیخ عبد المغیث کی) تصنیف سے فضل یزید بن معاویہ پر ایک کتاب ہے، جس میں بہت سے عجیب و غریب حالات بیان کئے گئے ہیں۔"  
 مؤلف کی یہ عبارت (ص ۵۶) سے مع عربی عبارت اور ان ہی کے ترجمہ پر ختم ہوئی اس عبارت کے نقل کرنے اور اس کا ترجمہ کرنے میں حسب عادت انہوں نے اپنے دونوں کام کئے، علامہ ابن کثیر کی عبارت ادھوری نقل کی، اور ترجمہ میں غلطی کی، پوری عبارت اور اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے:-

"ولہ مصنف فی فضل یزید بن معاویہ اتی فیہ بالغرائب والعجائب  
 وقد رد علیہ ابوالفرج ابن جوزی فاجاد واصاب" (ص ۳۲۸ ج ۱۲ البدایہ  
 والنہایہ)

(ترجمہ) "اور ان کی (شیخ عبد المغیث کی) یزید بن معاویہ کی فضیلت کے بارے میں ایک تصنیف ہے، جس میں انہوں نے ان جانی اور تعجب خیز باتیں بیان

کی ہیں، اور علامہ ابو الفرج ابن جوزی نے اس کا رد لکھا ہے، اور اچھا اور درست و صحیح کام کیا ہے۔"

اولاً مؤلف نے "الغرائب و العجائب" کا ترجمہ "بہت سے عجیب و غریب حالات" کر کے قارئین کو دھوکہ دینا چاہا ہے کہ اس میں بہت اچھی اچھی اور کام کی باتیں درج ہیں، حالانکہ "غرائب اور عجائب" کا اطلاق عربی قاعدہ میں ایسی چیزوں اور باتوں پر ہوتا ہے جو غیر معروف اور غیر مشہور ہوں، اور ان کو سن کر اس لئے تعجب ہو کہ وہ بالکل نئی ہوتی ہیں دوسرے مؤلف نے علامہ ابن کثیر کی آخری عبارت حذف کر کے اس عبارت کی روح ختم کرنی چاہی اور علامہ ابن کثیر نے اس کتاب کے اوپر جو رائے ظاہر کی ہے اسے چھپا کر شیخ عبدالمغیث کی واہی تباہی والی کتاب کو اہمیت دینی چاہی ہے، مؤلف نے (ص ۷۵۶) ہی پر "کتاب فضل یزید" کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اس کی شہرت ہوئی تو خلیفہ وقت الناصر شیخ کی خدمت میں تبدیلی بیست کر کے آئے، شیخ نے پہچان لیا، مگر اس کا اظہار نہ کیا، خلیفہ الناصر نے امیر یزید کے بارے میں شیخ سے سوال کیا، اور شیخ نے جواب دیا:-

فساله الخليفة عن يزيد ايلعن ام لا فقال لا اسوغ لعنه لاني لو فتحت هذا الباب ، لافضى الناس الى لعن خليفتنا، فقال الخليفة ولم، قال لانه يفعل اشياء منكورة كثيرة منها كذا وكذا ثم شرع يعدد على الخليفة افعاله القبيحة وما يقع منه من المنكر لينزجر منها فتركه الخليفة و خرج من عنده وقد اثر كلامه فيه وانتفع به"

(ترجمہ) "خلیفہ نے (شیخ عبدالمغیث سے) سوال کیا کہ یزید پر لعن کی جائے یا

نہیں، انھوں نے جواب دیا کہ لعن کرنا ہرگز جائز نہیں اور لعن کا دروازہ کھول دیا جائے تو لوگ ہمارے موجود خلیفہ پر لعن کرنے لگ جائیں گے، خلیفہ نے پوچھا وہ کیوں شیخ نے کہا کہ وہ بہت سی منکرات پر عمل پیرا ہوئے ہیں جن میں سے یہ یہ امور ہیں، انھوں نے خلیفہ کے برے افعال گنانے شروع کئے نیز جو منکرات سرزد ہوئے تھے، خلیفہ نے گفتگو ترک کر دی، اور ان کے پاس سے اٹھ آئے، لیکن ان کے کلام کا اثر ان کے دل پر ہوا، اور اس سے ان کو نفع ہوا۔"

(ص ۵۱۹) کی عربی عبارت اور اس کا ترجمہ مؤلف کے مطابق ختم ہوا، معلوم نہیں اس پوری عبارت سے یزید پر لعن کرنے نہ کرنے کا کیا تعلق ہے، اس سے تو شیخ عبدالغنیث کی حق گوئی اور خلیفہ کے سامنے اس کے معائب و منکرات کی نشاندہی کا پتہ چلتا ہے، جو ہمارے علماء کی امتیازی شان رہی ہے، ساتھ ہی اس قصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر افعال قبیحہ اور منکرات کے سرزد ہونے کی وجہ سے یزید پر لعن جائز ہو جائے تو پھر خلیفہ وقت پر اس کا جواز نکل آئے گا، کیونکہ یہ بھی فلاں قبیح افعال اور غیر شرعی کام کرتا ہے، اس میں صرف یزید مستحقِ ملامت و لعنت کیوں ٹھہرے، خلیفہ وقت بھی اس کا سزاوار ہوگا، اس واقعہ سے تو یزید کے افعال قبیحہ اور منکرات کا پتہ چلتا ہے نہ کہ فضیلت و بزرگی ثابت ہوتی ہے، معلوم نہیں مؤلف طرفداری کے کس عالم میں اس واقعہ کو لکھ گئے، نیز مؤلف نے شیخ عبدالغنیث کے "قول لا اسوغ لعنہ لانی لو قحت هذا الباب" کا ترجمہ غلط کیا ہے، صحیح ترجمہ یہ ہے کہ "میں اس پر لعن کی اجازت نہیں دیتا ہوں، کیونکہ اگر میں لعن کا یہ دروازہ کھول دیتا ہوں تو۔۔۔"

مؤلف نے اس مقولہ کو عام حکم بنا کر یہ ترجمہ فرما دیا ہے، "لعن کرنا ہر گز جائز نہیں"، اور "لعن کا دروازہ کھول دیا جائے تو، ترجمہ میں ذرا ذرا سی تبدیلی کر کے بات کہیں سے کہیں لے جانے میں مؤلف بہت ماہر ہیں،

## یزید کی ولی عہدی کی داستان

مؤلف نے لکھا ہے :-

"الغرض امیر یزید کا ولی عہد اور اس کے بعد خلیفہ منتخب ہونا پوری امت کی رضا مندی سے ہوا تھا، یہ رضا مندی مصلحت ملیہ کے تقاضے کی بنا پر تھی، نہ کسی خوف کے تحت اور نہ لالچ کی وجہ سے، ان کا انتخاب کسی اندرونی اختلاف کا شرہ اور وقتی حادثہ نہ تھا، بلکہ ان کے بہترین زمانہ میں جب جذبات میں کوئی میجان نہ تھا، اجلہ صحابہ کرام کی تحریک و تائید سے ہوا، اور نبی ﷺ کے رفقاً اور آپ کے آل البیت اس پر مستقیم رہے۔" (ص ۴۰)

اس عبارت میں یزید کی بیعت و خلافت کو جس انداز میں پیش کیا گیا ہے اور جو شاندار الفاظ استعمال کئے گئے ہیں، وہ ایک طرف اگر یزید کی شان کو دو بالا کرتے ہیں تو دوسری طرف حضرت علیؑ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور ایک ایک لفظ میں حضرت علیؑ پر چوٹ اور تعریض ہے،

یزید کی بیعت ولی عہدی کے ہمہ گیر ہونے کو مؤلف ان الفاظ میں بیان کرتے

ہیں :-

"عالم اسلام کے ہر ہر علاقہ میں لوگوں نے بلا کسی اختلاف کے بیعت کی تھی، اور

ہر جگہ کے وفود توکید بیعت کے لئے امیر یزید کے پاس حاضر ہوئے تھے، فاتسقت البیعة لیزید فی سائر البلاد، و وفدت الوفود من سائر الاقالیم الی یزید (ص ۸۰ ج ۸ البدایہ والنہایہ) امیر یزید کی ولی عہدی کی بیعت سے پہلے کبھی اس اہتمام سے بیعت نہیں لی گئی تھی، کہ مملکت اسلامی کے گوشہ گوشہ سے بیعت کے لئے وفود آئے ہوں، اور ہر علاقہ سے لوگوں نے بطیب خاطر اس طرح ایسے قریشی نوجوان کی بیعت کی ہو، جو اپنی صلاحیتوں اور خدمات عالیہ کے کارہائے نمایاں کی وجہ سے ملت کا محبوب تھا، (ص ۱۰۰)۔

یزید کی ولی عہدی کے جواز کا مقام بہت ہی کٹھن تھا، اس کے بعد پھر تمام منزل آسان ہو جاتی ہے، اسی لئے مولف نے یزید کی منقبت میں نہایت موٹے موٹے الفاظ استعمال کر کے اسے بیعت کے اعتبار سے حضرات خلفائے راشدین سے بھی بلند مرتبہ قرار دیدیا ہے، اور یزید کی صلاحیتوں اور "جذبات ملی کے کارہائے نمایاں" کی بنیاد پر اس کی محبوبیت کا قصر قائم کر کے پورے عالم سے اس کی زیارت کرائی ہے، اور اپنی عادت کے مطابق علامہ ابن کثیرؒ کی عبارت میں خیانت کر کے دھوکہ دیا ہے، ملاحظہ ہو:-

علامہ ابن کثیرؒ بیان کرتے ہیں کہ یزید کی بیعت کے لئے وفود بلائے گئے، اور ان کے سامنے حضرت معاویہؓ نے تقریر کی، اس کے بعد یزید کی بیعت ہونے لگی، اور آئے ہوئے لوگ دھمکی کی وجہ سے لب کشائی نہ کر سکے، اس طرح یزید کی بیعت چل پڑی، پوری عبارت یہ ہے:-

ثم خطب معاوية، وهؤلاء حضور تحت منبره و بايع الناس ليزيد وهم  
 قعود، ولم يوافقوا ولم يظهر واخلاقا لما تهددهم وتوعدهم فاتسقت  
 البيعة ليزيد في سائر البلاد (البدايه و النهايہ ج ۸ صف ۸۰)

(ترجمہ) "پھر معاویہ نے خطبہ دیا، یہ لوگ ان کے منبر کے نیچے موجود تھے، عام  
 لوگوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت کی، اور یہ لوگ بیٹھے رہے، نہ موافقت کی، نہ  
 مخالفت کی، کیونکہ ان کو ڈرایا دھمکایا تھا، پس یزید کی ولی عہدی کی بیعت تمام  
 شہروں میں چل پڑی۔"

اصل اور پوری عبارت سامنے آجانے کے بعد فیصلہ آسان ہے، کہ یزید کی ولی  
 عہدی کی بیعت کس حال میں کس طرح ہوئی، اور مؤلف نے اپنے خیال کو ثابت  
 کرنے کے لئے کیا حرکت کی ہے، مؤلف خلافت معاویہ و یزید کیا اس واقعہ کا انکار  
 کر کے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس ایک ہزار درہم بطور نذر کے بھیجے گئے، جسے  
 انھوں نے قبول کر لیا، اس کے بعد یزید کی ولی عہدی کے لئے ان سے بیعت کا تذکرہ  
 کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ "میں اپنے دین کو دنیا کے بدلے فروخت نہیں کرونگا،  
 معاویہؓ نے کیا ایک ہزار درہم پر میرا دین خریدنے کا قصد کیا ہے؟ یہ کبھی کر رہا نہیں  
 کر دی، اور یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور کیا صحاح ستہ میں مذکور اس واقعہ سے انکار  
 کیا جاسکتا ہے کہ، مروان نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو جمع کر کے یزید کی بیعت کا خط  
 سنایا، تو عبدالرحمن بن ابوبکرؓ نے اٹھ کر کہا کہ تم لوگ خلافت کو ہر قلی حکومت  
 بنانا چاہتے ہو کہ جب ایک ہر قلی مر جائے تو اس کی جگہ دوسرا ہر قلی قائم ہو، پھر

حضرت حسین بن علیؑ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کی تصدیق و تائید کی، اور جلسہ بیعت درہم برہم ہو گیا، اور اس کے بعد یزید کی تعریف و منقبت میں تمام بلاد و امصار میں خطوط لکھے گئے اور اس کی اہلیت اور بزرگی کا پروپیگنڈہ کیا گیا،

حضرت حسینؓ کے اس موقع پر بیعت کر کے یزید کی ولی عہدی کو تسلیم کر لینے کے لئے کیا یزید کا ایک شعر پیش کر کے اس کا اپنے ذوق کے مطابق بیان کر دینا کافی ہے، جیسا کہ مولف نے ص ۷۵ پر کیا ہے،

مولف نے ص ۳۸ اور ص ۳۹ پر علامہ ابن خلدون کے شہرہ آفاق مقدمہ کی ایک طویل عبارت کا ترجمہ درج کیا ہے، اور دیگر خیانتوں کے ساتھ ایک زبردست خیانت یہ کی ہے، کہ اس بحث کا سب سے آخری پیرا اپنی عادت کے مطابق حذف کر دیا ہے، اور اس عبارت کا ترجمہ نہیں کیا ہے، وہ عبارت یہ ہے: وفرار عبداللہ بن عمر من ذالک انما هو محمول علی تورعہ من الدخول فی شیئی من الامور مباحاً کان او محظوراً، کما هو معروف عنہ الخ مقدمہ (صف ۷۶)

اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے، "اور عبداللہ بن عمرؓ کا یزید کی ولی عہدی کی بیعت سے بھاگ جانا، ان کی شدت احتیاط کی وجہ تھا، کسی بھی معاملہ میں خواہ وہ جائز یا ناجائز جیسا کہ ان کے بارے میں مشہور ہے۔"

اگر مولف اس جملہ کو نقل کرتے تو ان کا وہ دعویٰ باطل ہو جاتا جو کتاب میں جگہ



جگہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے یزید کے طرفدار ہونے کے بارے میں کیا گیا ہے، اس لئے انھوں نے اسے حذف کر کے علامہ ابن خلدون کی عبارت میں خیانت کی، اور بتانا چاہا کہ وہ بھی میری ہی طرح حق پوش و جانبدار ہیں،

### ولی عہد بنانے کی وجہ

مؤلف نے یزید کے ولی عہد اور پھر خلیفہ بنانے کی وجہ نہایت والہانہ انداز میں بیان کرتے ہوئے یزید کی صلاحیت و قابلیت اور اس کی دوراندیشی و دیانتداری وغیرہ کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا، مگر مورخین و واقع نگار حتیٰ کہ علامہ ابن خلدون یزید کے بارے میں ان باتوں کے ہرگز قائل نہیں ہیں، اور نہ اسے اس اعتبار سے امامت و خلافت کا اہل مانتے ہیں، بلکہ حضرت معاویہؓ کے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد اور اپنا قائم مقام بنانے کی وجہ کچھ اور ہی بیان کرتے ہیں، ملاحظہ ہو، علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں:-

والذی دعا معاویة لایثار ابنہ یزید بالعہد دون من سواہ انما هو مراعاة المصلحة فی اجتماع الناس واتفاق اہوائہم باتفاق اہل الحل والعقد علیہ حیئنذ من بنی امیة اذ بنوامیة یومئذ لا یرضون سواہم وہم عصابة قریش و اہل الملة اجمع، و اہل الغلب منہم فآثرہ بذالک دون غیرہ ممن یظن انہ اولیٰ بہا وعدل الفاضل الی المفضول حرصاً علی الاتفاق واجتماع الایواء الذی شانہ اہم عند الشارع

(مقدمہ ص ۱۶۵، ۱۶۶)

اور جس بات نے معاویہؓ کو کسی دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنانے کی دعوت دی، وہ صرف اس مصلحت کی رعایت تھی کہ اس وقت بنو امیہ کے اہل حل و عقد کے یزید پر اتفاق کرنے سے لوگوں کا اجتماع اور ان کے خیالات کا اتفاق ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت بنی امیہ اپنے ان اہل حل و عقد کے علاوہ کسی کے ماننے پر راضی نہیں تھے، اور بنو امیہ ہی قریش اور پورے اہل ملت کے سرگروہ تھے، اور اہل غلبہ ان میں سے تھے، اسی وجہ سے معاویہؓ نے یزید کو دوسرے پر ترجیح دی، جس کے متعلق گمان تھا کہ وہ ولایت و خلافت کے لئے زیادہ موزوں و بہتر ہے، اور انھوں نے فاضل و بہتر سے بٹ کر مفضول و نامناسب کو ولی عہد بنایا، وہ بھی اس خیال سے کہ اتفاق باقی رہے، اور لوگوں کے خیالات مجتمع رہیں، اس لئے کہ اتفاق و اجتماع شارع کے نزدیک بہت اہم چیز ہے۔

نیز حضرت معاویہؓ کے حسن نیت اور حرص علی الاجتماع کو یزید کے ولی عہد بنانے کی وجہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ماحدث فی یزید من الفسق ایام خلافتہ فایاک ان تظن معاویۃ رضی اللہ عنہ انه علم بذالک فانہ، اعدل من ذالک" وافضل بل کان یعدلہ ایام حیاتہ فی سماع الغناء وینہاہ عنہ وهو اقل من ذالک (مقدمہ صف ۱۷۶، ۱۷۷)

(ترجمہ) "یزید کے اندر اس کی خلافت کے زمانہ میں جو فسق و فجور پیدا ہوا، خیر دار تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اسے جانتے تھے، کیونکہ وہ اس سے اعلیٰ و افضل ہیں، بلکہ وہ تو اپنی زندگی میں یزید کو گانا سننے پر ملامت کرتے تھے، اور روکتے تھے، حالانکہ غناء فسق سے کم درجہ کا گناہ ہے۔"

ان تصریحات سے حضرت معاویہؓ کے اجتہاد و نیت اور یزید کے حالات کا بخوبی علم ہو جاتا ہے، اور یہ سوال حل ہو جاتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے اپنے بیٹے یزید کو کیوں اپنی زندگی میں ولی عہد بنایا، اور خلافت کے امر کو مسلمانوں کے فیصلے پر کیوں نہیں چھوڑ دیا۔

### یزید کی امارت و خلافت کس معنی میں تھی؟

یزید کی امارت و خلافت نہ علیؓ منہاج النبوة تھی اور نہ خلافت راشدہ تھی، بلکہ اس کی حیثیت ایک عام حکومت و سلطنت کی تھی جو غلبہ و اقتدار کے بعد ہو جاتی ہے، اور چونکہ شرعاً دینی امور کے نفوذ اور واجب العمل ہونے میں حاکم و سلطان کے نیک و بد ہونے کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جس طرح نیک امیر کا حکم جہاد و قصاص، عزل و نصب میں مانا جائے گا، اسی طرح بدکار امیر و حاکم کا حکم ان میں نافذ ہوگا، اس لئے یزید کے اعمال قبیحہ کے ساتھ ساتھ اس نے جو شرعی احکام جاری کئے ان پر عمل درآمد کیا گیا، اور وہ صحیح تھے،

اس مسئلہ میں ہم امام ابن تیمیہؒ کی صاف و صائب رائے کو پیش کرتے ہیں اور یہی اہل حق کا مسلک و موقف ہے،

یزید اور اس کی امارت و خلافت کے بارے میں امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں:-

لم نعتقد انه من الخلفاء الراشدين كما قاله بعض الجهلة من الاكراد  
وكما قيل هو نبى، فهؤلاء نظراء من ادعى نبوة على او الهيته  
(المنتقى ص ۲۷۹)

(ترجمہ) "ہم یہ اعتقاد نہیں رکھتے کہ یزید خلفائے راشدین میں سے ہے، جیسا کہ بعض جاہل کردوں نے کہا، اور جیسا کہ کہا گیا ہے، کہ یزید نبی ہے ایسا کہنے والے اس شخص کے مانند ہیں جس نے حضرت علیؑ کی نبوت یا ان کی الوہیت کا دعویٰ کیا۔"

امام ابن تیمیہ کا یہ بیان بالکل واضح ہے، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اس کے آگے یزید کی امارت کی حیثیت یوں بیان فرماتے ہیں:-

ونحن نقول خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم صار ملگاً كماورد في الحديث وان عنيت باعتقاد امامة يزيد انه كان ملك وقته و صاحب السيف كما مثاله من المروانية والعباسية فهذا متيقن، وحكم يزيد على جورة الاسلام سوى مكة فانه غلب عليها ابن الزبير وامتنع عن بيعة يزيد، ولم يدع الى نفسه حتى بلغه موت يزيد (ص ۱۸۱) فكون الواحد من هولاء اماما بمعنى انه كان له سلطان ومعه السيف يولى ويعزل ويعطى ويحرم ويحكم و ينفذ و يقيم الحدود و يجاهد الكفار ويقسم الاموال، امر مشهور متواتر لا يمكن جرده وهذا مع كونه اماما و خليفة وسلطاناً كما ان امام الصلوة هو الذي يصلى بالناس فاذا راينا رجلا يصلى بالناس كان القول بانه امام امرا مشهودا محسوسا لا تمكن المكابرة فيه اما كونه برا او فاجرا، مطيعا او عاصياً فذاك امر اخر، فاهل السنة اذا اعتقدوا امامة الواحد من هولاء يزيد او عبد الملك او المنصور او غيرهم كان بهذا الاعتبار (المنتقى ص ۱۸۱ تا ۱۸۲)

(ترجمہ) "اور ہم کہتے ہیں کہ خلافتِ نبوت تیس سال تک ہے پھر ملوکیت ہو گئی

جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اور اگر تم یزید کی امامت و خلافت کے اعتقاد سے یہ مراد لیتے ہو کہ وہ اپنے وقت کا ملک اور صاحبِ سیف تھا، جیسے مروانی اور عباسی حکمران تو یہ بات یقینی ہے، اور یزید نے سوائے مکہ کے پورے عالم اسلام پر حکومت کی، البتہ مکہ پر ابن زبیرؓ غالب رہے، اور یزید کی بیعت سے رکے رہے اور اپنی طرف لوگوں کو دعوت نہ دی یہاں تک کہ ان کو یزید کی موت کی خبر پہنچی، (پس یزید اور مروانی و عباسی حکمرانوں میں سے) کسی کا امام ہونا اس معنی میں ہے کہ اس کے لئے سلطنت تھی، اور اس کے ساتھ تلوار تھی، وہ والی بناتا تھا، اور معزول کرتا تھا، اور عطیہ دیتا تھا اور محروم کرتا تھا، اور حکم دیتا تھا اور اسے نافذ کرتا تھا، اور حدود قائم کرتا تھا، اور کفار سے جہاد کرتا تھا، اور اموال تقسیم کرتا تھا، مشہور و متواتر بات ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے اور یہی مطلب ہے یزید کے امام اور خلیفہ و سلطان ہونے کا، جس طرح نماز کا امام وہ شخص ہے جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، پس جب ہم کسی کو دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے تو یہ کہنا کہ وہ امام ہے، دیکھی جانی ہوئی بات ہوگی، اس میں مکابرہ و انکار ممکن نہیں ہوگا، اور اس کا نیک و بد ہونا مطیع یا عاصی ہونا یہ ایک دوسری بات ہے، اہل سنت جب یزید، یا عبد الملک یا منصور وغیر ہم میں سے کسی کی امامت و خلافت کا اعتقاد رکھتے ہیں تو ان کا یہ اعتقاد اسی اعتبار سے اور اسی معنی میں ہوتا ہے۔"

علامہ ابن تیمیہ کے اس صاف و صریح بیان کے باوجود مؤلف نے اپنی عادت کے مطابق اپنی کتاب ص ۲۲۹ اور ص ۲۳۰ پر علامہ ابن تیمیہ کے حوالہ سے اسی

عبارت کے درمیان سے ایک ٹکڑا لے لیا، اور آگے پیچھے حذف کر کے اپنے مطلب کے مطابق بات بنا فی چاہی ہے، اور ثابت کرنا چاہا ہے کہ بقول شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ یزید کی خلافت و امارت بھی ایسی ہی تھی جیسے حضرات ابو بکر و عمرؓ کی خلافت تھی حالانکہ امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ یزید کی خلافت و امارت اس معنی میں ہے کہ وہ صاحب اقتدار بن گیا تھا، اور عزل و نصب وغیرہ اس کے اختیار میں تھا جیسے حضرت ابو بکر و عمرؓ یا جیسے قیصر و کسریٰ صاحب اقتدار حکمران تھے، مگر اس کی امارت و خلافت راشدہ نہیں تھی، بلکہ وہ تو تیس سال کے بعد ختم ہو گئی، اور خلافت پر انار کی اور بادشاہت کا قبضہ ہو گیا۔

## تین المناک واقعات

واقعہ کربلا عراق واقعہ حرہ مدینہ منورہ اور محاصرہ مکہ مکرمہ

جب کوئی نئی حکومت و سلطنت قائم ہوتی ہے تو ابتداء میں اسے طرح طرح کے حالات و واقعات سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے قیام و استحکام کے سلسلے میں وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو اس کے بانیوں کے بس میں ہوتا ہے، اس دور میں زمانہ جنگ کی طرح اخلاق، قوانین، اور نتائج سے آنکھ بند کر کے صرف ایک ہی کام ہوتا ہے، یعنی ہر ممکن طریقہ سے نئی دولت کا قیام و استحکام۔

"خلافت راشدہ کے بعد خلافت اموی کا قیام بھی اسی اصول کے مطابق ہوا اور اس کے قائم کرنے والوں نے وہ سب کچھ کیا جو ایک نئی حکومت کے قیام کے لئے کرنا چاہیے، یزید، مروان، عبید اللہ بن زیاد، اور عمر بن سعد وغیرہ نے خلافت راشدہ کی بنیاد پر (ملک عضو) کو استوار و مستحکم کرنے کے لیے ان تمام ناسازگار حالات کا حم کر مقابلہ کیا جو خلافت راشدہ کے اثرات سے تھے، اور نئی حکومت کے قیام میں اڑے آڑے تھے، نیز انھوں نے ایسے حالات پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جو ایک نئی دولت کو پروان چڑھا سکیں، چونکہ اس سلسلہ میں نسلی عصبیت اور خاندانی طاقت و شوکت کا عنصر غالب تھا، اس لئے تمام کاموں میں ہر طرف سے آنکھ بند کر کے صرف غلبہ و استیلاء ہی مطمح نظر رہا، اور اس میں دین و اخلاق اور عقیدہ و عمل کی بلندیوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔"

ظاہر ہے کہ جس دولت کے قیام کے لئے یہ نظریہ کام کرتا ہو، اس کے نزدیک ہر طاقت خواہ وہ اپنے کیف و کم کے اعتبار سے کتنی ہی مقدس ہو، اور اپنے اصول اور مقصد کے لحاظ سے کتنی ہی بلند ہو، ناقابل معافی مجرم ہوگی، اور اس کا فرو کرنا ضروری ہوگا، چنانچہ دولت اموی کے بانیوں نے ایسے تمام حالات کا مقابلہ کر کے ان کا خاتمہ کیا، جو خواہ کسی نام پر تھے، مگر ان کے مقصد کے خلاف تھے،

خلافت اموی کے پہلے حکمران یزید کے دور (تین سال نو ماہ) میں اس قسم کے تین واقعات رونما ہوئے، جن میں اس حکومت کو کامیابی ہوئی، اور اس کے مقابلہ ناکام ہوئے، پہلا واقعہ حادثہ کربلا کا ہے جو یزید کے تخت نشین ہونے کے تھوڑے ہی دنوں بعد پیش آیا، اور دو واقعات اس کی زندگی کے آخری دور کے ہیں، ایک واقعہ حرہ مدینہ منورہ اور دوسرا محاصرہ مکہ مکرمہ، یہ تینوں حادثے دولت اموی کے ابتداء میں نہایت سنگین قسم کے واقع ہوئے، مگر چونکہ واقعہ کربلا کو ایک فرقہ نے اپنی دعوت کا محور بنایا، اور اسے خوب خوب شہرت دی، اس لئے وہ اتنا مشہور ہوا کہ بعد کے دونوں واقعات اس کے مقابلہ میں زیادہ مشہور نہ ہو سکے واقعہ کربلا اس شہرت میں افسانوی رنگ اختیار کر گیا، اور یاروں نے اسے حقیقت سے نکال کر اس درجہ افسانہ بنا دیا کہ اب بعض لوگ اسے تحقیق اور ریسرچ کے نام پر پیش کرتے ہیں،

تو اس کی واقعیت کو دوسرے رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دونوں حال میں اس کی افسانویت ختم نہیں ہو رہی ہے:-  
مؤلف کربلا کے واقعات کے سلسلے میں لکھتے ہیں:-



"حضرت حسینؑ کو اگر اس بات کا پورا یقین ہو جاتا۔ کہ کوفہ کے انتظامی حالات میں کیا انقلاب رونما ہو گیا ہے، وہ ادھر کا رخ نہ کرتے یا راستے ہی سے پلٹ جاتے، ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر سابق گورنر کوفہ جب باغیانہ سرگرمیوں کو کچلنے میں ناکام رہے تھے، عبید اللہ بن زیاد عامل بصرہ کو کوفہ کی حالت درست کرنے کے لیے بھیجا گیا،" (ص ۱۷۰)

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:-

"بیان ہو چکا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کے انتظام کے لئے عارضی طور سے بصرہ سے یہاں بھیجا گیا تھا،" (ص ۲۰۳)

اس جگہ نہایت معصومانہ انداز میں یہ نوٹ لکھا گیا ہے:-

"وضعی روایتوں میں یہ لغو بات بھی کھی گئی ہے کہ امیر المومنین یزید نے اپنے والد کے غلام سرجون رومی سے کوفیوں کی باغیانہ سرگرمیوں کا حال سن کر وہاں کے انتظام کا مشورہ کیا، اس نے عبید اللہ کے وہاں بھیجنے کا مشورہ دیا، یہ سرجون جس کا صحیح نام سر جس تھا، محکمہ مالیات کا کارکن تھا، شاید ایک عیسائی رومی سے اسلامی مملکت کے انتظامی امور میں مشورہ کرنا بطور تنقیص کے بیان ہو، امیر المومنین جو اپنے وہ سالہ زمانہ ولی عہدی میں مہمات جہاد کے علاوہ کاروبارِ خلافت کا کلی تجربہ رکھتے تھے، عمال خلافت کی اہلیت اور کارکردگی کی قابلیت سے بذات خود واقف تھے ان کو محکمہ مالیات کے عیسائی کارکن سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، وہ اگر مشورہ

کرتے تو حضرت ضحاک بن قیسؓ الفہری جیسے صحابی و عامل دمشق جیسے اعیان سے کرتے نہ کہ صیغہ مالیات کے عیسائی کارکن سے" (ص ۲۰۳)

یہاں مولف پر بری طرح ذہنی دباؤ پڑ رہا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اپنی اس بات میں وزن نہیں محسوس کر رہے ہیں حالانکہ واقعہ کربلا کا اصل تخیل اسی نقطہ سے شروع ہوتا ہے، اور سرجون نصرانی کی رائے کے مطابق کوفہ کے انتظامات میں وہ سخت گیر قسم کا انقلاب رونما ہوا جس نے حضرت حسینؓ اور ان کے خاندان کی آخری پیش کش کو ٹھکرا کر قتل و غارت کا مظاہرہ کیا، اور وہ سب کچھ ہوا جو ایک سخت ترین سیاست کا کام ہو سکتا ہے، اگر سرجون نصرانی کے مشورہ کے مطابق عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا انتظام نہ دیا گیا ہوتا، اور کوئی صلح پسند اور نرم دل آدمی وہاں کا گورنر بنا ہوتا تو شاید یہ حادثہ پیش نہ آتا، اور حضرت حسینؓ کی پیش کش کا خوش گوار اثر ظاہر ہوتا، اور حضرت حسنؓ کی طرح حضرت حسینؓ بھی خون خرابہ سے بچنے کی راہ نکالتے۔

مناسب ہے کہ اس مقام پر مولف اور ان کے آزاد محققین و مستشرقین نے جو بے لاگ تحقیق کی ہے، اور مولف اسے واقعہ کربلا کے لئے آخری حجت بتا رہے ہیں۔ ہم اس کا پس منظر ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیں، تاکہ اس سلسلہ کی ساری مسیحی تحقیق کی نوعیت ذہن میں آجائے، اور معلوم ہو جائے کہ مسیحی مورخین اور مستشرقین شامی فوجوں کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے حضرت حسینؓ اور حسینی قافلہ ہی کو کیوں مجرم و خطا کار قرار دیتے ہیں صورت یہ ہے کہ اسلام سے پہلے شام کا پورا علاقہ رومی امپائر کے زیر نگیں تھا، اور اس کے حکام شام میں تھے، خود شام کے غسانہ

(شاہانِ عثمان) رومی شہنشاہیت کی نمائندگی کرتے تھے، اور چونکہ شام اور بیت المقدس کا سارا علاقہ عیسائیوں کے لئے مقدس تھا، اس لئے یورپ کی تمام مسیحی طاقتیں وہاں نظر جمائے رکھتی تھیں، اور وہ مسیحیوں کا دینی اور قومی ہی مرکز نہ تھا، بلکہ ان کی سیاست و حکومت اور تہذیب و تمدن کا بھی مشرقی گہوارہ تھا۔

خلافت راشدہ میں جب شام کا علاقہ فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں کا انتظام حضرت معاویہؓ کے سپرد کیا، جو اسلام کی سیاسی دور اندیشی سے رومی اور مسیحی سیاست کا کاٹ کر سکتے تھے، چنانچہ حضرت معاویہؓ نے رومیوں کا پورا مقابلہ کیا، عہد فاروقی میں ان سے بحری جنگ کی اجازت طلب کی اور عہد عثمانی میں قبرص وغیرہ پر چڑھائی کر کے بار بار فتح حاصل کی، اور پھر جب شام پر ان کا اقتدار و قبضہ ہوا تو رومی ممالک پر مسلسل حملے کئے اور قسطنطنیہ تک ان کی فوجی طاقت کو سخت دھکا پہونچایا اور شام کی نصرانی تہذیب کو اسلامی ثقافت سے بدل دیا، حضرت معاویہؓ رومیوں کے معاملہ میں نہایت سخت تھے، اور پوری طاقت سے ان کی حرکت کا مقابلہ کرتے رہے، چنانچہ ایک مرتبہ جب حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ اندورنی مشاجرات میں تھے، شاہِ روم نے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا، تو حضرت معاویہؓ کو بڑھی تشویش ہوئی، اور آپ نے نہایت سخت جواب دیا، اور لکھا کہ اگر تو ہمارے آپس کے مشاجرات سے فائدہ اٹھا کر ہمارے ملک پر حملہ آور ہوگا تو میں اور علیؓ دونوں ساتھ مل کر تیرا مقابلہ کریں گے، اور میں آگے آگے ہوں گا،

مگر افسوس کہ حضرت معاویہؓ کی آنکھ بند ہوتے ہی شام کی طرف سے ہرقلیت اور

رومی طرز سیاست اسلام پر حملہ آور ہوئی اور ان اخیلہ کے اثر و اقتدار کے دوش پر اسے پروان چڑھنے کا زریں موقع ہاتھ آ گیا، جو بنو امیہ کی نئی حکومت کے قیام و بقا کے لئے یزید، مروان، عبید اللہ بن زیاد، عمر بن سعد کی طرح مسیحی سیاست دانوں کو بھی کام میں لائے جس کا نہایت مکروہ ظہور واقعہ کربلا کی شکل میں ہوا اور مسیحیت نے وہ کام کیا کہ آج تک اسلامی دنیا دست و گریبان نظر آرہی ہے۔ بنو امیہ کا مستقر شام کا شہر دمشق تھا، جو پہلے سے شامی باز نظیسی تہذیب و فکر کا مرکز اور مسیحیت کا گہوارہ تھا، اور یہاں رومی طرز حکومت کی حکمرانی تھی، ہنگامی ضرورت کی وجہ سے حضرت معاویہؓ نے اپنے زمانہ میں دیوان خراج میں کام کرنے کے لئے بعض نصرانی منصرموں اور کاتبوں کی خدمات حاصل کیں، چنانچہ شہر حمص کے خراج کی وصولی کے لئے ابن اثال نصرانی کو رکھا، نیز سرجون بن منصور رومی مسیحی حضرت معاویہؓ کے دیوان خراج کا کاتب تھا یہ شخص حضرت معاویہ، یزید، معاویہ بن یزید، مروان بن حکم، اور عبد الملک بن مروان کے زمانہ تک شام کے دیوان خراج کا منتظم اعلیٰ رہا، (کتاب الوزرا جہشیری) اور اس کے ماتحت نصرانی عملہ کی ایک بڑی جماعت تھی، اس لئے اس کا اثر و سوخ بڑھا اور یزید کا مشیر بھی بن گیا، اور وہ اپنے عمال و امراء کے عزل و نصب میں اس سے مشورہ کرنے لگا، یہ قدیم رومی حکومت کا زمانہ دیکھنے والا کاتب اپنے مذہب پر قائم تھا، اور بظاہر مسلمان حکومت کا ملازم بن کر باطن روم کی مسیحی حکومت کا طرفدار تھا، اور ان رومی ممالک پر اسلامی فتوحات سے راضی نہ تھا، ایسا آدمی کب صحیح مشورہ دے سکتا تھا اور اسلامی معاملات خصوصاً مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی میں امن و صلح کی بات کیسے کر

سکتا تھا، وہ تولڈاؤ اور حکومت کرو کی قدیم رومی پالیسی کا آدمی تھا، چنانچہ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لئے ایسے موقع کو غنیمت سمجھا، جس میں ایک طرف عرب کی سب سے بڑی طاقت ( بنو امیہ ) ہو، اور دوسری طرف خاندان رسالت اور اس کے طرفدار دینسی جذبہ کے ساتھ ہوں، اور جب یزید نے اس سے مشورہ کیا تو اس نے ایسا مشورہ دیا جو اس کی مسیحی پالیسی کے عین مناسب تھا، اور جس کی ایک بے دین نصرانی سے توقع تھی، علامہ جیشیاری کی مشورہ و معتبر کتاب الوزراء والکتاب میں ہے:-

ولما اتصل بیزید مسیر الحسین رضی اللہ عنہ الی الکوفہ  
شاوہ سرجون بن منصور فیمن یولی العراق" ( کتاب الوزراء )  
(والکتاب طبع مصر ص ۳۱)

(ترجمہ) "اور جب حسین رضی اللہ عنہ کے کوفہ پہنچ جانے کی خبر یزید کے پاس پہنچی تو اس نے سرجون بن منصور رومی سے مشورہ کیا، کہ کس شخص کو عراق کا گورنر بنائے۔"

اس تصریح کے بعد یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ حادثہ کربلا میں یزید نے کس فکر و ذہن کے مشورہ پر عمل کیا، اور اسے کس نے ایسے آدمی کو عراق کی گورنری کا مشورہ دیا جو پہلے ہی سے عصبیت و طرفداری میں مشہور تھا، اور اس معاملہ میں کسی شخصیت یا جماعت یا دیانت کی پروا نہیں کرتا تھا، اگر نصرانیت کی یہ چال کامیاب نہ ہو گئی ہوتی تو شاید یہ سانحہ پیش نہ آتا، اور آج تک عیسائی مصنفین اور مسیحی مورخین

حضرت حسینؑ اور ان کے ہمراہیوں کو غلط کار و خطا کار ثابت کر کے  
یہ موم کی حکومت اور اس کے عمال کو نہ سراہتے، جس نے  
سرجون بن منصور نصرانی اور اس جیسے دوسرے اپنے عیسائی اہل کاروں کے مشورہ سے  
یہ کام کیا، مغربی محققوں کی بے لاگ تحقیق اسی نصرانی مشورہ کی تصحیح و تصدیق  
کے لئے ہے جو اسلام میں ہمیشہ کے لئے افتراق و انشقاق پیدا کرنے کی غرض سے  
دیا گیا تھا، اموی دربار پر نصرانیوں کے تسلط کو عیسائی مورخین و مستشرقین نہایت  
فخر و مباہات اور اہمیت کے ساتھ بیان کر کے اسلامی افکار و خیالات پر مسیحی علم و فلسفہ  
کے اثرات کو ثابت کرتے ہیں، چنانچہ ایک مسیحی مستشرق جان کمر نے  
لکھا ہے:-

"عیش و عشرت کی مشغولیت کی بنا پر اکثر اموی خلفاء نے عیسائیوں اور دیگر غیر  
مسلم اقوام کے ساتھ بہت زیادہ رواداری برتی، نہ صرف یہ کہ عیسائیوں کو خلفاء کے  
دربار میں آزادی کے ساتھ داخلہ کی اجازت تھی، بلکہ انہیں اکثر اہم ترین ذمہ داری کے  
عہدے بھی دیئے جاتے تھے، سرجون جو یوحنا کے دشمنی کا باپ تھا عبد الملک کے  
دربار میں مشیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز تھا، اور اس کی وفات پر یہ عہدہ اس کے  
بیٹے کو تفویض ہوا، یہاں تک کہ دربار کا ملک اشعراء ایک عیسائی اخلل ہی تھا،  
عیسائیوں کی حالت ایسی اچھی تھی کہ انہیں مساجد میں بے روک ٹوک جانے کی اور عام  
مجموعوں میں طلائی صلیب کے ساتھ چلنے پھرنے کی اجازت تھی۔" الخ  
نکسن نے اس کی مزید توضیح یوں بیان کی ہے:-

"عیسائیوں کو اموی خلفاء کے دربار میں آزادی کے ساتھ نقل و حرکت کی اجازت تھی، نصرانی شاعر اخطل دربار کا ملک الشعراء تھا، اور اس کے ہم مذہب حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، مسلمان اور عیسائی دوستانہ گفتگو نیز مذہبی مناظروں میں تبادلہ خیالات کیا کرتے تھے،" (۱)

جس مسیحی یلغار کو بنو امیہ کے ابتدائی جوشیلے نو خیزوں نے دعوت دی تھی، اور یزیدی اور مروانی دور میں جس نے اسلام دشمنی کے بڑے بڑے کام کئے اور حکمرانوں کو غلط مشورے دے کر بدلہ لیا، بعد کے اموی خلفاء نے اس کا سدباب کیا، اور یونانی جدیدیات و مناظرہ اور باز نطیسی افکار و خیالات اور رومی سیاست و انتظام کے برخلاف اسلامی علوم و فنون اور عربی زندگی کو فروغ دیا، اور حتیٰ الامکان عجمی اثرات سے اسلامی تعلیمات اور عربی طبائع کو دور رکھا، اسی لئے بنو امیہ اپنے اوصاف میں بنو عباسیہ سے ممتاز مانے جاتے ہیں، حضرت معاویہؓ کے بعد نصرانیت اور رومیّت کی جو روچل پڑی تھی، اگر بعد کے دور اندیش اموی خلفاء اس کا مقابلہ کر کے شکست نہ دیتے تو یہ نصاریٰ اسی زمانہ میں اسلام کی سیاسی قوت کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا دینی اور فکری سرمایہ بھی ختم کر دیتے ہوتے۔

واقعات کربلا کے سلسلے میں بڑھی سنجیدگی سے ان حقائق کو پیش نظر رکھئے، تاکہ اس پس منظر سے واقعات کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور مولف کی پیدا کردہ الجھنیں دور ہوں،

۱- ہم نے یہ اقتباسات جناب محترم شبیر احمد خاں صاحب غوری، ایم، اے ایل، ایل بی بی بی ٹی رجسٹرار امتحانات یو پی کے ایک مقالہ مندرجہ برہان دہلی دسمبر ۱۹۵۹ سے لئے ہیں،

## مؤلف اور ان کے نصرانی محققین کی تحقیق

مؤلف ”خلافت معاویہؓ و یزیدؓ“ کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے، کہ انہوں نے جس واقعہ کو الٹ دینے کے لئے یہ کتاب لکھی، اور جس کے لئے ان کو سب کچھ کرنا پڑا، اس میں ایک دلیل بھی کسی ثقہ یا غیر ثقہ اسلامی مورخ کے پاس نہ پاسکے، اور اپنے مفروضہ کے تمام تردلائل ان اسلام کے دشمن مسیحیوں کی کتابوں سے بیان کئے جن کے آباء و اجداد نے یزید کے ذریعہ یہ کھیل کھیلا تھا، اور جن کو شاباش دینے کے لئے آج تک سسکی مورخ حضرت حسینؓ کو غلط کار بتاتے ہیں،

واقعہ کربلا کا سارا الزام مؤلف نے قافلہ حسینی پر رکھا ہے، اور ان ہی کو حملہ آور قرار دے کر ان کی موت و شہادت کو ان کی ناعاقبت اندیشی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو، عمر بن سعد کی مساعی جمیلہ کو سرا بنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے:-

”اس مطالبہ نے براور ان مسلم بن عقیل کو جو پہلے ہی سے جوش انتقام سے مغلوب ہو رہے تھے، مشتعل کر دیا، نیز ان کو فیوں کو بھی جو حسینی قافلہ میں شامل تھے، اور جنہیں صلح و مصالحت میں اپنی موت نظر آرہی تھی، یہ موقع ہاتھ آگیا، انہوں نے اپنے پیش روؤں کی تقلید میں، جنہوں نے جمل کی ہوتی ہوئی صلح کو جنگ میں بدل دیا تھا، اس اشتعال کو اس شدت سے بھرکا دیا کہ انتہائی ناعاقبت اندیشی سے فوجی دستہ کے سپاہیوں پر جو ہتھیار رکھوانے کی غرض سے گھیرا ڈالے ہوئے تھے، اچانک قاتلانہ حملہ کر دیا گیا، انہوں نے اپنے سپاہیوں کو جوانی حملہ یا جارحانہ اقدام سے روکے رکھا مدافعا نہ پہلو سے آگے نہ بڑھنے دیا“ الخ (ص ۲۱۹)



اس مفروضہ کی دلیل آپ کو کسی اسلامی مورخ و مصنف کے یہاں نہ مل سکی تو آپ نے حسب عادت ان الفاظ میں اسلام کے دشمن اور شہرت زبردینے والے مسیحی مورخوں کا حوالہ دیا:-

"آزاد محققین و مستشرقین نے بے لاگ تحقیق سے اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ حکومت کے فوجیوں پر اس طرح اچانک حملہ سے یہ حادثہ مزوں پیش آیا، انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے مقالہ نویس نے (ص ۲۱۱) کہا ہے کہ-----"

اتنے بڑے دعویٰ کے لئے کسی بھی مسلمان مصنف کا قول نہ نقل کیا اور مسیحیوں کی اسلامی تاریخ نوازی پر اعتماد کرنا مولف "خلافت معاویہؓ ویزید" جیسے محقق کا کام تو ہو سکتا ہے، مگر کوئی غیرت مند مسلمان تو اسے گوارا نہیں کر سکتا اور نہ ہم ان کی اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں، مسیحیوں کا قول ہمارے لئے ہر گز حجت نہیں ہے آپ اور آپ کے معتمد مستشرقین کی تحقیق کی رو سے سرکاری فوج نے کچھ نہیں کیا، بلکہ برادران مسلم اور کوفیوں نے امن پسند، صلح جو بہادروں پر خود حملہ کر دیا، پھر بھی اس پر عمر بن سعد کی مساعی جمیلہ سے اس کے فوجیوں نے جوابی کارروائی نہیں کی، بلکہ مدافعت کے لئے آگے بڑھنے کی جرات بھی نہ کی، مگر حسینی قافلہ کے ناعاقبت اندیش آگے بڑھتے رہے، اور بھیڑ کی طرح اپنے کو کٹواتے رہے، حتیٰ کہ حضرت حسینؓ نے بھی یہی کام کیا اور حادثہ کو بلاواقع ہو گیا، وہ بھی صرف آدھ گھنٹے تک جاری رہ کر ختم ہو گیا، مولف فرماتے ہیں:-

"برادران مسلم اور ساٹھ پینسٹھ کوفیوں کی ناعاقبت اندیشا نہ طور سے فوجی دستہ کے

سپاہیوں پر اچانک قاتلانہ حملہ کر دینے سے یہ واقعہ محزون یکایک اور غیر متوقع پیش آ کر گھنٹہ آدھ گھنٹہ میں ختم ہو گیا۔" (ص ۲۲۳)

بھلا کوئی سمجھ دار آدمی باور کر سکتا ہے کہ ۶۰، ۶۵ کو فی اور خاندان حسینؑ کے چند افراد ایسی فوج پر حملہ کر سکتے ہیں، جو بقول مؤلف جنگ آزمودہ اور حرب و ضرب میں کافی شہرت رکھنے والی تھی، اس حال میں کہ بقول مؤلف یہ لوگ جنگ آزمودہ بھی نہیں تھے، اس کے باوجود ان ناناقتب اندیش نا تجربہ کار قافلہ حسینی نے ان تجربہ کار اور جنگ آزمودہ فوجیوں کے استی بہادروں کو اسی وقت مار ڈالا، اور خود ۲۷ کی تعداد میں مقتول ہوئے،

مؤلف کا کہنا ہے کہ،

"لیکن تلوار چل جانے پر بھی اپنے سپاہیوں کو مدافعت کے پہلو پر (عمر بن سعد نے) قائم رکھا، جس کا بین ثبوت خود ان ہی راویوں کے بیان سے ملتا ہے، جہاں انہوں نے طرفین کے مقتولین کی تعداد بیان کی ہے کہ حسینی قافلہ کے بہتر مقتول ہوئے، جن میں اکثر و بیشتر جنگ آزمودہ نہ تھے، اور فوجی دستے کے جنگ آزمودہ سپاہی اٹھاسی مارے گئے گویا سولہ فوجی زیادہ کٹوا کر بھی وہ حضرت حسینؑ کی جان بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے؟" (ص ۲۱۳)

شاید دنیا کی تاریخ جنگ میں امیر عمر بن سعد کی فوج سے زیادہ امن پسند، صلح جو فوج نہیں گذری ہوگی، اور قافلہ حسینی سے زیادہ ناناقتب اندیش حملہ آور دنیا میں نہیں گذرے ہوں گے، اگر مؤلف کا یہ زعم کسی درجہ میں صحیح مان لیا جائے تو کیا

وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ فوجیں کس کی تھیں، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں کشتوں کے پشتے لگا دیے تھے؛ جبل ابو قیس پر منجنيق نصب کر کے بیت اللہ پر گولہ باری کی، غلاف کعبہ کو آگ لگائی گئی، اور اللہ کے حرم کی حرمت کو ختم کر کے انسانی خون کی ہولی کھیلی گئی کیا مولف بتا سکتے ہیں کہ وہ کون فوجی تھے جنہوں نے واقعہ حرہ برپا کر کے مدینۃ الرسول ﷺ کو لوٹا، تین رات دن تک مدینہ منورہ کو مہاجرت کر دیا تھا، اور انصار و مہاجرین کے خون کی نہریں جاری کی تھیں، انسانی عزت و عصمت پر ڈاکے ڈالے تھے، اور اللہ کے رسول کی مسجد کو تین دن تک بلا اذان و اقامت کے خالی رکھا تھا، یہ کون سورما تھے، نیز اس طرح کے متعدد خونی معرکوں میں کون لوگ تھے، جنہوں نے بہادری و جوانمردی دکھائی تھی؟ کر بلا کا صرف ایک ہی واقعہ ان کا کارنامہ نہیں ہے جسے مولف مسیحی مورخوں کی مدد سے چھپانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان امن کی فوجوں کے یہ بڑے بڑے کارنامے کہاں جائیں گے، جو آپ حادثہ کر بلا کے معمولی واقعہ کو چھپا کر ان کو خدا ترس اور امن پسند ثابت کرتے ہیں، جن بہادروں نے حرم الہی کو لوٹا، اور حرم نبوی کو قتل و غارت کا بازار بنایا، اور خون ریزی اور خون آشامی کا بدترین ثبوت پیش کیا، ان کے لئے تو یہ بات بہت معمولی تھی، کہ قافلہ حسینی کے مسٹی بھر انسانوں کو دم کے دم میں بھون کر رکھ دیں، اور ان چند جنگ نازم و مردوں، بچوں، اور عورتوں کو چشم زدن میں چٹ کر جائیں، اور مردانگی، اور جوانمردی کا وہ ثبوت پیش کریں جو کائنات کی تاریخ جنگ میں اپنی مثال آپ ہو، چنانچہ ایسا ہی ہوا، جیسا کہ آپ ہی کے بیان کی روشنی میں ہم بتاتے ہیں سنئے،

## شمر کی رپورٹ

مؤلف کا ارشاد ہے۔

"حالانکہ طبری و دیگر مورخین نے ابو مخنف و غیرہ کی روایتوں کے مطابق بیان کیا ہے کہ یہ حادثہ بس اتنی ہی دیر میں ختم ہو گیا جتنی دیر قیلوہ میں آٹکھ جھپک جانے، یعنی کم و بیش آدھ گھنٹے میں۔" (صفحہ ۲۲۳)

مؤلف نے جیسا کہ بار بار اپنی کتاب میں کہا ہے، اس جگہ بھی پڑھنے والوں کو یقین دلانے کی کوشش کی ہے، کہ یہ طبری اور دیگر مورخین کا بیان ہے، حالانکہ ان بے چاروں نے اپنی کتابوں میں شمر بن ذی الجوشن کی وہ تقریر نقل کی ہے، جو اس نے حادثہ کربلا کے بعد یزید کے سامنے کی تھی، اور اس میں یزیدی فوج کی بہادری اور جنگی مہارت کو فخر یہ بیان کیا تھا، جیسا کہ فاتح فوجوں کی رپورٹیں اپنی حکومتوں کے سامنے ہوا کرتی ہیں، مگر مؤلف نے اسے مورخوں کا قول بنا دینے کی کوشش کی یہاں پر ہم قدیم ترین مؤرخ ابو حنیفہ دینوی کی کتاب "الاخبار الطوال" سے شمر کی پوری رپورٹ درج کرتے ہیں، جسے مؤلف بھی ثقہ تسلیم کرتے ہیں،

مؤرخ ابو حنیفہ دینوی لکھتے ہیں، کہ واقعہ کربلا کے بعد ابن زیاد نے حضرت حسینؑ کے صاحبزادے علی بن حسین کو اور ان کے ہمراہ جو عورتیں تھیں، ان کو یزید کے پاس زجر بن قیس او محض بن ثعلبہ اور شمر بن ذی الجوشن کے ساتھ روانہ کیا، یہ لوگ دمشق پہنچ کر یزید کے دربار میں داخل ہوئے، ان ہی کے ساتھ حضرت حسینؑ کا سر بھی داخل کیا گیا، اور یزید کے سامنے ڈال دیا گیا، پھر شمر ذی الجوشن نے گفتگو کی،

اور کہا،

یا امیر المومنین ورد علينا هذا فی ثمانية عشر رجلا من اهل  
 بيته وستين رجلا من شيعته فسرنا اليهم فسالناهم النزول على حكم  
 اميرنا عبيد الله بن زياد او القتال فغذونا عليهم عند شروق الشمس  
 فأحطنا بهم من كل جنب فلما اخذت السيوف منهم ماخذها جعلوا  
 يلوذون الى غير وزر لوزان الحمام من الصقور فما كان الامقدار  
 خرز خراز اونوم قائل حتى اتينا في اخرهم فهاتيك اجسادهم مجردة  
 وثيابهم مملئة وخذودهم معفرة تسقى عليهم الريح زاو درهم العقبان ووفودهم افرخم  
 (صف ۲۵۷، ۲۵۸)

اے امیر المومنین! یہ شخص (حسین) اپنے اہل بیت سے اٹھارہ آدمیوں کو اور  
 اپنے مددگار ان (شیعہ) سے ساٹھ آدمیوں کو لے کر ہمارے پاس آیا، تو ہم ان سب کی  
 طرف چلے، اور ان سے کہا کہ یا تو ہمارے امیر عبيد اللہ بن زياد کے فیصلے پر راضی ہو  
 جاؤ یا جنگ کرو، پھر صبح کو آفتاب کے نکلنے نکلنے، ہم نے ان پر دھاوا بول دیا، اور ان کو  
 ہر جانب سے گھیرے میں لے لیا، اور ہماری تلواروں نے ان سے اپنی جگہ پکڑنی  
 شروع کی، تو وہ بے پناہ کی پناہ ڈھونڈ کر ادھر ادھر ہونے لگے، جیسے کبوتر، باز سے پناہ  
 ڈھونڈتے ہیں، پس صرف اتنی مقدار گدزی جتنی میں موجی جوتا درست کر لے، یا  
 قیلوہ کرنے والے کو نیند آجائے، کہ ہم نے ان کا صفایا کر دیا، دیکھئے، یہ ان کے ننگے  
 جسم ہیں ریگ میں اٹے ہوئے کپڑے ہیں، اور دھول میں پڑے ہوئے رخسار ہیں،  
 ہوا ان پر چل رہی ہے ان کی زیارت کرنے والے عقاب ہیں، اور ان کے پاس آنے  
 والے وفود گدھ ہیں۔"

مردان کارزار تو یزید کے سامنے اپنی جوان مردی اور بہادری کی روئداد ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں، اور آپ ہیں کہ ان کو بزدل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے خیال میں آپ کی یہ کوشش نصرانیت کی تائید کے باوجود ہر طرح بے کار ہے،

مؤلف نے کمال بے انصافی کا ثبوت یہ بھی دیا ہے کہ حادثہ کربلا میں قافلہ حسینی اور حضرت حسینؑ کو نایاقبت اندیشانہ طور پر حملہ آور قرار دیتے ہوئے عمر بن سعد اور اس کی فوجوں کی معصومیت اور امن پسندی و صلح جوئی کو اس قدر بلند کیا ہے کہ مساعی صلح و مصالحت میں عمر بن سعد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑھا دیا ہے، اور اس قسم کا مقابلہ و موازنہ کر کے اپنی بدنیتی کا کھلا ثبوت پیش کیا ہے، ملاحظہ ہو،

"عمر بن سعد اس موقع پر اس سے بھی زیادہ بے بس ہو گئے، جیسے کہ جنگ جمل کے موقع پر حضرت علیؑ تھے، کہ قرآن دکھا دکھا کر فریقین کو برادر کشی سے روکتے رہے مگر بے سود" (ص ۲۲۰)

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت علیؑ نے جنگ جمل کے موقع پر فریقین میں صلح و مصالحت کرانے کی کوشش کی، مگر عمر بن سعد کی کوشش صلح حضرت علیؑ کی کوشش سے زیادہ تھی، اور قافلہ حسینی کی ضد اور ہٹ دھرمی سے عمر بن سعد کو اس سے زیادہ بے بس ہو جانا پڑا جس قدر کہ حضرت علیؑ جنگ جمل میں فریقین کی ضد سے بے بس ہو گئے تھے،

ہم نے مانا کہ واقعہ کربلا کی روایات میں مبالغہ آمیزی ہے، اور شیعوں نے اسے

خوب خوب رنگ دیا ہے، بہت سے غیر شیعہ لوگوں نے محبت اہل بیت یا بنو امیہ کی دشمنی میں اس واقعہ کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تمام مسلمان مورخوں اور سوانح نگاروں کو کذاب و مضمری قرار دے کر نصاریٰ کو اس معاملہ میں ثقہ، معتبر قرار دیا جائے، اور ان دشمنان اسلام کی بکواسوں کو واقعہ کر بلا کے لئے معیار بنایا جائے؛

مؤلف کا سب سے زیادہ کھڑور پہلو یہی ہے، کہ انہوں نے واقعہ کر بلا کو اپنے منشا کے مطابق بنانے کے لئے صرف مغربی مسیحیوں کو حکم اور فصل مانا ہے، ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے ان کا فیصلہ ان معاملات میں کیا، اسلام کے کسی معاملہ میں ہرگز ہرگز تسلیم نہیں ہے، جسے ہمارے مورخین محدثین اور علماء بقول مؤلف صحیح بیان نہ کر سکے، اسے متعصب عیسائی مورخ اور مقالہ نگار صحیح طور پر کیا بیان کر سکتے ہیں، اور ان کو معلومات کہاں سے فراہم ہو سکتی ہے؛

### حضرت ابن عمر اور قاتلین حسینؑ

مؤلف کے منعمومات و مفروضات کا تقاضا تو یہ ہے کہ حادثہ کر بلا کے بعد وہ صحابہ جن کو یزید کا ہم نوا اور حضرت حسین کا مخالف سمجھتے ہیں، وہ حضرت حسین اور ان کے خاندان کے قتل کو ان حضرات کی غلطی کے رنگ میں پیش کریں اور اسے ان کے خروج کی سزا قرار دے کر یزیدی فوجوں کی امن پسندی و شرافت اور حسن عمل کی تعریف کریں، اور موقع بہ موقع ان کو شاباش دیتے ہوئے حضرت حسینؑ کی غلط

روش پر افسوس کر کے، ان ہی کو ان کے قتل کا سبب ثابت کریں، مگر واقعہ کربلا کے بعد فضا اس کے برعکس معلوم ہوتی ہے، اور اجلہ صحابہ جن کو یزید کا طرفدار بتایا جا رہا ہے، قاتلین حسینؑ کو مجرم گردانتے ہیں اور ان کی دیانت و تقویٰ کی باتوں کو ریاء و نمائش پر محمول کرتے ہیں، اور صاف لفظوں میں موسم حج کے لاکھوں کے مجمع میں ان کو قاتلین حسینؑ کہتے ہیں اور سارا قصور ان کے سر ڈالتے ہیں چنانچہ "بخاری باب مناقب الحسن والحسین میں" ہے کہ عراق کے ایک شخص نے آکر حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے سوال کیا کہ کسی محرم کا بجالت احرام مکھی مارنا کیسا ہے اس پر حضرت ابن عمر نے فرمایا:-

فقال اهل العراق يستلوني عن قتل الذباب ، وقد قتلوا ابن بنت رسول الله وقال النبي هماريحانتا ي من الدنيا. (بخاری)

(ترجمہ) "عراق والے مجھ سے مکھی مارنے کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں حالانکہ ان ہی لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی کے بیٹے کو قتل کیا ہے، اور نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ وہ دونوں (حسنؑ و حسینؑ) میرے لئے دنیا سے خوشبو ہیں"

یہ عراق کے لوگ کس کے آدمی تھے، یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کہاں کا گورنر اپنے مسیحی رومی سرجون بن منصور مشیر کے مشورہ سے بنایا تھا؟ اور یہ حضرت ابن عمرؓ کس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کل کے قاتلین حسینؑ آج مکھی مارنے کا مسئلہ دریافت کرتے ہیں، اور اپنے کو نیکوں کے نیک اور مستقیوں کے مستقی سمجھنے اور سمجھانے کی ترکیب نکال رہے ہیں۔



مؤلف اپنے مسیحی متعصب مستشرقوں اور مورخوں کی تحقیق پر اعتماد کر کے جو چاہیں ثابت کریں کرائیں، مگر ہم امام بخاری اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو معتبر و معتمد سمجھتے ہیں، اور ان کے مقابلہ میں نصرانی محققوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔

### راس الحسینؓ

حضرت حسینؓ کا سر آپ کے نزدیک نہ کاٹا گیا، نہ کہیں اسے لے جایا گیا، اور اس کی روایتیں وضعی ہیں، ان کا کسی سے تعلق نہیں ہے، امام بخاری نے باب مناقب الحسن والحسینؓ میں یہ روایت درج فرمائی ہے۔

عن انس بن مالک قال آتی عبید اللہ بن زیاد براس الحسین فجعل فی طشت فجعل ینکت وقال فی حسنه شیاً فقال انس کان اشبههم برسول اللہ وکان مخضوباً بالوشمة (بخاری)

(ترجمہ) "حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسینؓ کا سر لایا گیا اور ایک طشت میں رکھا گیا، اور عبید اللہ بن زیاد اسے لکڑی یا کسی چیز سے مارنے لگا، اور اس نے ان کے حسن و خوبی کے بارے میں کچھ نامناسب بات کہی تو حضرت انسؓ نے انہما کہ حسینؓ رسول اللہ ﷺ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اور ان کا سر اس وقت وشمہ سے خضاب کیا ہوا تھا"

اگر امام حسینؓ کا سر نہیں کاٹا گیا، اور کربلا سے دوسری جگہ نہیں لے جایا گیا تو کیا کربلا اور کوفہ جہاں عبید اللہ بن زیاد کی گورنری تھی، دونوں ایک ہی جگہ کا نام ہے اور طشت میں کیا رکھا گیا تھا، یہ درست ہے کہ سر ایک جگہ ہی دفن ہوا، مگر تن سے جدا

ہوایا نہیں؟ اگر ہمت ہے تو بخاری کی اس حدیث کو بھی موضوع قرار دیجئے، آپ نے اس موقع پر علامہ ابن کثیرؒ کو حجت بنا کر اپنے مطلب کے لئے استعمال کیا ہے (صفحہ ۲۶۲، ۲۶۵) حالانکہ آپ ان کو بھی ان ہی مورخین میں شامل کر چکے ہیں، جو کذاب و مفتری ہیں، فرمائیے اب تاریخ ابن کثیرؒ کی روایت معتبر ہوگی، یا بخاری شریف کی روایت؟

### واقعہ حرہ مدینہ منورہ

یزید کے ان کارناموں میں جن کا تعلق اس کی ذات سے نہیں، بلکہ اس کی خلافت و امارت اور عامۃ المسلمین سے ہے، دو کام نہایت مشہور ہیں، ایک، حادثہ کر بلا، اور دوسرا حادثہ حرہ، یہ المیہ کر بلا کے بعد نہایت ہی بری صورت میں پیش آیا، اور نقصان کے اعتبار سے بہت ہی مکروہ ثابت ہوا، مؤلف نے (صفحہ ۲۶۹، ۲۷۰) تک حرہ کے واقعہ کو نہایت اختصار کے ساتھ اپنے خاص رنگ میں بیان کیا ہے، اور واقعہ کر بلا کی طرح یہاں بھی ان کا یہ کمزور پہلو نمایاں رہا ہے کہ یزید اور اس کے کارناموں کو صحیح ثابت کرنے کے لئے اجتہاد صحابہ اور پاک نیت بزرگوں پر نہایت رکیک حملے کئے ہیں، اور ان کی برائی پر یزید کی نیکی کی بنیاد رکھی ہے، ملاحظہ ہو فتنہ حرہ کے عنوان کے بعد لکھتے ہیں:-

"حادثہ کر بلا کے بعد تین سال کے عرصہ تک کسی قسم کا کوئی ہنگامہ یا شورش نہیں ہوئی، ہر طرف امن و امان اور خوش حالی (صفحہ ۲۶۸) کا دور دورہ رہا، تمام امور مملکت بحسن و خوبی انجام پاتے رہے، صرف ایک کانٹا

تھا، اور وہ حضرت ابن زبیرؓ کا مکہ معظمہ میں قیام، اور حکومت وقت کے خلاف پروپگینڈا۔ اس پروپگینڈے میں بھی خود انہوں نے یا ان کے ایجنٹوں نے کربلا کے فرضی مظالم کا اشارہ یا کنایہً مطلق ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس وقت تک خیالی مظالم کی روایتیں یا داستانیں وضع نہیں ہوئی تھیں، یہ حضرات تو خلیفہ وقت کے ذاتی مشابہ و معائب جو محض بے بنیاد تھے، بیان کر کے ناواقف مسلمانوں کو برا فروختہ کر رہے تھے، پروپگینڈا جب حد سے بڑھنے لگا تو مدینہ ہی کے بزرگوں نے جو امیر المؤمنین کے ذاتی حالات سے کما حقہ واقفیت رکھتے تھے، ان بہتانوں کی تردیدیں کیں، بہتان تراشنے والوں کو جھڑکانے سے بحثیں کیں، سمجھایا بجھایا، (ص ۲۶۹)

اس تہیدی تحریر میں مؤلف نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ اور ان کے طرفدار صحابہ و تابعین کی شان میں جو گستاخی کی ہے، اور ان کو مفتری و بہتان طراز بتایا ہے، اور پر امن فضا میں فساد برپا کرنے کا ان پر الزام لگایا ہے، وہ صرف اس لئے کہ یزید اور اس کی فوج نے، حادثہ حرہ میں جو جو حرام کاری و سیاہ کاری کی اسے جائز قرار دے کر اپنا مقصد ثابت کیا جائے حادثہ کربلا اور حادثہ حرہ کے درمیانی زمانہ کو امن و امان اور خوش حالی کی سند اس لئے دی گئی ہے، کہ اس دوران میں یزید اور اس کی فوج کو اور کوئی ایسا اہم کارنامہ دکھانے کا موقع نہیں مل سکا، جس میں ”ملک عضو“ کی برکتیں ظاہر ہو سکیں اور مسلمان بڑے صبر و ضبط اور تحمل کے ساتھ خاموش رہ کر اندر ہی اندر گھل رہے تھے، اور یزید اور شامی فوجوں کے حق میں دعائے خیر یا ان سے راحت پاجانے کی دعا کر رہے تھے،

مکہ مکرمہ پر حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کا قبضہ تھا، مگر مدینہ منورہ کلیدؓ یزیدی سیاست کا مرکز تھا، اور اسے عضو ضیت نے دمشق کے بعد اپنا دوسرا مقام بنا رکھا تھا، ایسی صورت میں ابن زبیرؓ اور ان کے ساتھیوں سے اہل مدینہ کا متاثر ہونا اور یزید کی بیعت توڑ کر اپنے لئے دوسرا والی مقرر کر لینا مولف کی سمجھ میں آسکتا ہے، مگر کسی سنجیدہ آدمی کے لئے اس کا سمجھنا محال ہے، جو مدینہ حسینؓ اور ابن زبیرؓ اور ان جیسے بزرگوں کیلئے تنگ ہو گیا، اور جس کے ایک ایک آدمی کی نقل و حرکت پر شامی فوج اور پولیس کڑھی نگرانی کرتی تھی، وہاں کے لوگوں کا خارجی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر عبداللہ بن زبیرؓ کی ہمنوائی کرنا مولف کے بیان کا کرشمہ ہے، اسے واقعات و حقائق سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔

مولف نے غالباً حادثہ حرہ جیسے مکروہ حادثہ پر اس لئے زیادہ روشنی نہیں ڈالی کہ اس کی عام مسلمانوں میں وہ شہرت نہیں ہے جو کربلا کو حاصل ہے، مگر واقعہ کربلا کی وجہ بقول مولف اگر صرف حضرت حسینؓ اور ان کے چند اہل بیت تھے تو واقعہ حرہ کی وجہ پورے اہل مدینہ تھے جنہوں نے تحقیق و تفتیش کے بعد یزید کی بیعت کو توڑ کر اپنے لئے دوسرا حاکم منتخب کیا، جس کی پاداش میں مدینہ تین دنوں تک شامی فوجوں کے حوالہ رہا، اور انہوں نے اس حرم پاک میں وہ سب کچھ کیا جسے کوئی وحشی سے وحشی تر فوج بھی اپنے مقبوضہ علاقہ میں نہیں کر سکتی، کئی ہزار صحابہ اور تابعین کو یزیدی سیاست کی تلوار کھا گئی، حرم رسول کی عزت و حرمت ختم کر دی گئی، صحابہ اور تابعین کے گھروں کو لوٹا گیا، ان کی حرم سراؤں کی عفت و عصمت لوٹی گئی، اور

مسجد نبوی شریف میں اذان و اقامت کی نوبت نہ آئی، اور اس اقدام کے چند دنوں کے بعد ہی دنیا نے اسلام کو یزید کی طرف سے سکون مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے امت کی دعا قبول فرمائی۔

محاصرہ مکہ مکرمہ

مؤلف نے یزیدی دور کے تین مکروہ ترین واقعات میں واقعہ کربلا اور واقعہ حرہ پر اپنے مفروضہ کے ماتحت خامہ فرسائی کی مگر محاصرہ مکہ مکرمہ کا تذکرہ نہیں کیا جس سے کم از کم اتنا تو معلوم ہو جاتا ہے کہ حرمین شریفین پر اس دور میں جو بقول مؤلف فاروق اعظمؓ کے دور خلافت کا مثیل تھا، کیا بیستی؟ اور اللہ و رسول ﷺ کے پڑوسیوں پر یزیدی سیاست نے کیا کیا عنایت کی؟ مناسب ہے کہ یہاں پر اس المیہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے، آخر کونوا الحجۃ ۶۳ھ میں شامی فوج کے امیر مسلم بن عقبہ مدینہ الرسول کی لوٹ مار سے فارغ ہو کر حضرت عبداللہ بن زبیرؓ سے جنگ کے لئے مکہ مکرمہ کی طرف چلا، مدینہ منورہ کو قح کرنے والی فوج اس کے ساتھ جلی مگر مسلم بن عقبہؓ "ابواء" پر پہنچ کر بیمار ہو گیا، اور اس فتح مدینہ کو مکہ تک پہنچنا نصیب نہ ہو سکا، بلکہ وہیں اس کی وفات ہو گئی، اس نے مرنے سے پہلے حصین بن نمیر کو شامی فوج کا امیر مقرر کیا، اور اس لشکر کو آگے بڑھنے کی ترکیب کر کے خود ابواء میں سپرد خاک ہوا، حصین ۲۶ محرم ۶۳ھ کو مکہ کے قریب پہنچا، اور اہل مکہ سے یزید کی بیعت کے لئے کہا، طرفین سے مقابلہ کی تیاری ہوئی، شامی فوج نے اپنے امیر کی سرکردگی میں جبل اوقیس اور جبل قیقعان پر منجنیق نصب کر کے خانہ کعبہ پر اس طرح سنگباری کرنے لگی کہ

کوئی آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا تھا، اسی حال میں صفر کا پورا مہینہ گزر گیا، اور تیسری ربیع الاول کو شامی فوجوں نے خانہ کعبہ پر آگ برسائی، چھت اور پردے جل کر گسیا ہو گئے، اور ۱۴ ربیع الاول ۶۳ھ کو جبکہ مکہ میں جانبین سے جنگ جاری تھی، اور شامی فوجیں بڑھ بڑھ کر حرم رسول کے بعد حرم خدا کی حرمت لوٹ رہی تھیں، یزید کی موت واقع ہو گئی،

یہ تین واقعات یزیدی دور کے نہایت اہم ہیں اور ان میں سے ہر ایک بجائے خود نہایت ہی سنگین ہے، مگر واقعہ کربلا کو ایک گروہ نے اپنی سیاست کے لئے مذہبی نشان بنایا، اور اس میں رنگ آمیزی کی، اور دو واقعات کتابوں کے اوراق میں دفن ہیں۔

## چند متفرق اور اہم مباحث

قاتل حسینؑ عمر بن سعد

مؤلف لکھتے ہیں "عمر بن سعد کو قتل حسین سے جب مشتم کیا جانے لگا تو متاخرین میں سے بعض کو ان کی مروی حدیث لینے میں تامل ہوا، علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ وہ فی نفسہ تو غیر مشتم تھے، لیکن قتال الحسین علیہ السلام میں حصہ لیا تھا، اس لئے وہ کیسے ثقہ سمجھے جائیں، (میزان الاعتدال ج ۲ ص ۲۵۸) علامہ ذہبی کا زمانہ ان کے زمانہ سے تقریباً سات سو برس بعد کا زمانہ ہے، جب ابو مخنف وغیرہ کی روایتوں کی اشاعت سے حادثہ کربلا کی صورت کا ذہ عام طور سے لوگوں کے ذہن نشین ہو چکی تھی، اور کسی مورخ کو ان وضعی روایات کی تنقید کرنے کی توفیق نہیں ہوئی جو صحیح حالات کا انکشاف ہو جاتا، غالباً سوائے ابن خلدون کے جن کی کتاب کے دو تین ورق جو حادثہ کربلا کے بارے میں ہیں ایسے غائب ہوئے کہ تقریباً پانچ سو برس کی مدت گزر جانے پر بھی آج تک کسی کو دستیاب نہ ہو سکے، (ص ۲۱۵)

حسب معمول مؤلف نے ان باتوں کو لکھتے وقت ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کی کہ اگر کوئی اس بات کی تحقیق کر بیٹھے اور اصل سے مقابلہ کرے تو کیا حال ہوگا؟ اسی بیان سے ایک سطر اوپر مؤلف نے "تہذیب التہذیب" کی عبارت کو نقل کیا، جس کا آخری پیرا اور اس کا ترجمہ آپ کی زبان میں یہ ہے:-

وقال العجلي كان يروى عن ابيه احاديث وهو تابعي ثقة

(تهذيب التذیب ص ۴۵۰)

(ترجمہ) "اور محدث العجلی فرماتے ہیں کہ (عمر بن سعد) نے اپنے باپ سے حدیث کی روایت کی ہے، اور ان سے بہت سے لوگوں نے اور وہ خود ثقہ تابعی تھے"

اس میں "اور ان سے بہت سے لوگوں نے" کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اس تحریفی ترجمہ کی کیا ضرورت تھی جبکہ امام عجمی کی عبارت میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، یہ تو یوں ہی ایک بات تھی، اس میں اصل بددیانتی یہ ہے کہ اس کے بعد والی عبارت کو نقل نہیں کیا، اور امام عجمی کی آدھی عبارت نقل کر کے اپنا تعصب نکالنا چاہا ہے، پورا فقرہ یہ ہے،

وهو تابعي ثقة وهو الذي قتل الحسين

(ترجمہ) "وہ ثقہ تابعی ہے اور وہی ہے جس نے حسین کو قتل کیا"

اس کے بعد یہ عبارت ہے،

وذكر ابن ابی خيثمه بسند له ان ابن زياد بعث عمر بن سعد على جيش لقتال الحسين وبعث شمر بن ذى الجوشن وقال له اذهب معه فان قتله والا فاقتله وانت على الناس وقال ابن ابی خيثمه عن ابن معين كيف يكون من قتل الحسين ثقة (ص ۴۵۱) قال عمرو بن علي سمعت يحيى بن سعيد يقول ثنا اسمعيل ثنا العيزار عن عمر بن سعد، فقال له موسى رجل من بنى ضبيعة يا ابا سعيد هذا قاتل



الحسین فسکت فقال له عن قاتل الحسين تحدثنا فسکت، وروی  
ابن خراش عن عمرو بن علی نحو ذالک وقال فقال له رجل اما  
تخاف الله تروی عن عمر بن سعد فبکی وقال لا اعود وقال  
الحمیدی ثنا سفیان عن سالم قال قال عمر بن سعد للحسین ان  
قوما من السفهاء یزعمون انی اقتلک فقال الحسین لیسوا سفهاء ثم  
قال والله انت لا تاکل برالعراق الا قليلاً (تهذیب الشذیب ص ۳۵۰)

(ترجمہ) " اور محدث ابن ابی خیشمہ نے اپنی سند سے بیان کیا کہ ابن زیاد نے  
عمر بن سعد کو امیر لشکر بنا کر حسینؑ سے قتال کے لئے بھیجا اور شمر بن ذی الجوشن کو  
اس کے ساتھ یہ کہہ کر بھیجا کہ اگر عمر بن سعد ان کو قتل نہ کرے تو تم ان کو قتل کرنا  
اور ان لوگوں کے امیر ہو گے، اور محدث ابن ابی خیشمہ نے امام یحییٰ بن معین کا قول  
نقل کیا ہے کہ جس آدمی نے حسینؑ کو قتل کیا ہے، وہ ثقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محدث  
عمرو بن علی کا بیان ہے کہ میں نے محدث یحییٰ بن سعید سے سنا ہے انھوں نے کہا کہ  
ہم سے اسمعیل نے بیان کیا، انھوں نے کہا کہ ہم سے عمیرار نے عمر بن سعد سے  
حدیث بیان کی ہے اتنا ہی کھنپے پایا تھا کہ بنی ضبیعہ کے ایک آدمی موسیٰ نامی نے  
عمیرار سے کہا اے ابو سعید (عمیرار کی کنیت) یہ عمر بن سعد جس سے آپ روایت کر  
رہے ہیں قاتل حسینؑ ہے، یہ سن کر عمیرار خاموش ہو گیا، اس آدمی نے کہا آپ قاتل  
حسینؑ سے ہم سے حدیث بیان کرتے ہیں، یہ سن کر وہ رونے لگے، اور کھنپے لگے میں  
پھر ایسا نہیں کرونگا (امام بخاری کے استاد) امام حمیدی نے کہا کہ ہم سے سفیان نے

بیان کیا حضرت سالم سے (جو کہ حضرت عمر کے پوتے ہیں) انہوں نے کہا کہ عمر بن سعد نے حسینؑ سے کہا کہ کچھ کھینے لوگ گمان کرتے ہیں کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، یہ سن کر حسینؑ نے کہا وہ لوگ کھینے اور بیوقوف نہیں ہیں، پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم عراق کا گیسوں بہت دن تک نہ کھا سکو گے۔"

امام ابن ابی حاتم رازی متوفی ۳۲۷ھ نے "کتاب الجرح والتعديل" میں عمر بن سعد کا تذکرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ عمر بن سعد بن ابی وقاص زہری کو فی نے اپنے والد سے روایت کی ہے، اور اس سے عمیر بن حریش، ابو اسحاق ہمدانی، ابو بکر بن حفص، یزید بن ابی صیب، مطلب بن عبد اللہ بن حنطب اور محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیبہ نے روایت کی ہے اور اس کے بعد لکھتے ہیں:-

حدثنا عبدالرحمن اخبرنا ابو بکر بن ابی خيثمه فيما كتب الي'  
قال سالت يحيى بن معين عن عمر بن سعد ثقة هو فقال (ص ۱۱۱)  
كيف يكون من قتل الحسين بن علي رضي الله عنه ثقة (كتاب الجرح  
والتعديل ج ۳ ص ۱۱۲ قسم اول)

(ترجمہ) "ہم سے عبد الرحمن نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام ابو بکر بن ابی خيثمہ نے خبر دی ہے کہ میں نے خود امام یحییٰ بن معین سے عمر بن سعد کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ ثقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے وہ ثقہ کیے ہو سکتا ہے۔"

مؤلف کتاب نے بڑی دلیری سے "تہذیب التہذیب" سے محدث عجلی کی آدھی

عبارت "وهو الذى قتل الحسين" کو چھپایا، اس کے بعد امام یحییٰ بن معین کے قول کو جو "تہذیب التہذیب" کے اُسی صفحہ پر بے چھپایا اور عمر بن سعد کے غیر ثقہ ہونے کی تصریح کو متاخرین میں سے بعض کے تامل سے تعبیر کر کے امام ذہبی متوفی ۷۴۷ھ کا قول نقل کیا، اور سات سو برس کا زمانہ بیچ میں لا کر ان کو اور دوسرے تمام محدثین کو تنقید کی توفیق سے محروم قرار دیا۔

عمر بن سعد کو غیر ثقہ اور قاتل حسینؑ بنانے والوں میں حضرت ابن معین کا قول سب سے اہم ہے، اور متعدد محدثین نے اسے نقل کیا ہے، امام یحییٰ بن معین کی وفات ۲۳۷ھ میں ہوئی، اور "کتاب الجرح والتعديل" میں ابن معین کا یہ قول صرف دو واسطوں سے مروی ہے، مصنف ابن ابی حاتم رازی اور ابن معین کے درمیان محدث عبدالرحمن اور محدث ابن ابی خیشمہ دو حضرات ہیں، اور یہ سب کے سب اسماء الرجال اور علم الجرح والتعديل کے مسلم امام ہیں،

عمر بن سعد کو مختار ثقفی نے ۶۷ھ یا ۶۶ھ میں قتل کیا، امام یحییٰ بن معین نے ۲۳۷ھ میں وفات پائی، اور کتاب الجرح والتعديل کے مصنف امام ابن ابی رازی ۳۲۷ھ میں فوت ہوئے،

مؤلف کا کہنا ہے کہ سات سو برس کے بعد ذہبی نے میزان الاعتدال میں عمر بن سعد کو غیر ثقہ بنایا ہے، انھوں نے "تہذیب التہذیب" اور "الجرح والتعديل" سے فن جرح و تعديل کے امام ابن معین کے قول کو چھپایا جو عمر بن سعد کے قتل کے تقریباً پونے دو سو برس بعد فوت ہوئے،

علامہ ابن تیمیہؒ ایک مقام پر مختار بن ابی عبید ثقفی اور عمر بن سعد میں مقابلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ مختار جس نے حضرت حسینؑ کی طرفدارمی ظاہر کر کے قاتلین حسینؑ سے بدلہ لیا دعویٰ کرتا تھا، کہ میرے پاس وحی آتی ہے، اس لئے وہ عمر بن سعد قاتل حسینؑ سے برا ہے،

ومن معلوم ان عمر بن سعد، امیر السریة التي قتلت الحسين، مع ظلمه و تقديمه الدنيا على الدين لم يصل في المعصية الى فعل المختار بن ابی عبید الذي اظهر الا نتصار للحسين وقتل قاتله (المنتقى ص ۷۵)

(ترجمہ) "یہ بات معلوم ہے کہ حسینؑ کے قاتل فوجی دستہ کا افسر عمر بن سعد باوجود اپنے علم اور دین پر دنیا کو مقدم کرنے کے معصیت میں مختار بن ابی عبید کے درجہ کو نہیں پہونچا، جس نے حسینؑ کی نصرت کو ظاہر کیا، اور ان کے قاتل عمر بن سعد کو قتل کیا"

اس سے پہلے اسی بحث کے ضمن میں علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:-

ان عمر بن سعد كان طالباً للرياسة مقدماً على المحرم معروفاً بذلك (ص ۷۳)

(ترجمہ) "عمر بن سعد ریاست کا طالب اور حرام پر جرمی تھا، اور اس میں مشہور تھا" یقیناً مختار ثقفی اللہ ورسول پر افترا کرنے اور اپنے لئے دعویٰ وحی کرنے کی وجہ سے جرم و معصیت میں عمر بن سعد سے کہیں آگے تھا، مگر علامہ ابن تیمیہ کے بیان کی رو سے بھی عمر بن سعد قاتل حسینؑ بائیں معنی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ حسینؑ کے قاتل

کرنے والے فوجی دستہ کا افسر تھا، اور اسی کی کمان میں شہادت حسینؑ واقع ہوئی، نیز علامہ ابن تیمیہ کے بیان کی رو سے وہ طالبِ جاہ و ریاست تھا، اور حرام کام کرنے میں آگے تھا، اور اس معاملہ میں مشہور و معروف تھا، اگر سات سو برس کے بعد ذیہبیؒ نے عمر بن سعد کو غیر ثقہ بتایا ہے تو ابن تیمیہ نے کتنے برس بعد عمر بن سعد کو "کان طالباً للریاستہ مقدماً علی المحرم معروفاً بذالک" قرار دیا ہے، امام ابن تیمیہ کے اس بیان کی روشنی میں عمر بن سعد کو عبید اللہ بن زیاد کے علاقہ سے پیش کرنے کا واقعہ بھی سمجھا جاسکتا ہے، جسے مصنف نے ص ۲۰۲ اور ص ۲۰۳ پر غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس طالبِ جاہ اور محرمات پر جرات دکھانے والے سے یہ کیا بعید ہے بلکہ عین ممکن ہے۔

واضح رہے کہ یہ مورخوں کے بیانات نہیں ہیں، بلکہ ان حضرات محدثین کرام کی تصریحات ہیں اور ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال ہیں، جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے اقوال افعال اور مرضیات کو جمع کرنے کے لئے پانچ لاکھ سے زائد راویوں کے حالات جمع کئے ہیں، اور ہر راوی کی عدالت و ثقاہت یا ضعف و مجروحیت کو مخفی سے مخفی گوشوں سے تلاش کر کے کتابوں میں جمع کر دیا ہے، عمر بن سعد کو قاتل حسینؑ ہونے کی وجہ سے ثمیم ثقہ قرار دینے والے حضرت ابن معین رحمہ اللہ علیہ فن جرح و تعدیل کے مسلم امام ہیں، اور اس معاملہ میں ان کا فیصلہ ہے کہ جن حضرات کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ اتنے بزرگ ہیں کہ انکی زندگی ہی میں ان کے خیمے جنت میں لگ جاتے ہیں، جب ہم حدیث رسول کے معاملہ میں جرح و تعدیل کی کسوٹی پر ان کو

گھستے ہیں اور وہ ہمارے اصولوں پر پورے نہیں اترتے تو صاف لفظوں میں ہم ان کو کذاب و دجال کہہ دیتے ہیں،

ان ائمہ حدیث پر یہ الزام کہ انہوں نے تحقیق نہیں کی، اور وضعی روایات کو آٹکھ بند کر کے نقل کر دیا جرأت و بے باکی کی انتہا ہے

حضرت حسینؑ کے مقابلہ میں جو فوج تھی، اس کا سپہ سالار عمر بن سعد کا ہونا مؤلف کو بھی تسلیم ہے، مگر اس کا قاتل حسینؑ ہونا تسلیم نہیں ہے، اور جن محدثین نے اسے قاتل حسینؑ بتایا ہے، انہی عبارت میں تحریف کی یا اسے نقل ہی نہیں کیا، ان کو چاہیے تھا کہ اس کے قاتل حسینؑ نہ ہونے کی کوئی عبارت نقل کرتے مگر مسلمانوں کے یہاں سے کوئی ایسی عبارت نہ مل سکی، اور مستشرقین یورپ کے اقوال نقل کرنے پڑے، کیا خوب بات ہے کہ جس بات کو اسلامی مورخین آپ کے زعم میں صحیح نہ بیان کر سکے اسے آج کل کے عیسائی مورخ صحیح بیان کرتے ہیں، مسلمانوں کے مقابلہ میں عیسائی مورخوں سے استدلال آپ کی روشن خیالی اور ریسرچ کا نمایاں پہلو ہے، اور آپ کے نزدیک مسلمانوں کے داخلی معاملات اور فتنوں کے مستند مورخ مغربی مسیحی ٹھہرے ہیں، گویا وہ مسلمان مورخوں سے زیادہ ثقہ و معتبر ہیں، اور وہ مسلمانوں کی تاریخ کے محقق ہیں،

ظاہر ہے کہ امام حسینؑ کا قاتل کوئی جن یا فرشتہ نہیں تھا، اور نہ مؤلف ان کے قتل کو ان کے خاندان کے کسی فرد کا کام بتاتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ امام حسینؑ کے جو لوگ مقابل تھے، ان ہی میں سے کسی نے یہ کام کیا ہے، آخر کسی کا نام تو

لینا ہی پڑے گا اور یہ واقعہ ہے کہ عمر بن سعد نے خود حضرت حسینؑ سے مقابلہ نہیں کیا، بلکہ اس کی فوج کے لوگوں نے یہ کام کیا، درحقیقت حضرت حسینؑ کو اس کے آدمیوں نے قتل کیا، جو اسی کی کمان میں لڑ رہے تھے، اس لئے قتل حسینؑ کی نسبت اس کی طرف کی گئی، مؤلف نے اس بحث میں مورخ ابو حنیفہ دینوری مشوفی ۲۸۱ھ یا ۲۸۲ھ یا ۲۹۰ھ کا قول اس تمہید کے ساتھ نقل کیا ہے

"قدیم ترین مورخ (صاحب اخبار الطوال) لکھتے ہیں، (ص ۲۱۳)"

بسم اسی قدیم ترین مورخ کے بیان کے کچھ ٹکڑے اس کی کتاب الاخبار الطوال سے نقل کرتے ہیں جو عین قتال کے موقع سے تعلق رکھتے ہیں، ملاحظہ ہو

فنادی عمر بن سعد فی اصحابه ان انهدوا الی القوم فحفض الیهم عشية الخميس و ليلة الجمعة لتسع لیلال خلون من المحرم (ص ۱۵۳ الاخبار الطوال)

(ترجمہ) "عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں ندا کی کہ قوم (حسین اور ان کے طرفداروں) پر حملہ کرو، چنانچہ اس کے لشکر میں ان کی طرف بڑھے، یہ واقعہ جمعرات کی شام اور جمعہ کی رات ۹ محرم کا ہے، (حسینؑ نے صبح تک مہلت چاہی تو مہلت دے دی گئی) چند سطروں کے بعد یہ قدیم ترین مورخ لکھتے ہیں:-

ولما صلی عمر بن سعد الغداة فحفض باصحابه و علی ميمنة عمر و بن الحجاج و علی میسرہ شمر بن ذی الجوشن الخ (ص ۱۵۳) (ترجمہ) "جب صبح کی نماز عمر بن سعد نے پڑھ لی تو اپنے لشکریوں کو تیار کیا

سیمنہ پر عمرو بن حجاج اور میسرہ پر شمر بن ذی الجوشن تھا،  
 ونادی' عمر بن سعد مولاه زیداً ان قدم الراية فتقدم بها وسبت  
 الحرب (ص ۱۵۴)

(ترجمہ) "اور عمر بن سعد نے اپنے غلام زید کو پکارا کہ جھنڈا لے کر آگے بڑھو وہ  
 آگے بڑھا اور گھمسان کی لڑائی ہونے لگی"  
 پھر واقعہ کر بلا ہو جانے کے بعد اسی سپہ سالار کے بارے میں لکھتے ہیں۔

وبعث عمر بن سعد برأس الحسين من ساعته الى عبید اللہ بن  
 زیاد مع خولی بن یزید الا صبحی و اقام عمر بن سعد بکر بلاء بعد  
 مقتل الحسين یومین، ثم اذن فی الناس بالرحیل (الخ ص ۲۵۶)

(ترجمہ) "اور عمر بن سعد نے اسی وقت حسینؑ کے سر کو عبید اللہ بن زیاد کے  
 پاس خولی بن یزید اصبحی کے ہمراہ روانہ کیا، اور خود عمر بن سعد کر بلا میں قتل حسینؑ  
 کے بعد دو دن تک ٹھہرا رہا، پھر لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔"

مورخ ابو حنیفہ الدینوری قدیم ترین مورخ ہیں، اور ان کے یہاں ابو مخنف جیسے  
 رطب و یابس بیان کرنے والوں کا نام و نشان نہیں ہے، ان کی ان عبارتوں سے کیا  
 واضح ہوتا ہے، اس کا فیصلہ مشکل نہیں، مگر ایک اور قدیم مورخ کے بیانات ملاحظہ  
 فرمائیے جسے مولف نے کذاب و مفتری نہیں کہا، بلکہ اپنی کتاب میں جگہ جگہ اس کی  
 کتاب کے حوالے نقل کئے ہیں، یہ دوسرے قدیم و ثقہ مورخ علامہ ابن قتیبہ  
 دینوری ۲۷۶ھ میں فوت ہوئے ہیں، اور ابو حنیفہ دینوری کے ہم وطن اور معاصر



ہیں، ان کی "کتاب المعارف" انتساب کی مشہور و معتبر کتاب ہے، اور مولف نے اس کتاب سے جگہ جگہ استناد کیا ہے۔

علامہ ابن قتیبہ دینوری حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی اولاد کے ذکر میں فرماتے ہیں،

فاما عمر بن سعد فهو قاتل الحسين بن علي رضي الله عنهما  
وكان عبيد الله بن زياد وجهه لقتاله فلما كان ايام المختار بعث الي  
عمر بن سعد ابا عمرة مولى بحيلة فقتله وحمل راسه اليه (كتاب  
المعارف ص ۱۰۴ طبع مصر)

(ترجمہ) "عمر بن سعد حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا قاتل ہے، اور عبید اللہ بن زیاد نے اسے حسین سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا تھا، اور جب مختار ثقفی کا زمانہ آیا تو اس نے بحیلہ کے غلام ابو عمرہ کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا، اس نے عمر کو قتل کر کے اس کا سر مختار ثقفی کے پاس بھیجا"

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تذکرہ میں حضرت حسین کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

فخرج يزيد الكوفة فوجد اليه عبيد الله بن زياد عمر بن سعد بن

ابي وقاص فقتله سنان بن ابي انس النخعي (ص ۹۳)

(ترجمہ) "حسینؑ کو فوج کا ارادہ کر کے نکلے، تو عبید اللہ بن زیاد نے ان کی طرف عمر

بن سعد بن ابی وقاص کو روانہ کیا، اور ان کو سنان بن ابوانس نخعی نے قتل کیا،"

یزید کے ذکر میں لکھتے ہیں،

واقبل الحسين بن علي رضي الله عنهما ، يريد الكوفة وعليه  
عبيدالله بن زياد من قبل يزيد فوجه اليه عبيدالله عمر بن سعد بن  
ابي وقاص فقاتله فقتل الحسين رحمة الله تعالى عليه و ورضوانه  
(ص ۵۳۳)

(ترجمہ) " اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ کوفہ کے ارادے سے نکلے، اس وقت  
کوفہ پر یزید کی طرف سے عبید اللہ بن زیاد گورنر تھا، اور اس نے حسین سے جنگ کی،  
اس نے حسین کی طرف عمر بن سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، اور اس نے حسین سے  
جنگ کی، اور حسین کو قتل کر دیا

مؤلف نے ص ۲۰۸ سے ص ۲۱۲ تک کردار عمر بن سعد کے متعلق جو کچھ  
لکھا ہے اور اس کے کارناموں کو شمار کیا، وہ سب اسی قبیل سے ہیں تاکہ وہ واقعی اس  
کام سے دور بھاگھتا تھا، مگر اس پر اس قدر سختی ہوئی کہ مجبوراً ایسا کرنا پڑا اور یہ ڈیوٹی بجا  
لانے کے بعد بھی اسے حد درجہ خدشہ رہا اور صاحب اخبار الطوال نے لکھا ہے کہ حمید بن  
مسلم کا بیان ہے کہ میں عمر بن سعد کا دوست تھا جب وہ قتال حسین سے واپس ہوا تو  
میں نے جا کر اس سے خیرت دریافت کی اس نے کہا

لا تسئال عن حالی فانه ما رجع غائب الی منزله بشر مما رجعت

به قطعت القرابة القریبة وار تكبت الامر العظیم (ص ۲۵۷)

(ترجمہ) " یہ حال نہ پوچھو کیونکہ کوئی غائب ہونے والا اپنے گھر کی طرف اس سے  
بڑھی برائی لے کر نہیں لوٹا جتنی بڑھی برائی لے کر میں لوٹا ہوں میں نے بہت ہی  
قریبی قرابت کو کاٹ دیا اور بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا "

مورخوں نے ان تمام باتوں کو دیاننداری سے بیان کر دیا ہے اگر ان کی اسی غیر جانبداری اور ذمہ داری پر مولف جگہ جگہ حرف رکھتے ہیں کہ یہ مورخین عمر بن سعد کے بارے میں یہ بھی لکھتے اور قاتل حسینؑ بھی بتاتے ہیں۔

ساتھ ہی سب مورخین نے نہایت واضح طور پر بیان کیا ہے کہ عمر بن سعد کسی قیمت پر حضرت حسینؑ سے جنگ کرنے کے لئے تیار نہ تھا، اس نے انتہائی دباؤ سے یہ کام کیا، اور واپسی پر اس حادثہ پر بڑے درد انگیز لہجہ میں اپنے تاثرات بیان کئے اور اہل بیت کو جو بچ گئے تھے بڑے احترام کے ساتھ یزید کے پاس روانہ کیا۔

## صحابی بنانے کی کوشش

مؤلف نے عمر بن سعد کو پہلے تابعی تسلیم کر کے لکھا ہے:-

"اور عمر بن سعد کا کردار ایسا ہی بے داغ ثابت ہوتا ہے جیسا ان جیسے نفع و بلند پایہ تابعی کے حالات سے توقع کی جا سکتی ہے، طبقات ابن سعد میں 'بذیل الطبقة الاولى من اهل المدينة من التابعين،' تابعین کے زمرہ میں ان کا ذکر ہے، اور شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی نے "تہذیب التہذیب" میں مندرجہ ذیل عبارت میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کیسے کیسے لوگوں نے ان سے حدیث روایت کی ہے، وہ لکھتے ہیں-

..وقال العجلی یروی عن ابیہ احادیث وهو تابعی ثقة،

(ترجمہ) "..... اور وہ ثقہ تابعی تھے،" (ص ۲۱۳، ۲۱۵)

یہاں پر شیخ الاسلام ابن حجر اور عجلی کے اقوال کو یاد رکھنا چاہئے، جن کی عبارتوں میں مؤلف نے بری طرح خیانت کی ہے، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، دیکھئے کہ مؤلف نے عمر بن سعد کے تابعی ہونے کا اقرار اور اعتراف کن کھلے الفاظ میں کیا ہے، مگر صفحہ ۲۱۵ پر تابیعت کا اقرار کرنے کے بعد اسی صفحہ کی آخری سطر سے مؤلف کا دماغ بدلتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے:-

"غالی راویوں کے پروپگنڈے کے اثرات (ص ۲۱۵) ہی کی شاید وجہ تھی

کہ بعض لوگوں نے ان کے مؤثر عہد النبی ﷺ ہونے کے بارے میں بھی

شبہات کا اظہار کیا" (ص ۲۱۶)

کیا دلچسپ بات ہے کہ مؤلف نے بعض لوگوں کو پروپگینڈے کا شکار بنا کر عمر بن سعد کی صحابیت میں شبہات ظاہر کرنے کا الزام دیا ہے، اور خود اسے تابعی مان کر "طبقات ابن سعد" اور "تہذیب التہذیب" کا حوالہ دیا ہے۔

کیا کوئی ایسا طبقہ بھی آپ نے تلاش کیا ہے جو بیک وقت تابعی بھی ہو اور صحابی بھی، یا عمر بن سعد کے واسطے یہ نیا نظریہ ظاہر کیا ہے؟  
مؤلف نے عمر بن سعد کو صحابی ثابت کرنے کے لئے بڑے بڑے محدثین، ائمہ جرح و تعدیل اور اسماء الرجال کے ماہرین پر الزام لگایا ہے، اور ان کی عبارتوں میں نہایت بے باکی سے تحریف کی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:-

”محدث ابو بکر بن قسوم مالکی کی روایت سے اس شبہ کا ازالہ ہو جاتا ہے، یہ بزرگوار محدثین کی اس جماعت میں شامل تھے جس نے صحابہ کرام کے حالات کی معتبر کتاب "الاستیعاب" کا ذیل لکھا تھا چنانچہ وہ ابن اسحق کی سند سے یہ روایت لکھتے ہیں کہ عمر بن سعد عہد فاروقی کے مجاہدین میں کب اور کیونکر شامل ہوئے،" (ص ۲۱۲)

اس کے بعد آپ نے حافظ ابن حجر کی کتاب الاصابہ ص ۱۷۳ سے ابن قسوم کی وہ عبارت نقل کی ہے، جس میں عمر بن سعد کے عہد فاروقی کے مجاہدین میں شامل ہونے کی جھوٹی کہانی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں چار قسمیں مقرر کی ہیں، جو تھی قسم میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو غلطی سے صحابہ میں شمار کیا گیا ہے اور وہ صحابہ

میں سے نہیں ہیں، امام ابن حجر ایسے لوگوں کے نام لکھ کر وہ غلط روایت بیان کرتے ہیں، جو ان کے صحابی ہونے کے لئے وضع کی گئی یا بیان کی گئی ہے پھر اس کی غلطی کو بیان کرتے ہیں، چنانچہ ”باب السمین“ میں آخری قسم کا عنوان بھی بیان کیا ہے

’القسم الرابع فیمن ذکر منهم غلطا و بیاناہ‘ یعنی چوتھی قسم ان لوگوں کے بیان میں جو غلطی سے صحابہ کی جماعت میں شمار کئے گئے، اور اس غلطی کا بیان، اس قسم میں عمر بن سعد کا نام لکھ کر ابن قسحون کی وہی روایت ”ذکرہ ابن فتحون فی الذیل“ یعنی اس کا ذکر ابن قسحون نے ”الاستیعاب“ کے ”ذیل“ میں کیا ہے، لکھ کر پوری عبارت نقل کر دی اور اس کے بعد اپنا فیصلہ یوں سنایا:-

قلت قد جزم امام المحدثین یحییٰ بن معین بان عمر بن سعد ولد فی السنة اللتی مات فیہا عمر بن الخطاب، ذکر ذالک ابن ابی خیشمہ فی تاریخہ“ (الاصابہ طبع جدید مصر ص ۱۷۲، ج ۳)

(ترجمہ) ”میں کہتا ہوں کہ امام المحدثین یحییٰ بن معین نے نہایت وثوق سے بیان کیا ہے کہ عمر بن سعد اس سال پیدا ہوا جس میں حضرت عمر بن الخطاب کا انتقال ہوا یہ ابن ابی خیشمہ نے اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے۔“

مؤلف نے انتہائی خیانت سے کام لیتے ہوئے ”الاصابہ“ کا حوالہ دے کر ابن قسحون کی غلط روایت سے عمر بن سعد کو صحابی ثابت کرنے کی کوشش کی اور ابن حجر پر الزام لگانا چاہا کہ انہوں نے اسے ”الاصابہ“ میں بیان فرمایا ہے اور جو غلط روایت اس نے نقل کی کہ عمر بن سعد کو کس طرح صحابی بنانے کی روایت بنائی گئی ہے، مؤلف

نے اسی روایت کو ابن حجر کے نام سے نقل کر دیا، اور ان کی تصحیح روایت اور اصلاح کو چھپایا۔

اب ذرا ان کی اس کتاب کو بھی دیکھئے، جس سے مؤلف نے پہلے عمر بن سعد کی تابعیت ثابت کی ہے اس "تہذیب التہذیب" میں اسی بیان میں یہ عبارت موجود ہے:-

"وقال غيره ( اى عمرو بن على ) ولد فى عصر النبى وقال ابن ابى خيثمه عن ابن معين ولد عام مات عمر رضى الله عنه " (تہذیب التہذیب ج ۷ ص ۲۵۱)

(ترجمہ) "اور عمرو بن علی کے علاوہ نے کہا کہ عمر بن سعد نبی ﷺ کے عہد میں پیدا ہوا اور ابن ابی خيثمہ نے یحییٰ بن معین سے روایت کی ہے وہ اس سال پیدا ہوا جس سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے۔"

یہاں پر عمرو بن علی کے علاوہ سے مراد غالباً وہی ابن فتحون مالکی ہیں، جنہوں نے حافظ ابن عبدالبر اندلسی کی الاستیعاب کے ذیل میں عمر بن سعد کے مولود فی عہد النبى ہونے کی ایک روایت بیان کی ہے: اور اسے شیخ الاسلام ابن حجر نے "الاصابہ" میں غلط قرار دے کر امام المحدثین ابن معین کے جزم و یقین والا بیان درج کیا ہے، ابن حجر نے "تہذیب التہذیب" میں یہ بھی فرمایا ہے:-

قلت اغرب ابن فتحون فذكره فى الصحابه معتمدا على ما نقله عن الفتوح وان اباه امره على جيش فى فتوح العراق (تہذیب التہذیب ج ۷ ص ۲۵۱)

(ترجمہ) "میں کہتا ہوں کہ ابنِ فتحون نے تعجب خیز و غریب کام یہ کیا کہ عمر بن سعد کو صحابہ میں ذکر کیا، اور اس پر اعتماد کیا کہ وہ فتوح میں موجود تھا، اور اس کے والد نے عراق کی فتوحات میں اسے امیر لشکر بنایا تھا۔"

مؤلف کو اتنا بھی خیال نہیں رہا کہ اگر کسی نے "الاصابہ" اور "تہذیب التہذیب" اٹھا کر دیکھ لیا تو وہ اسے بددیانتی قرار دے گا یا تحقیق اور ریسرچ کھے گا۔

### صحیحین کی حدیث پر بیجا کلام

مؤلف نے عمر بن سعد کو تابعی تسلیم کر کے پھر صحابی ثابت کرنے کے لئے صرف یہی نہیں کیا کہ ابنِ فتحون کی غلط روایت نقل کی، اور ابنِ حجرؒ پر الزام لگایا کہ انھوں نے "الاصابہ" میں اس کی صحابیت کو بیان کیا ہے نیز "تہذیب التہذیب" کی تصریح کو چھپایا، بلکہ انھوں نے بخاری اور مسلم کی ایک صحیح اور بے غبار حدیث پر بھی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسے محلِ نظر قرار دیا ہے، ملاحظہ ہو فرماتے ہیں۔

"صحیحین کی ایک حدیث میں البتہ یہ بیان ہے کہ حضرت سعدؓ علیل تھے، آنحضرت ﷺ جب عیادت کے لئے تشریف لے گئے، انھوں نے عرض کیا میں مالدار ہوں سوائے ایک بیٹی کے میرے مال کا کوئی وارث نہ ہوگا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ یا تو حجۃ الوداع کے وقت کا ہے یا فتح مکہ کے زمانہ کا، اس سے بعض لوگ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ عمر بن سعد کی ولادت عہدِ نبوی میں نہیں ہوئی تھی، کسی نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ عہدِ نبوی کے نہیں، عہدِ فاروقی کے مولود تھے؛ (ص ۲۱۷)

"اس حدیث سے بعض لوگ تو یہ مطلب نکالتے ہیں "آپ نے پہلے کس سے یہ



مطلب نکالا تھا، مگر عمر بن سعد تابعی ہے، جیسا کہ ابن سعد کی طبقات اور حافظ ابن حجر کی ”تہذیب التہذیب“ سے نقل کر کے (صفحہ ۲۱۳) اس کا اعتراف و اقرار کیا ہے۔

امام المحدثین یحییٰ بن معین نے اس کی پیدائش اس سال بتائی ہے، جس سال حضرت عمرؓ کا وصال ہوا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی شہادت کے بعد یعنی عہدِ فاروقی کے بعد پیدا ہوا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے دورِ خلافت کے آخری چند مہینوں یا چند دنوں میں پیدا ہوا ہو، وہی ابن حجر عسقلانی جن کی کتاب سے آپ نے پہلے عمر بن سعد کی صحابیت ثابت کی ہے، انہوں نے ہی ”الاصابہ“ اور ”تہذیب التہذیب“ میں اسے لکھا ہے، اور امام المحدثین کے اسی قول کو حجت مانا ہے۔

آپ فرماتے ہیں

”بہ حدیث ہی اول تو محل نظر ہے، عہدِ نبوی میں حضرت سعد ایسے مال دار کہاں

تھے؟“ (س ۲۱۷)

صحیحین کی یہ حدیث جسے آج تک تمام محدثین و شارحین صحیح تسلیم کرتے چلے آئے ہیں، آپ کی نگاہ میں محل نظر کیسے بن رہی ہے؟ کیا یہاں پر منکرین حدیث کی ہمنوائی کھل کر کرنی ہے؟ اور عمر بن سعد کو صحابی ثابت کرنے کے چکر میں بخاری و مسلم کی حدیث کو بھی غلط قرار دینا ہے؟ یہاں پر آپ حدیث کے بارے میں کھل گئے ہیں اور آپ کا رجحان سامنے آ گیا ہے، عہدِ نبوی میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی مالداری آپ کے نزدیک کیوں ثابت نہیں ہے، ان کی غربت کی کوئی سند ہے؟ یا اس حدیث کو محل نظر قرار دینے کے لئے آپ بلا وجہ کی وجہ نکال رہے ہیں حضرت سعد کے مالدار

ہونے کی سند تو بخاری و مسلم کی یہ بے غبار حدیث ہے مادر نہ ہونے کا کوئی ایک گرا  
پڑا قول بھی آپ نے بیان کیا ہے؟  
پھر ارشاد ہوتا ہے

"پھر اگر یہ واقعہ فتح مکہ کے زمانہ کا ہے، اور یہ ثابت ہے کہ عمر بن سعد اپنے باپ  
کے بڑے بیٹے تھے تو کیا تعجب کہ رسول اللہ ﷺ کی دعا کی برکت سے ان کا یہ بیٹا ہو  
کر وراثت مال کا حقدار بنا ہو" (ص ۲۱۷)

یہ پوری حدیث ہمارے سامنے ہے، یہ واقعہ فتح مکہ کا نہیں، بلکہ حجۃ الوداع کے  
زمانہ کا ہے، یہ بالکل ثابت نہیں ہے کہ عمر بن سعد اپنے باپ کا بڑا بیٹا تھا، بلکہ اس  
وقت سب سے بڑی ان کی وہ صاحبزادی تھیں جن کے بعد نہ کوئی بہن تھی اور نہ کوئی  
بھائی تھا، عمر بن سعد کا بڑا بیٹا ہونا آپ کے ذہن میں ثابت ہے یا آپ کے کلمہ دینے  
سے ثابت ہو جائے گا، اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے کوئی دعاء نہیں دی، جس کی  
برکت آپ عمر بن سعد کو دینا چاہتے ہیں، وہ بھی "کیا تعجب ہے" کے ساتھ یہ آپ کے  
ذہنی مفروضے اور خیالی کاوشیں بلا کسی دلیل کے ہم کیوں تسلیم کر لیں، جبکہ آپ  
واقعات و حقائق کے انکار و اخفا میں بالکل باک نہیں محسوس کرتے،  
مزید ارشاد ہوتا ہے:

"قطع نظر اس کے جب ان کے پوتے ابو بکر بن حفص بن عمر بن سعد اپنے دادا  
سے حدیث کی روایت کرتے ہیں جیسا کہ شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی نے تصریح کی ہے  
تو یہ بین دلیل ہے اس امر کی کہ حضرت عمر بن سعد نہ صرف عہد نبوی کے مولود تھے،

بلکہ آپ کی وفات کے وقت ان کی عمر اقل درجہ پر پانچ چھ برس کی رہی ہوگی۔"  
(ص ۲۱۷، ۲۱۸)

یہ عمر بن سعد کو صحابی ثابت کرنے کی آخری دلیل ہے جو صرف ظن اور تخمینہ سے تیار کی گئی ہے بیشک ابن حجر اور دوسرے ائمہ رجال نے لکھا ہے کہ عمر بن سعد سے اس کے پوتے نے بھی روایت کی ہے، مگر کسی نے یہ تصریح نہیں کی ہے کہ کس قسم کی روایت کی ہے، بات یہ ہے کہ پوتے نے دادا کو نہیں پایا، اور اپنے باپ کے توسط سے دادا سے روایت کی، مرسل منقطع، معضل اور مدلس وغیرہ اسی قسم کی احادیث کو سمجھتے ہیں، اس بحث کے لئے "نخبۃ الفکر" "مقدمہ ابن صلاح" اور "معرفة علوم الحدیث" ہاکم "کا مطالعہ کیجئے، روایت کی بہت سی شکلیں ہیں،

مدیریت، غزوہ مدینہ، قیصر اور یزید

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے "غزوة البحر" اور "غزوہ مدینہ قیسر" کو ذرا تفصیل سے بیان کر کے انے یزید کے تعلق کی نوعیت کو واضح کر دیا جائے تاکہ آنے والے مباحث کے سمجھنے میں آسانی ہو، اس تفصیل کو ہم صرف دو ایسے مورخوں کی کتابوں سے درج کرتے ہیں، جو مؤلف کے نزدیک نہایت ثقہ و معتبر ہیں، ایک علامہ ابن خلدون کی تاریخ اور دوسری علامہ ابو الحسن بلاذری کی "فتوح البلدان" علامہ ابن خلدون کے بارے میں، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، علامہ بلاذری نہایت معتبر و مستند مورخ ہیں جن کی دو کتابوں "فتوح البلدان" اور "تنبیہ الاشراف" کو مؤلف نے اپنا ماخذ بنایا ہے "فتوح البلدان" سے صفحہ ۱۵۰، ۱۶، ۱۷ وغیرہ پر استدلال

کیا ہے اور "تنبیہ الاشراف" سے صفحہ ۵۸، ۷۸، ۱۱۸، ۱۳۰، ۱۵۰، صفحہ ۲۸۷، ۳۰۶، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳ وغیرہ میں استدلال فرمایا ہے

علامہ بلاذری فتوح البلدان میں "امر قبرص" کے بیان میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت معاویہ بن ابوسفیانؓ نے بحری جنگ قبرص کے پہلے غزوہ میں کی اس سے پہلے مسلمانوں نے بحر روم پر چڑھائی نہیں کی تھی، حضرت معاویہؓ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے غزوہ بحر کی اجازت چاہی تھی، مگر آپ نے اجازت نہیں دی، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت معاویہ نے ان سے غزوہ قبرص کے بارے میں اجازت طلب کی، اور اس کی قربت اور جنگی آسانی کو بیان کیا، حضرت عثمانؓ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ آپ حضرت عمرؓ کا جواب سن چکے ہیں، اس کے بعد ۲۷ھ میں حضرت معاویہؓ نے پھر حضرت عثمانؓ کو لکھا اور قبرص پر بحری چڑھائی کی آسانیوں کو واضح کیا، آپ نے جواب میں لکھا کہ اسی شرط پر آپ کو غزوہ بحر کی اجازت مل سکتی ہے کہ آپ کی عورت بھی ساتھ رہے، اگر یہ شرط منظور ہو تو پھر اجازت ہے ورنہ نہیں، حضرت معاویہؓ نے اس شرط کو منظور کرتے ہوئے بہت سے بحری جہاز لے کر ساحل عکا سے چڑھائی کی، اور اپنی عورت فاختہ بنت قرظہ کو ساتھ لیا۔ نیز حضرت عبادہ بن صامتؓ نے اپنی عورت حضرت ام حرام بنت ملحان انصاریہؓ کو اپنے ساتھ لیا، یہ واقعہ ۲۸ھ کا ہے جبکہ جاڑے کا موسم ختم ہو چکا تھا، بعض نے ۲۹ھ بتایا ہے، مسلمان ساحل قبرص پر پہنچ کر لنگر انداز ہوئے، اور جب اس کے حاکم کو خبر لگی تو اس نے صلح کا پیغام بھیجا، چنانچہ باشندگان قبرص کی طرف سے گفتگو کے بعد اس شرط

پر صلح ہوئی کہ وہ سالانہ سات ہزار دو سو دینار ادا کرتے رہیں گے، نیز بعض اور شرطیں بھی جابنیں سے ہوئیں، پھر ۳۲ھ میں اہل قبرص نے بد عہدی کی، تو حضرت معاویہؓ نے ۳۳ھ میں پانچ سو جہازوں کو لے کر پھر ان پر چڑھائی کی، اور اب کی مرتبہ قبرص کو زبردستی فتح کر کے قتل و غنیمت اور قید و بند کا معاملہ کیا، اور ان کو صلح پر آمادہ کیا، اس کے بعد علامہ بلاذری تصریح فرماتے ہیں:-

"وبعث اليها باثني عشر الفاكلهم اهل ديوان فبنوا المساجد ونقل اليها جماعة من بعلبك وبنى بها مدينة، واقاموا يودون الاعطية الى ان توفي معاوية، وولى بعده ابنه يزيد فانقل ذلك البعث وامر بهدم المدينة وبعض الرواة يزعم ان غزوة معاوية الثانية قبرص في سنة خمس وثلاثين، وحدثني محمد بن مصفى الحمصى عن الوليد قال بلغنا ان يزيد بن معاوية رشامالاعظيما ذا قدر حتى اقل جند قبرص، فلما قفلوا هدم اهل قبرص مدينتهم ومساجدهم (فتوح البلدان ص ۱۵۸ طبع مصر)

(ترجمہ) "اور حضرت معاویہ نے قبرص میں دس ہزار فوجی اہل دیوان سے (جن کو خلافت سے وظیفہ ملتا تھا) بھیجا، ان فوجیوں نے وہاں مسجدیں بنائیں، نیز حضرت معاویہؓ نے بعلبک سے ایک جماعت منتقل کر کے وہاں پر مسلمانوں کا ایک شہر آباد کیا، اور اہل قبرص اپنی رقم ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کی وفات ہوئی، اور ان کے بعد ان کا لڑکا یزید والی ہوا، تو اس نے ان فوجیوں کو وہاں سے واپس بلا لیا، اور ان کے آباد کئے ہوئے شہر کو منہدم کرنے کا حکم دیا، بعض راویوں کا خیال ہے کہ دوسرا غزوہ قبرص ۳۵ھ میں ہوا اور محمد بن مصفى حمصى نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ ولید نے

کہا کہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ یزید نے اہل قبرص سے ایک بہت بڑی رقم رشوت لے کر قبرص کی مسلمانوں کی فوج کو واپس بلا لیا، اور جب وہ لوگ واپس چلے آئے تو قبرص کے باشندوں نے ان کا شہر اور ان کی مسجدیں منہدم کر دیں۔

اب آئیے یزید کی صاحبزادگی کے زمانہ میں جہاد قسطنطنیہ میں زبردستی بھیجے جانے یا خود جانے کی داستان بھی سنئے، اور ”حدیث مغفور لحم“ میں اس کے شامل کئے جانے کی کیفیت معلوم کر لیجئے، علامہ ابن خلدون اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں :-

امیر معاویہؓ نے ۵۰ھ میں ایک بہت بڑا لشکر بسر افسری سفیان بن عوف بلادِ روم کی طرف روانہ کیا اور اپنے لڑکے یزید کو بھی ان کے ہمراہ جانے کا حکم دیا، لیکن یزید نے جانا پسند نہ کیا، معذرت کی۔ اس پر امیر معاویہؓ نے اس کی (یزید کی) روانگی ملتوی کر دی، اتفاق سے مجاہدین کو اس لڑائی میں اکثر مصائب کا سامنا ہوا، غلہ کی کمی، مرض کی زیادتی سے بہت لوگ تلف ہو گئے، یزید کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ بے ساختہ اشعار ذیل پڑھنے لگا :-

مالی أبالی بما لاقت ما جمعهم بالفرقدونة من حمیٰ و من شوم  
(ترجمہ) ”مجھ کو اس کی مطلق پروا نہیں ہے کہ ان کے لشکر کو فرقدونہ میں سختی اور بدبختی کا سامنا ہوا۔“

إذا اتکات علی الانماط مرتفعاً بدیر مران عندی ام کلثوم  
”جبکہ میں نے بلند ہو کر رنگ برنگ قالینوں پر تکیہ لگایا دیر مران میں اور میرے پاس (میری بیوی) ام کلثوم ہے“

امیر معاویہؓ کے کانوں تک ان اشعار کی آواز پہنچ گئی، یزید کے بھیجنے کی قسم کھالی، چنانچہ یزید کو ایک جمعیت کثیرہ کے ساتھ جس میں ابن عباسؓ، ابن عامرؓ ابن زبیرؓ ابو ایوب انصاریؓ بھی تھے، روانہ کیا ان لوگوں نے میدانِ جنگ میں پہنچ کر نہایت تیزی اور سختی سے لڑائی شروع کی، لڑتے بھڑتے قسطنطنیہ تک پہنچے، رومیوں نے قسطنطنیہ کی دیوار کے نیچے معرکہ آرائی کی، ان ہی معرکوں میں ابو ایوب انصاریؓ شہید ہو گئے، اور قسطنطنیہ کی شہر پناہ کی دیوار کے نیچے دفن کر دیے گئے، یزید اور شامی فوجیں شام کو لوٹ آئیں" (ترجمہ تاریخ ابن خلدون ج ۵ ص ۲۳، ۲۴)

غزوہ قبرص جو حضرت معاویہؓ کی قیادت و امارت میں ہوا، اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اس میں شریک ہونے والوں نے اپنے لئے جنت واجب کر لی (قد اوجبوا) اور یزید نے اپنے دور امارت و خلافت میں وہاں جو پارٹ ادا کیا، اور اسلامی شان و شوکت کو جس انداز سے نقصان پہنچایا اسے علامہ بلاذری نے بیان کر دیا ہے، اور جہاد قسطنطنیہ جس کے شرکاء کو زبان رسالت نے "مغفور لہم" کی بشارت دی، اس میں یزید نے اپنی صاحبزادگی کے زمانہ میں کس طرح شرکت کی، اسے علامہ ابن خلدون نے بیان کر دیا ہے،

مؤلف نے صفحہ ۲۱ سے صفحہ ۳۰ تک اور صفحہ ۳۱۰ سے صفحہ ۳۱۵ تک بڑی تفصیل کے ساتھ یزید کے جہاد قسطنطنیہ میں امیر ہونے، اور اس کی وجہ سے مغفور ہونے کو بیان کیا ہے، یزید کی مغفرت نہ ہونے کا کوئی قائل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخشے، اس کی رحمت اور اس کے رحم و کرم کو کون روک سکتا ہے؟ اور رحمت

خداوند ہی اور گنہ گار بندہ کے درمیان کے حائل ہونے کی مجال ہے؟  
 قرآن کی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف  
 کر سکتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ گناہ کرنے سے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا  
 ہو، مسلمان کافر نہیں ہوتا گناہ گار ہوتا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے چاہے  
 سزا دے، چاہے معاف کر دے، اگر اللہ تعالیٰ یزید کو سزا سے معاف کر دے تو کسی کا  
 اجارہ نہیں، اور اگر بقدر جرم سزا دے کر مغفرت کرے تب بھی کسی کو حرف گیری کا  
 حق نہیں، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ گار مسلمان کی مغفرت  
 ہوگی، اب یہ اس کے اور اللہ کے درمیان کی بات ہے کہ پوری سزا بھگتتے کے بعد یا  
 پہلے ہی، اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لے سکتا۔

بخاری شریف میں یہ حدیث متعدد مقامات پر آئی ہے، مثلاً کتاب الاستیذان کے  
 باب میں "من زار قومًا فقال عندہم" میں کتاب الجہاد کے باب غزوة المرأة فی  
 البحر میں، نیز کتاب الجہاد کے باب "من یصرع فی سبیل اللہ فمات  
 فہو منہم" میں باب "ما قیل فی قتال الروم" میں، اس حدیث کے الفاظ میں  
 بہت ہی کم اختلاف ہے، ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے  
 مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ۔

یقول اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا قالت ام حرام  
 قلت یارسول اللہ انا فیہم قال انت فیہم ثم قال النبی ﷺ اول جیش من  
 امتی یغزون مدینة قیصر مغفورلہم، قلت انا فیہم یارسول اللہ قال لا،  
 (بخاری کتاب الجہاد، باب، قیل فی قتال الروم)

(ترجمہ) "میری امت کا جو پہلا لشکر بحری جہاد کرے گا ان لوگوں نے اپنے اوپر



جنت کو واجب کر لیا ہے، ام حرام کھتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں ان میں سے ہونگی؟ آپ نے فرمایا ہاں تم ان میں سے ہو، پھر آپ نے فرمایا، میری امت کا جو پہلا لشکر قیصر کے شہر کا جہاد کرے گا ان لوگوں کے لئے مغفرت ہو چکی ہے، ام حرام کھتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں ان سے ہوں، تو آپ نے فرمایا، نہیں۔"

پہلا بحری غزوہ جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوا، اور حضرت معاویہؓ کی امامت میں ان کے اصرار سے ہوا، جس میں حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ساتھ شریک ہوئیں، اور قبرص میں اپنی سواری سے گر کر شہید ہوئیں، اور وہیں دفن ہوئیں، اس طرح رسول اللہ ﷺ کی پیشین گوئی اور بشارت ان کے حق میں خلافت عثمانی میں ظاہر ہوئی،

اور مدینہ قیصر یعنی قسطنطنیہ پر پہلی فوج کشی حضرت معاویہؓ کے دور خلافت و امارت میں یزید کی امارت و قیادت میں ہوئی، اس موقع پر حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کتاب الجہاد باب "ما قبل فی قتال الروم" میں مفصل بحث کی ہے اور اسی سلسلہ بحث میں لکھا ہے:-

" قال المهلب في هذا الحديث منقبة معاوية لانه اول من غذا البحر، ومنقبة لولده يزيد لانه اول من غذا مدينة قيصر، وتعقبه ابن التين و ابن المنير، بما حاصله انه لا يلزم من دخوله في ذالك العموم ان لا يخرج بدليل خاص، اذ لا تختلف اهل العلم ان قوله ﷺ

"مغفورلہم" مشروط بان یكونوا من اهل المغفرة حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقاً فدل على ان المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم واما قول ابن التين ان يكون لم يحضر فرمود الا ان يزيد، لم يباشر القتال فيمكن فانه كان امير ذلك الجيش بالاتفاق (فتح الباری ج ۶ ص ۷۸ طبع مصر)

(ترجمہ) "مہلب نے کہا ہے کہ اس حدیث میں معاویہؓ کی منقبت ہے، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے بحری جہاد کیا ہے، اور اسی طرح ان کے لڑکے یزید کی منقبت ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے مدینہ قیصر کا غزوہ کیا ہے، اور مہلب کے اس قول کا ابن التین اور ابن المنیر نے تعاقب کر کے اس پر اعتراض کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یزید کے اس عام حکم (مغفورلہم) میں داخل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ خاص دلیل کی وجہ سے نہ نکل سکے، رسول اللہ ﷺ کا قول "مغفورلہم" اس شرط سے مشروط ہے کہ وہ لوگ مغفرت کے اہل بھی ہوں، یہاں تک کہ جن لوگوں نے مدینہ قیصر کا جہاد کیا ہے ان میں سے کوئی آدمی بعد میں مرتد ہو جائے تو وہ اس حکم عام (مغفورلہم) میں باتفاق داخل نہیں ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد اس شخص کی مغفرت ہے جس کے اندر مغفرت کی شرط پائی جائے، اور ابن التین کا یہ کہنا کہ احتمال ہے کہ یزید حاضر نہ رہا ہو، غیر معتبر ہے، البتہ اس سے یہ مراد ہو کہ وہ قتال میں شریک نہیں ہوا تو ممکن ہے، اس لئے کہ یزید بالاتفاق اس لشکر کا امیر تھا۔"

مؤلف نے ص ۲۳ پر حاشیہ صحیح بخاری ج ۱ ص ۴۱۰ کے حوالہ سے محدث مہلب کا قول نقل کر کے ترجمہ کیا ہے:-

قال المهلب في هذا الحديث منقبة لمعاوية لانه اول من غزا البحر، و منقبة لو لده لانه اول من غزا مدينة قيصر

(ترجمہ) "اس حدیث کے بارے میں (محدث) مہلب نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث منقبت میں ہے حضرت معاویہؓ کے کہ انہوں نے سب سے پہلے بحری جہاد کیا، اور منقبت میں ہے ان کے فرزند امیر یزید کے کہ انہوں نے سب سے پہلے مدینہ قیصر (قسطنطنیہ) پر جہاد کیا،"

مؤلف نے اس موقع پر حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنیؒ کے مکتوبات سے ایک عبارت نقل کی، جس میں علمی خیانت سے کام لے کر درمیان سے کچھ جملے حذف کر دیئے۔

صفحہ ۲۹ پر ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمۃ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں:-

"یزید کو متعدد معارک جہاد میں بھیجنے اور جزائر بحر ابیض اور بلاد بایں ایشیائے کوچک کے فتح کرنے حتیٰ کہ خود استنبول (قسطنطنیہ) پر بڑی افواج سے حملہ کرنے وغیرہ میں آزمایا جا چکا تھا، تاریخ شاہد ہے کہ معارکِ عظیمہ میں یزید نے کاربائے نمایاں انجام دیئے تھے، -- (یہاں سے عبارت حذف ہے) -- خود یزید کے متعلق بھی تاریخی روایات مبالغہ اور آپس کے مخالف سے خالی نہیں"

درمیان سے جو عبارت مصنف نے حذف کر دی وہ یہ ہے۔

"اس کے فسق و فجور کا اعلانیہ ظہور ان (معاویہؓ) کے سامنے نہ ہوا تھا، اور خفیہ جو بد اعمالیاں وہ کرتا تھا اس کی اطلاع ان کو نہ تھی" (مکتوب شیخ الاسلام ج ۱ ص ۲۶۷)

اس کے بعد جو عبارت نقل کی ہے وہ اس جگہ کی نہیں ہے، بلکہ کسی دوسری جگہ سے لا کر جوڑ ملایا ہے۔

غزوة البحر میں یزید نے صاحبزادگی کے زمانہ میں جو کام کئے اور غزوة مدینہ قیسر میں شرکت و امارت جس انداز سے کی، اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ مشکل نہیں ہے کہ یزید بے حساب و کتاب "مغفور لہم" کی صف میں ہے یا اسے مجازات جزا و سزا سے نپٹنا بھی پڑے گا، اس میں شک نہیں کہ اس عموم میں یزید کی ذات بھی آتی ہے، بشرطیکہ کوئی بات اس سے مانع نہ ہو، ورنہ "عام مخصوص منہ البعض" کا معاملہ ہوگا، اور جس طرح -- "من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة" میں صرف زبان سے یہ کلمہ پڑھ لینا ہی دخول جنت کے لئے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی اہلیت کے لئے مزید چیزیں درکار ہیں، اسی طرح صرف "غزوة مدینہ قیسر" کی شرکت و امارت "مغفور لہم" میں داخل ہونے کے لئے کافی نہیں ہے، اس کے لئے اہلیت بھی ضروری مگر یزید کے اندر اس کی اہلیت ہے تو وہ یقیناً اس معنی میں "مغفور لہ" ہے کہ وہ صرف اسی ایک عمل کی وجہ سے بے حساب و کتاب مغفرت کا مستحق ہے، محدث مہلب نے اسی بات کو یزید کے بارے میں واضح کیا کہ وہ مستحق مغفرت ہے، مگر ان کے اس قول کے مقابلہ میں دو محدث ابن التین اور ابن المنیر نے کہا کہ اگر اس کے اندر اس کی

صلاحیت و اہلیت ہوگی تو وہ مستحق مغفرت ہے، ورنہ نہیں، پھر اہل سنت والجماعت اور اہل حق کے نزدیک کسی بھی شخص کے بارے میں، جنتی، مغفور یا دوزخی ہونے کا اعتقاد رکھنا اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ نص صریح سے اس کا ثبوت نہ ہو، کہ وہ خاص شخص جنتی یا دوزخی ہے، البتہ عام صفت اور عام حکم کی رو سے عام حکم لگایا جا سکتا ہے، کہ جو آدمی فلاں کام کرے گا وہ ایسا ہوگا، اس مذہب حق کی رو سے بھی کسی ایسے شخص کے بارے میں جنتی ہونے کا قطعی حکم نہیں لگایا جا سکتا جو کسی صفت عام کی رو سے اہل جنت میں داخل ہو سکتا ہے جیسے ہر لا الہ الا اللہ کہنے والے کو جنتی ہونے کا قطعی حکم لگانا صحیح نہیں ہے بلکہ اس کے بعد اس میں اہلیت و صلاحیت کا ہونا ضروری ہے،

مؤلف نے اس سلسلہ میں یزید کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وفات اور اسکی امامت کا تذکرہ کیا ہے، اور دوسرے شرکاء کی اس کی اقتدا میں نماز جنازہ ادا کرنے کی تصریح علامہ ابن کثیرؒ کی اس عبارت سے کی ہے، "وکان (ابو ایوب) فی جیش یزید بن معاویہ والیہ اوصی ہوالذی صلی علیہ" (ص ۲۷) جہاں تک یزید کے نماز جنازہ پڑھانے کا تعلق ہے وہ فضیلت یوں نہیں ہے کہ اسلامی قانون کی رو سے یزید کو نماز جنازہ پڑھانی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اس وقت امیر لشکر بنایا گیا تھا، اور امیر والی کی موجودگی میں کسی دوسرے کو شرعاً نماز جنازہ پڑھانے سے منع کیا گیا ہے الایہ کہ وہ حکم دے۔

اور جہاں تک علامہ ابن کثیرؒ کی تصریح کا تعلق ہے، مؤلف نے حسب عادت

اپنے ذوق کے مطابق سیاق و سباق کا لحاظ کئے بغیر ایک ٹکڑا لے لیا ہے چنانچہ مذکورہ بالا عبارت کے آخر میں علامہ ابن کثیرؒ نے لکھا ہے:-

قال حدثنا اسحق بن عيسى قال حدثني محمد بن قيس قاضي  
عمر بن عبدالعزيز عن ابي حرمة عن ابي ايوب الانصاري انه قال حين  
حضرتہ الوفاة قد كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله ﷺ  
سمعته يقول لولا انكم تذنبون يخلق الله قوماً يذنبون فيغفرهم وعندي  
ان هذا الحديث والذي قبله حمل يزيد بن معاوية على طرف من  
الارجاء ، وركب بسببه افعالا كثيرة انكرت عليه (البدايه والنهايه ج ۸ ص ۵۹)  
(ترجمہ) "امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ہم سے اسحق بن عیسیٰ نے بیان کیا کہ ہم  
سے عمر بن عبدالعزیز کے قاضی محمد بن قیس نے بیان کیا ابو حرمة سے، انہوں نے  
حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے کہ جب ابو ایوبؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں  
نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں سے ایک حدیث جسے میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا  
ہے، چھپائے ہوئے تھا، میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہ  
کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو پیدا فرماتا جو گناہ کرتی، اور اللہ اس کی مغفرت کرتا (علامہ  
ابن کثیر کہتے ہیں کہ) میرے نزدیک اس حدیث اور اس سے پہلے والی حدیث کی وجہ  
سے یزید جرمی ہو گیا، اور مغفرت کی امید پر اس نے ایسے بہت سے افعال کا ارتکاب کیا  
جو اس کی ملامت کا باعث بنے۔"

اس سے پہلے والی حدیث "من مات لا يشرك بالله شيئا جعل الله في  
الجنة" ہے، اسی طرح یزید نے حضرت معاویہؓ سے اپنے ولی عہد بننے کا اصرار کرتے  
ہوئے ایک حدیث بیان کی تھی، اور کہا تھا:-

"لانی وجدت فی الآثار من تقلد امر الامۃ ثلاثۃ ایام حرمہ علی النار،"

(ص ۶۲)

ہو سکتا ہے کہ ان روایات و احادیث کے ظاہری الفاظ نے یزید کو جیسا کہ علامہ ابن کثیر کا خیال ہے، مرجیہ کی صف اول میں کھڑا کر دیا ہو، اور اس نے اپنی بے راہ روی کی بنیاد ان ہی روایات پر رکھ کر اپنے کو جبری بنا لیا ہو بلکہ عین ممکن ہے کہ غزوہ مدینہ قیسر میں "مغفور لہم" ہونے کے خیال نے اور بھی جبری بنا دیا ہو، اور اس نے یہ سمجھ کر کہ لا الہ الا اللہ کہہ لینا دخول جنت کے لئے ضامن ہے، شرک پر اصرار نہ کرنا جنت کا پروانہ ہے، تین دن تک خلیفہ بن جانا بھی نار جہنم سے آزادی کے لئے کافی ہے اور اگر ہم لوگ گناہ کے کام نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو پیدا کر کے ان کی مغفرت کرے گا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ شہر قسطنطنیہ پر فوج کشی مغفرت عامہ کا سبب ہے، وہ سب کچھ کیا جو اسے نہ کرنا چاہیے تھے، اور مولف بھی یزید کو مغفور لہم میں داخل کر کے اسے بغیر کسی قسم کی باز پرس اور سزا کے براہ راست مغفرت اور جنت کا وارث بنا رہے ہیں، مولف کو بھی معلوم ہو گا کہ "ارجا" اور "مرجیت" نے بنو امیہ کے دور میں ان ہی حالات میں جہنم لیا، اور حکمرانوں کی خرابی کو برداشت کرنے کے لئے اس وقت کی سیاست نے یہ ذہن پیدا کیا، اور بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے رحمت و مغفرت کی "رجاء" اور امید کا نظریہ پیش کیا اور ہر طرح کے گناہ اور گناہ گار کو انگیز کر کے اس کے خلاف نفرت و حقارت کا جذبہ ختم کرنے کی کوشش کی، فرقہ مرجیہ کے استدلالات کا بھی یہی رنگ ڈھنگ ہے جس کا اظہار اس بحث میں کیا گیا ہے،

## حدیث ملک عضو

مؤلف کتاب ”خلافت معاویہؓ و یزیدؓ“ اپنی بے لاگ تحقیق اور ریسرچ کے چکر میں صرف ثقہ مورخوں کو ہی نہیں سب کچھ بنایا، بلکہ مشہور محدثین اور احادیث کے راویوں پر بھی ہاتھ صاف کیا، خاص طور پر امام ترمذی اور امام ابو داؤد رحمہما اللہ کے متعلق باور کرانے کی کوشش کی کہ ان حضرات نے اپنی کتابوں میں موضوع حدیثیں بیان کی ہیں اور وہ بھی حضرت معاویہؓ اور یزیدؓ کی مخالفت میں غلط اقدام کے مرتکب ہوئے ہیں اس سلسلے میں آپ نے فن اسماء الرجال اور فن جرح و تعدیل پر بھی دست درازی فرمائی ہے۔

مؤلف صفحہ ۳۳۷ پر یہ بیان کرتے ہوئے کہ حضرات شیخینؓ کا زمانہ علی منہاج النبوة تھا، اور اس کی برکات خلیفہ سوم حضرت عثمان ذی النورینؓ کے عہد خلافت تک باقی رہیں، لکھتے ہیں:-

”شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مقتل عثمانؓ سے فتنہ رونما ہونے کے بارے میں ”احادیث متواتر بالمعنی“ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ:-

دریں وقت خلافت علی منہاج النبوة منقطع شود، و ملک عضو پدید آید و معنی ملک عضو دلالت می کند بہر حروب و مقاتلات یکے بر دیگرے و منازعت یکے با دیگرے (ازالۃ الخفاء)

(ترجمہ) ”اس وقت خلافت علی منہاج نبوت منقطع ہو جائے گی، اور ملک عضو ظاہر ہوگا، اور ملک عضو کے معنی دلالت کرتے ہیں جنگوں اور قتالوں پر اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرنا، اور ایک کا دوسرے سے جھگڑنا۔“



چونکہ شہادت عثمان تک برکات خلافت کو ختم کر کے حضرت علی خلیفہ چہارم کے دور کو ناکام ثابت کرنا ہے، اس لئے اس حدیث کو شاہ ولی اللہ کے حوالے سے متواتر معنی مان کر بیان کیا گیا ہے، اور اسے نہ صرف صحیح بلکہ متواتر بالمعنی تسلیم کیا گیا اور واقعی یہ حدیث متواتر بالمعنی ہے۔ یہ حدیث اپنے الفاظ کے اعتبار سے مختلف طریقوں سے آئی ہے، مگر معنی اور مضمون سب کا ایک ہی ہے جو تواتر کی حد تک پہنچا ہے، پھر مولف نے صفحہ ۳۳۴ پر حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے برکات و خدمات کو انتہائی زور دار بیان سے ادا کیا، اور اس کے فضائل و مناقب کی طرف اشارہ کرنے کے بعد ترمذی اور ابو داؤد کی ایک حدیث کو موضوع قرار دینے کی جرأت کی، یہ حدیث وہی ہے جسے شاہ ولی اللہ صاحب کے حوالے سے آپ نے متواتر بالمعنی تسلیم کیا ہے، مگر چونکہ اس کے الفاظ سے آپ کا مقصد فوت ہو رہا تھا اور حضرت معاویہ کی خلافت و امارت اس حدیث میں داخل نہیں ہو رہی تھی، اس لئے آپ نے امام ترمذی اور امام ابو داؤد پر موضوع حدیث بیان کرنے کا الزام لگایا ہے اور فن جرح و تعدیل اور حدیث دانی کی وہ داد دی کہ سبحان اللہ آپ حضرت معاویہ کی امامت و خلافت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”اور وہ ”خلافت راشدہ“ کیوں نہ کہلائے کیا محض اس لئے اس کو ملک عضوض“ کا نام دیا جائے کہ خلیفہ راشد ”ازالہ مادہ مرض“ اور ”جلب صحت طبیعت عالم“ کی غرض سے ایسی تدبیر اختیار کرنے پر مجبور ہو، جس کو آج کی اصطلاح میں ”مارشل لا“ کہتے ہیں، اور وہ بھی ایک علاقہ سے فتنہ و فساد کے دفعیہ کے لئے ایک حدیث وضع کی گئی، یعنی رسول اللہ ﷺ سے یہ قول منسوب کیا گیا الخلافة فی امتی ثلاثون سنة ثم

ملک (ص ۳۳۴)

یہاں پر مناسب ہے کہ پہلے پوری حدیث بیان کر دی جائے سننِ ترمذی باب (ما جاء فی الخلافة) میں ہے:-

”حدثنا احمد بن منيع نا شريح بن نعمان نا حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان قال ثنى سفينة قال قال رسول الله ﷺ فى امتى ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك ثم قال لى سفينة امسك خلافة ابى بكر، ثم قال و خلافة عمر، و خلافة عثمان ثم قال امسك خلافة على فوجدناها ثلاثين سنة، قال سعيد فقلت له ان بنى امية يزعمون ان الخلافة فيهم قال كذبوا بنوا الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك وفى الباب عن عمر و على قالا لم يعهد النبى ﷺ فى الخلافة شيئاً وهذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان ولا نعرفه الا من حديثه“

(ترجمہ) ”امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم سے احمد بن منیع نے بیان کیا کہ ہم سے شریح بن نعمان نے بیان کیا کہ ہم سے حشرج بن نباتہ نے سعید بن جمہان سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سفینہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ خلافت میری امت میں تیس سال تک رہے گی، اس کے بعد ملک ہو جائے گی، یہ کلمہ کر سفینہ نے مجھ سے کہا، ابو بکر کی خلافت لو، پھر کہا اور عمر کی خلافت اور عثمان کی خلافت لو، پھر کہا علی کی خلافت لو تو ہم نے ان سب کی مدت تیس سال پائی سعید راوی کہتے ہیں کہ میں نے سفینہ سے کہا بنی امیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ خلافت ان کے اندر ہے تو سفینہ نے کہا بنو زرقاء (مروان) جھوٹ کہتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بدترین بادشاہوں سے ہیں، اس باب میں حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے

خلافت کے بارے میں کوئی بات نہیں فرمائی، یہ حدیث حسن ہے اسے سعید بن جہان سے کئی لوگوں نے روایت کیا ہے، اور ہم سعید کو اسی حدیث سے جانتے ہیں۔ اسی حدیث کو امام ابو داؤد نے اس طرح بیان کیا ہے:-

”حدثنا سوار بن عبد اللہ، ناعبد الوارث بن سعید عن سعید بن جہان، عن سفينة قال قال رسول اللہ ﷺ خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يوتى الله الملك من يشاء قال سعید قال لی سفينة امسک علیک ابا بکر سنتین ، و عمر عشرا. و عثمان اثنتی عشرة، و علی کذا قال سعید قلت سفينة ان هؤلاء يزعمون ان علیاً لم یکن بخلیفة، قال کذبت استاه بنی الزرقاء یعنی بنی مروان“

(ترجمہ) ”امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ہم سے سوار بن عبد اللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے سعید بن جہان سے، انہوں نے سفینہ سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ نبوت کی خلافت تیس سال تک ہے، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا، ملک دے گا، سعید کا بیان ہے کہ سفینہ نے مجھ سے کہا کہ ابو بکر کے دو سال لو اور عمر کے دس سال لو اور عثمان کے بارہ سال لو، اور علی کے اتنے سال لو سعید نے کہا کہ میں نے سفینہ سے عرض کیا کہ یہ لوگ (بنو مروان) کہتے ہیں کہ علی خلیفہ نہیں تھے، انہوں نے کہا بنو زرقاء یعنی بنو مروان جھوٹ کہتے ہیں۔“

ابو داؤد کی اسی حدیث کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے، اور اسے صحیح مانا ہے، اور کسی قسم کا کلام نہیں فرمایا، بلکہ ایک مقام پر فرماتے ہیں:-

”ونحن نقول خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم صارت ملكا كما ورد في الحديث“ (المنتقى ص ۲۸۱)

(ترجمہ) اور ہم کہتے ہیں کہ نبوت کی خلافت تیس سال ہے پھر خلافت ملوکیت بن گئی جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔

غور کرنے کی بات ہے کہ امام ابن تیمیہ جیسے علم و تحقیق کے بحر ذخار اور حضرت معاویہ اور یزید اور بنو امیہ کی طرف سے شیعوں کے مقابلہ میں مدافعت اور احادیث و آثار پر بے باکانہ خیالات ظاہر کرنے والے امام تو اس حدیث کو تسلیم کر کے بار بار ذکر کریں مگر مولف امام ابن تیمیہ سے بھی چار قدم آگے ہیں، اور چونکہ اس حدیث میں بنی مروان کی امارت و خلافت کو نبوت کی خلافت نہیں تسلیم کیا جا رہا ہے، اور زبان رسالت کی رو سے حضرت معاویہ کا دور خلافت کے تحت نہیں آتا، اور حضرت سفینہ مولیٰ رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث کی شرح میں کھل کر بنی مروان پر تنقید کی، اور ان کے اس دعویٰ کو کہ حضرت علی خلیفہ نہیں ہیں، غلط کہہ کر خود ان کو شر الملوک کہا ہے، اس لئے رسول اللہ ﷺ کی بیان کی ہوئی یہ حدیث موضوع ہوئی ہی چاہئے، بلا سے امام ترمذی اور امام ابو داؤد پر موضوع حدیث بیان کرنے کا الزام آئے، اور بلا سے اس حدیث کے راویوں کی عدالت و ثقاہت خاک میں مل جائے، مگر مولف، خلافت معاویہ و یزید کی بات اونچی ہی رہنی چاہئے، اور رہی حدیث جو حضرت علی کے دور خلافت کو ناکام ثابت کرنے کے سلسلے میں متواتر بالمعنی تسلیم ہو چکی ہے، اگر وہی حضرت معاویہ اور یزید کے زمانہ کے خلاف پڑے اور اس سے ان کی خلافت و امامت علی منہاج النبوة ثابت نہ ہو سکے تو اس سے انکار کر دینا چاہئے، حدیث رسول ﷺ کے بارے میں یہ روش نہایت شرمناک ہے،

اللآلی المصنوعة فی الاحادیث الموضوعة "سیوطی" موضوعات ملا علی قاری  
موضوعات "علامہ طاہر گجراتی"۔ موضوعات مقدسی موضوعات صنعانی لابوری وغیرہ  
چھپ کر عام طور سے ملتی ہیں اور موضوع اور جعلی حدیثوں کے پرکھنے میں کام آتی ہیں  
ان کتابوں میں حدیث کے اماموں نے موضوع احادیث کو جمع کر دیا ہے، کیا مولف ان  
کتابوں میں سے کسی کتاب میں "الخلافۃ بعدی" والی حدیث کو موضوع یا ضعیف دکھا  
سکتے ہیں؟

اس حدیث کو موضوع بتانے کی جرأت آپ کو "العواصم من القواصم" کے حاشیہ  
سے یا پھر "المنتقى" کے صفحہ ۷۵ کے حاشیہ سے ہوتی ہے، جس میں محشی نے اپنے کو  
شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے بھی دو قدم آگے سمجھا ہے، اور اس حدیث کی غیر منطقی  
تاویل کر کے اس۔۔۔ کے رواۃ پر کلام کیا ہے مگر ہمارے محقق تو اپنے پیش رو کی تقلید  
بھی نہ کر سکے اور اس کی چال میں اپنی چال بھی بھول گئے، اس راز کو صیغہ راز ہی میں رہنا  
بہتر ہے۔

## حشر بن نباتہ کوفیؓ

مؤلف اس حدیث کے موضوع ہونے کی پہلی وجہ یہ بیان کرتے ہیں،  
 اول تو اس کے راوی حشر بن نباتہ الکوفی تقریباً تمام آئمہ رجال کے نزدیک  
 ضعیف الحدیث اور لا یحتج بہ ہیں منکر الحدیث ہیں" (ص ۶۲۶)

جن آئمہ رجال کے نزدیک حشر بن نباتہ کوفی ضعیف الحدیث لا یحتج بہ، اور  
 منکر الحدیث ہیں۔ ان میں سے کم سے کم دو چار کے نام تو بیان فرمائیے، اور ان کتابوں  
 کی نشان دہی کیجئے، جن میں حشر کو یہ سب کچھ کہا گیا ہے، یہ حشر بن نباتہ کوفی تو  
 جرح و تعدیل کے اماموں کے نزدیک ثقہ، صالح اور لا باس بہ ہیں، امام ابن ابی حاتم رازی  
 نے "کتاب الجرح والتعدیل" میں ان کا تذکرہ یوں فرمایا ہے۔

حشر بن نباتة الا شجعی کوفی روی، عن سعید بن جمہان،  
 روی عنه ابو نعیم و ابو الولید و شجاع بن الاشرس سمعت ابی یقول  
 ذالک، حدثنا عبدالرحمن، نامحمد بن حمویہ، بن الحسن قال سمعت،  
 اباطالب قال سالت احمد بن حنبل عن حشر بن نباتة فقال کوفی،  
 ثقة، حدثنا عبدالرحمن قال ذکره ابی عن اسحاق بن منصور عن یحییٰ  
 بن معین، قال حشر بن نباتة صالح، حدثنی عبدالرحمن قال سئل  
 ابوزرعة عن حشر بن نباتة وقال لاباس به حدیثہ مستقیم،  
 هو واسطی، سمعت ابی یقول حشر بن نباتة صالح یکتب حدیثہ ولا  
 یحتج، (کتاب الجرح و التعدیل ج ۱ قسم دوم ص ۳۲۶)

(ترجمہ) حشر بن نباتہ اشجعی کوفی ہیں، انہوں نے سعید بن جمہان سے روایت  
 کی ہے، اور ان سے ابو نعیم اور ابو الولید اور شجاع بن اشرس نے روایت کی ہے، یہ

میں نے اپنے والد سے سنا ہے ہم سے عبدالرحمن نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن حمویہ بن حسن نے بیان کیا کہ ابوطالب کا بیان ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے حشر بن نباتہ کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا وہ کوئی نہیں، ثقہ ہیں، اسحاق بن منصور کی روایت یحییٰ بن معین سے ہے کہ حشر بن نباتہ صلح ہیں، امام ابو زرہ سے حشر بن نباتہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ ان سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ان کی حدیث مستقیم ہے، وہ شہر واسط کے رہنے والے ہیں، میں نے اپنے والد (ابوحاتم رازی) سے سنا ہے کہ حشر بن نباتہ صلح ہیں، ان کی حدیث لکھی جائے اور اسے حجت نہ بنایا جائے۔

اس بیان میں تمام ائمہ فہم رجال امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، اور امام ابو زرہ رحمہم اللہ نے حشر کو ثقہ اور صلح ثابت کیا ہے، صرف امام ابو حاتم رازی نے ان کو "صلح یکتب حدیثہ" (یعنی وہ صلح ہیں، ان کی حدیث لکھی جائے) کے ساتھ "لا یحتج" فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کسی حدیث میں منفرد ہوں، اور اس کے راوی دوسرے لوگ نہ ہوں تو ان کی اس حدیث کو حجت نہ بنایا جائے، کیا ایک امام ابو زرہ تمام ائمہ رجال ہیں جن کے نزدیک حشر سے احتجاج جائز نہیں ہے، پھر امام ابو زرہ کا یہ قول جیسا کہ ہم نے بتایا، ان احادیث کے بارے میں ہے، جن میں حشر منفرد ہوں، اور "الخلافۃ بعدی" والی حدیث کو ایک جماعت نے بیان کیا ہے جیسا کہ امام ترمذی نے فرمایا ہے "قد رواہ غیر واحد عن سعید بن جہمان" چنانچہ ابو داؤد میں یہ حدیث حشر بن نباتہ کے بجائے سعید بن جہمان سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کی ہے، فرمائیے عبدالوارث بن سعید کے بارے میں کیا ارشاد ہے، نیز اس حدیث کے دیگر راویوں کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟

نیز امام ابن حجر نے "تہذیب التہذیب" میں حشر بن نباتہ کو فحی کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ان سے بقیہ بن مخلد یونس المودب، عبد اللہ بن مبارک، ابو داؤد طیالسی، ابو الولید طیالسی، شریح بن نعمان جوہری، بشر بن ولید کندی، یحییٰ عمافی اور دوسرے لوگوں نے روایت کی ہے،

ان تمام راویوں، اور اماموں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، کیا انہوں نے ضعیف، منکر الحدیث اور لایحجج سے روایت کی ہے؟ حافظ ابن حجر نے بھی ان ہی اماموں کے ان ہی اقوال کو حشر کے بارے میں نقل کیا ہے۔

### حضرت سفینہؓ اور سعید بن جہانؓ

مؤلف نے اس حدیث کو موضوع ثابت کرنے کی دوسری وجہ یہ لکھی ہے:-  
 ”یہ حشر سعید بن جہان بصری سے روایت کرتے ہیں جن کی وفات ۱۳۶ ھ میں ہوئی، اور حضرت سفینہ کا انتقال ۷۴ ھ میں ہوا، ان دونوں کے سنین وفات میں ۶۲ برس کا فرق ہے“ (ص ۳۴۴)

آپ کا مطلب یہ ہے کہ سعید بن جہان اور حضرت سفینہؓ مولیٰ رسول اللہ ﷺ میں لقاء نہیں ہے اور سعید نے ان کا زمانہ پایا ہی نہیں، کیونکہ دونوں کے سنین وفات میں بڑا فرق اور فصل ہے، آپ کے اس مفروضہ کی بنا پر محمد بن المنکدر کی وفات چونکہ ۱۳۰ ھ یا ۱۳۱ ھ میں ہوئی، لہذا حضرت سفینہؓ سے ان کی روایت بھی صحیح نہیں ہونا چاہئے، حالانکہ تمام محدثین اسے تسلیم کرتے ہیں۔

اسی طرح ائمہ رجال نے حضرت سفینہ سے سعید بن جہان کے روایت کرنے کی تصریح کی ہے، اور وہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ظاہر کرتے، حافظ ابن حجر "تہذیب التہذیب" میں حضرت سفینہؓ کے حال میں لکھتے ہیں:-



روی عنہ ابناہ عبدالرحمن و عمر وسعيد بن جهمان و ابو ريحانة،  
وسالم بن عبدالله بن عمر وعبدالرحمن بن ابي نعيم، والحسن البصري  
وغیره ( تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۱۲۵ )

(ترجمہ) " حضرت سفینہ سے ان کے دونوں لڑکوں عبدالرحمان اور عمر، اور سعید  
بن جہمان، ابوریحانہ، سالم بن عبداللہ بن عمر، عبدالرحمن بن ابونعیم، اور حسن بصری  
وغیرہ نے روایت کی ہے "

حافظ ابن عبدالبراند لسی قرطبی الاستیعاب " میں لکھتے ہیں :-

وتوفی سفینة فی زمن الحجاج، روی عنہ الحسن، ومحمد بن  
المنکدر، وسعید بن جهمان، ( الاستیعاب ج ۲ ص ۶۰۱ )

(ترجمہ) "سفینہؓ نے حجاج کے زمانہ میں وفات پائی، ان سے حسن بصری محمد بن  
منکدر اور سعید بن جہمان نے روایت کی ہے "

اسماء الرجال کے ائمہ رجال ورواة کے موالید ووفیات کے بارے میں آپ سے  
زیادہ واقف ہیں، اور اسماء الرجال میں پیدائش اور وفات کے سنیں پر ان کی نظر بہت  
کڑھی ہوتی ہے، آپ مقدمہ ابن الصلاح، معرفتہ علوم الحدیث للحاکم وغیرہ مطالعہ فرماتے  
تو معلوم ہوتا کہ ان کے علم و خبر کے سامنے آپ کے اس قسم کے احتمال کی کیا  
حیثیت ہے ؟

اس کے بعد آپ اس حدیث کو موضوع بنانے کی تیسری وجہ بیان کرتے ہیں :-  
" پھر یہ سعید تو بصرہ کے رہنے والے تھے، اور حضرت سفینہؓ مدنی ہیں اور وہیں ان  
کی وفات ہوئی، انہوں نے یہ حدیث ان سے کب اور کیوں کر کہاں سنی؟ حضرت  
سفینہؓ کے علاوہ اور کسی صحابی کا ایسی حدیث کا جو نظام خلافت کو صرف تیس برس تک

قائم رہنے کی پیش گوئی کرے، روایت نہ کرنا ہی اس کے وضعی ہونے کا بین ثبوت ہے (ص ۳۴۵)

تب تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حضرت سفینہؓ سے امام حسن بصریؒ نے بھی روایت نہیں کی، اور یہی تمام سوالات سامنے آکر بصرہ کے رہنے والے حسنؒ کو مدینہ کے رہنے والے سفینہؓ سے روایت کرنے سے روک دیں گے،

نیز اس زمانہ میں پورے عالم اسلام میں جو علمی اور دینی اسفار و رحلات ہوتے تھے وہ سب غلط اور جھوٹ ہو جائیں گے، نہ اندلس کے یحییٰ بن یحییٰ نے مدینہ منورہ کے امام مالک کی شاگردی کی نہ امام بخاری نے اپنے زمانے کے عالم اسلام کے علماء سے علم حاصل کیا، اور نہ ان سے دنیا کے مختلف ممالک کے تقریباً نوے ہزار علماء نے ان کی کتاب صحیح بخاری پڑھی، کہاں بغداد، کوفہ، بصرہ، مدینہ، مکہ، اور کہاں بخارا، خراسان، سندھ، نیشاپور، ہرات، سمرقند، کاشغر، افریقہ، اندلس، اور شام؟

بجلا ان مقامات کے لوگوں نے ایک دوسرے کے علوم و فنون کب اور کیونکر اور کہاں حاصل کئے ہونگے؟ ناظرین فیصلہ کریں کہ اس قسم کی باتیں کرنے والے علم و تحقیق کے معیار پر کہاں تک پورے اتر سکتے ہیں؟

آپ نے فرمایا کہ اور کسی صحابی نے ایسی روایت نہیں کی اور یہ بھی اس کے وضعی یعنی موضوع ہونے کا بین ثبوت ہے، گویا ہر وہ حدیث جو کسی خاص امر سے تعلق رکھے، اور اس کے راوی صحابہ کرامؓ میں زیادہ نہ ہوں، وہ موضوع ہونی چاہئے۔ پھر آپ "ملک عضوض" والی حدیث کو حضرت شاہ ولی اللہ کے حوالے سے متواتر بالمعنی تسلیم کر کے نقل کر چکے ہیں، (ص ۳۳۳) اگر اس کے راوی صرف حضرت سفینہؓ ہی ہوتے تو متواتر بالمعنی کا اطلاق اس پر کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ چونکہ آپ کے علم میں یہ حدیث ان

الفاظ کے ساتھ صرف حضرت سفینہؓ کے یہاں ملی ہے اس لئے دیگر حضرات کے روایت کرنے کو نہیں جانتے، یہ بات اور اس قسم کی علم حدیث و رجال کی باتیں اس وقت معلوم ہوں گی جب آپ حدیث و رجال کی کتابیں پڑھیں گے۔

### حضرت امام احمد بن حنبلؓ اور حدیث سفینہؓ

اہل سنت والجماعت کے مشہور و مسلم امام حضرت امام احمد بن عبد اللہ بن حنبلؓ شیبانی رحمہ اللہ کی ذات دین و دیانت اور تمک بالسنۃ میں جو مقام و مرتبہ رکھتی ہے، اس سے ہر مسلمان واقف ہے، دیکھئے حضرت امام حدیث سفینہؓ کو جس طرح حجت و قابل استناد قرار دیتے ہیں، اور اس ”سید المسلمین فی الحدیث“ نے اس حدیث کو کیا درجہ دیا ہے؟ حضرت امام ابن جوزیؒ جیسے ناقد حدیث اور جرح و تعدیل میں سخت محدث نے اپنی کتاب ”مناقب امام احمد بن حنبل“ میں اپنی سند سے روایت کی ہے کہ محدث یعقوب بن اسحاق بغدادی کا بیان ہے کہ امام احمد سے تفضیل صحابہؓ کے بارے میں سوال کیا گیا:-

فقال علیٰ حدیث ابن عمر، ابو بکر، وعمر و عثمان، والخلافة  
علی حدیث سفینة ابو بکر، و عمر و عثمان، وعلی، فقال له من ساله  
هذا حشرج، فقال، لا، حماد بن سلمة یعنی ان حماد بن سلمة و  
حشرج بن نباتة رویا هذا الحدیث حدیث سفینة، و فی حشرج غمض،  
و حماد بن سلمة امام (مناقب الامام احمد صف ۱۵۹ صف ۱۶۰ طبع مصر)

تو آپ نے کہا کہ حضرت ابن عمر کی حدیث کے مطابق افضل صحابہ ابو بکر، عمر، اور عثمان ہیں، اور خلیفہ حدیث سفینہ کی رو سے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی ہیں، سائل

نے کہا کہ اس روایت میں حشرج میں تو آپ نے فرمایا نہیں، حماد بن سلمہ بھی ہیں، یعنی حماد بن سلمہ اور حشرج بن نباتہ دونوں ہی نے اس حدیث سفینہ الخلفاء بعدی ثلاثون سنتہ کی روایت کی ہے، اور حشرج میں کچھ عیب ہے تو حماد بن سلمہ تو امام حدیث ہیں،

حضرت امام احمد بن حنبل نے چاروں خلفاء کو ثابت کرنے کے لئے حدیث سفینہ کو حجت بنایا ہے، اور حشرج راوی کے ضعف کو اس حدیث کے دوسرے راوی امام حماد بن سلمہ کی امامت کی وجہ سے حدیث کی قطعیت میں خارج نہیں مانا ہے، ناظرین کرام فیصلہ کریں کہ حدیث سفینہ کے بارے میں امام الفقہاء سید المحدثین اور حجة الاسلام امام احمد بن حنبل کا قول معتبر و مستند مانا جاوے گا یا مولف خلافت معاویہ و یزید کی حدیث دانی پر اعتماد کر کے اس بے غبار حدیث کو جعلی، وضعی اور موضوع سمجھا جائے گا؟

ممکن ہے اس عبارت میں لفظ "یعنی" کے بعد کی تصریح کو کوئی شخص امام ابن جوزی یا سائل یا اور کسی کی تشریح و توضیح کہے، اور اسے امام احمد کا مقولہ نہ قرار دے، مگر سیاق و سباق سے اس کی گنجائش نہیں ہے پھر اگر ایسا ہو بھی تو امام صاحب کا اس حدیث کو خلفائے اربعہ کے بارے میں حجت قرار دینا اور حشرج کی توثیق کے لئے امام حماد بن سلمہ جیسے مسلم امام الحدیث کو اس حدیث کے راویوں میں مان کر حشرج کے ضعف کی پرواہ نہ کرنا، اور ہر حال میں حدیث سفینہ کو استدلال میں پیش فرمانا اس حدیث کے صحیح اور قابل حجت ہونے کو ثابت کرتا ہے اگر مولف کتاب "خلافت معاویہ و یزید" کو احادیث پر کلام کرنے کا شوق تھا تو پہلے کچھ اس کی تیاری فرمالتے اور علم الحدیث اور علم الرجال سے واقفیت حاصل کر لیتے،

## بخاری کی دو حدیثیں

خلافت بنی امیہ اور حضرت معاویہؓ اور یزید کی امامت و خلافت کو خلافت راشدہ ثابت کرنے کے لئے آپ نے سارا زور خرچ کیا اور اس کے لئے تاریخوں کا ستیاناس کیا، اور احادیث کو موضوع اور راویوں کو مجروح بتایا، حالانکہ اگر آپ کے پاس صاف ستھر اداغ اور جیتنا جاگتادل نہوتا تو آپ صحیح روایات و احادیث کو تسلیم کرتے ہوئے ان کا کوئی محل اور محل تلاش کرتے، اور علم و تحقیق کی روشنی میں تمام روایات صحیحہ ثابتہ کو اپنے محل و معنی پر لا کر کوئی اچھی راہ پیدا کرتے،

آپ ترمذی اور ابو داؤد کی "الخلافۃ بعدی" والی حدیث ہی کو کیوں موضوع اور جعلی قرار دیتے ہیں اور امام ترمذی اور امام ابو داؤد اور ان کے راویوں ہی کو کیوں مجروح ثابت کرتے ہیں؟ امام بخاری کی بھی خبر لیجئے، اور ان پر بھی جعلی و موضوع حدیث نقل کرنے کا الزام لگائیے، (۱) انہوں نے صحیح بخاری میں باب التعاون فی بناء المسجد میں حضرت ابو سعید سے روایت کی ہے۔

كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين ، لبنتين فرآه النبي ﷺ فجعل ينفذ التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار قال يقول عمار اعوذ بالله من الفتن (بخاری) (ترجمہ) "مسجد نبوی کی بناء کے وقت ہم لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا کر لاتے تھے، اور عمار بن یاسرؓ ایک ساتھ دو دو اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے، رسول اللہ ﷺ نے ان کو دیکھا تو آپ ان کے غبار جھاڑنے لگے، اور فرمانے لگے ہائے عمار ان کو باغی گروہ قتل کرے گا، یہ ان کو جنت کی دعوت دیں گے۔ اور وہ ان کو جہنم کی دعوت دیں گے راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمار کہتے تھے کہ میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔"

فرمائیے، حضرت عمارؓ حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ دونوں میں سے کس کی طرف تھے، اور کس گروہ نے ان کو قتل کیا ہے؟ صحابی رسول ہونے کے ذاتی مناقب و فضائل سر آنکھوں پر، مگر فتنہ باغیہ (باغی گروپ) کون تھا، جسے زبان رسالت بتا رہی ہے کہ وہ آگ کی طرف دعوت دے گا، اور حضرت عمارؓ سے جنت کی دعوت دیں گے، اور وہی فتنہ "باغیہ" ان کو قتل کرے گا۔

(۲) مؤلف نے صفحہ ۲۳۲ پر بخاری کے باب اذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه سے حضرت ابن عمرؓ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس کے مقابلہ میں یہ واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہے یا نہیں،

عن ابى المنهال قال لما كان ابن زياد و مروان بالشام، و وثب ابن الزبير بمكة و وثب القراء بالبصرة، فانطلقت مع ابى الى ابى برزة الاسلمى حتى دخلنا عليه فى داره وهو جالس فى ظل عليه له من قصب فجلسنا اليه فأنشأ ابى يستطعمه بالحديث، فقال يا ابا برزة الاترى، ما وقع فيه الناس فاول شئى سمعته تكلم به انى احتسبت عند الله انى اصبحت ساخطاً على احياء قريش انكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذى علمتم من الذلة والقله والضلالة، وان الله انقذكم بالاسلام، و بمحمد ﷺ حتى بلغ بكم ماترون وهذه الدنيا التى افسدت بينكم، ان ذاك الذى بالشام والله ان يقاتل الاعلى الديننا (بخارى كتاب الفتن)

(ترجمہ) "ابو المنہال سے مروی ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور مروان بن حکم شام میں حکمران ہوئے، اور عبد اللہ بن زبیرؓ نے مکہ میں اور قراء (علماء) کی جماعت نے بصرہ

مؤلف "خلافت معاویہ و یزید" نے امام ابو بکر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کتاب العواصم من القواصم کی دل کھول کر تعریف کی ہے، اور اسی کتب کے حواشی سے جسے شیخ محب الدین الخطیب ناشر نے نہایت احتیاط و تحقیق سے مرتب کر کے پوری کتاب پر اس طرح لکھا ہے کہ یہ حواشی کتاب سے کسی گنا زیادہ ہیں۔ مؤلف نے اپنی پوری کتاب مرتب کی ہے، اور اکثر و بیشتر حوالہ جات تک اسی سے نقل کئے ہیں، اہل علم خلافت معاویہ و یزید۔ اور العواصم من القواصم کو سامنے رکھ کر مقابلہ کریں تو اصل حقیقت سامنے آجائے، اور مؤلف کی تحقیق اور ریسرچ کا وزن معلوم ہو جائے، ہم دونوں کے تقابل و موازنہ کے لئے اس لئے صفحات کے حوالے درج نہیں کرتے کہ مؤلف کی پوری کتاب ہی العواصم کے حواشی سے ماخوذ ہے اور محشی کی کاوش کو اپنی تحقیق ثابت کرنے کی بے سود کوشش کی گئی ہے، محشی نے ہر جگہ بڑھی احتیاط سے موافق و مخالف ماخذ و مصادر کی نشان دہی کر کے اپنے رجحان کو اس طرح ظاہر کیا ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے، مگر مؤلف نے اپنے خاص مقصد کے موافق ان کو اپنے رنگ میں پیش کیا ہے، اور بے سرپیر کی باتیں کی ہیں، نیز شیخ محب الدین خطیب نے امام ابن تیمیہ کی کتاب کے خلاصہ۔ المننتی "کو تقریباً ان ہی حواشی کے ساتھ شائع کیا ہے۔

اور حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ کی شہرہ آفاق کتاب تحفہ اشنا عشریہ کے عربی خلاصہ کو بھی اسی طرح کے حواشی کے ساتھ شائع کیا ہے، اور ان تینوں کتابوں کے حواشی قریب قریب ایک ہی ہیں اور اہل علم و نظر کے سامنے یہ باتیں رکھ کر ان کی تحقیق کی خواہش کی ہے، مگر مؤلف کتاب "خلافت معاویہ و یزید العواصم من القواصم" اور "المننتی" اور ہو سکتا ہے کہ "مختصر تحفہ اشنا عشریہ" کے ان ہی حواشی کو لے اڑے، اور

ان کو اپنی طرف سے زیسرج اور تحقیق کا نام دے کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔  
 کتاب "العواصم من القواصم" ۱۳۴۷ھ میں جزائر کے شہر قسطنطنیہ میں دو  
 جلدوں میں چھپی تھی، جس میں نسخ و طباعت کی بہت سی غلطیاں تھیں اور اوراق ادھر  
 ادھر تھے؛ جس سے مضامین خلط ملط ہو گئے تھے، شیخ محب الدین الخطیب نے  
 ۱۳۷۱ھ میں مصر میں اس کا صرف دوسرا حصہ جو صف ۹۸ سے صف ۱۹۳ تک  
 ہے چھاپا، اور اس پر حواشی لکھے، اور اپنی کوشش بھر ان کی غلطیاں درست کیں اور  
 سیاق و سباق کو دیکھ کر اوراق درست کئے، (مقدمہ صف ۸، ۹)

ہمارے پاس جو نسخہ ہے وہ العواصم کا ایک حصہ ہے، جس میں پہلے نسخی و  
 مطبعی غلطیاں اور بے ترتیبی موجود تھی، اور محشی و ناشر نے اپنی وسعت بھر ان کو  
 درست کیا، اس کے بعد بھی ممکن ہے کہ اغلاط رہ گئی ہوں، اور مضامین و ترتیب میں  
 فرق باقی ہو۔

پھر امام قاضی ابو بکر بن عربی مالکی اندلسی نے اپنی جلالت شان اور علمی و دینی  
 امامت کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب غلبہ حال کے اس دور میں لکھی ہے۔  
 جبکہ اندلس سے لے کر مصر و بغداد تک رفض و تشیع میں بحران پیدا تھا، خاص طور سے  
 بغداد شیعہ سنی اکسٹارہ بنا ہوا تھا، اسی زمانہ میں قاضی ابو بکر بن عربی نے مشرقی ممالک  
 کا سفر کیا افریقہ سے لے کر بغداد و دمشق تک کے حالات دیکھے، نیز اندلس میں مخالفانہ  
 ہنگاموں میں زندگی بسر کی اور علمی و دینی زندگی کے ساتھ ساتھ سرکاری اور سیاسی  
 ہنگاموں میں رہ کر سرد و گرم حالات کا مقابلہ کیا اسی لئے وہ اس تصنیف میں بعض  
 ایسی باتیں بیان کر گئے ہیں جو ان کے تفردات کی حیثیت رکھتی ہیں، نیز بہت ممکن  
 ہے کہ ان کی اس کتاب میں بعد میں یاوں نے حک و اضافہ سے کام کیا ہو، جیسا کہ



الجزائروالے قدیم مطبوعہ نسخہ کی مطبعی غلطیاں اور اوراق کے خلط ملط ہونے سے اس کا گھمان ہوتا ہے۔ اس کتاب میں حضرت حسینؑ کو رسول کی شریعت کی رو سے واجب القتل ہی نہیں لکھا ہے بلکہ اور بھی ایسی باتیں ہیں جو امام قاضی ابو بکر بن العربی کی جلالت شان سے بعید معلوم ہوتی ہیں، اور اگر وہ باتیں ان ہی کی ہیں تو غلبہ حال کی وجہ سے ان کے تفردات میں ان کا شمار ہوگا۔

ہم اس کتاب سے چند نمونے پیش کر سکتے ہیں اور نہیں کہہ سکتے کہ یہ خیالات قاضی ابو بکر بن عربی کے ہیں یا نہیں محشی نے تو اپنے حواشی میں جگہ جگہ غلطیاں درست کی ہیں، اور مناسب انداز میں ان کی بعض تصریحات کے خلاف باتیں بیان کر دی ہیں۔

امام قاضی ابو بکر بن عربی مالکؒ غلبہ حال کی وجہ سے العواصم میں جگہ جگہ مورخوں کو مورد طعن قرار دیتے ہوئے ثقہ اور مستند علمائے تاریخ و رجال کو بھی برے القاب دیتے گئے ہیں، اور محشی کو ان کا جواب دینا پڑا ہے، چنانچہ صفحہ ۶۰ پر حضرت عثمانؓ کی شہادت کے سلسلے میں لکھتے ہیں،

وکل ما سمعت من خبر باطل ایاک ان تلفت الیہ.

خبر داتمہر باطل کو سن کر اس کی طرف توجہ نہ کرنا۔

اس پر محشی اسلامی تاریخ کی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تاریخ میں ہر گروہ کی خبروں کا معیار اس کے ماخذوں پر وثوق ہے، اور جن لوگوں کی طرف وہ خبریں منسوب ہیں ان کے حالات کو دیکھنا ہے، اسلامی تاریخ کی خبریں ان لوگوں سے نقل کی گئی ہیں جو واقعات میں حاضر تھے، انہوں نے بعد والوں کے لئے عینی مشاہدات نقل کئے، ان میں کچھ اصحاب اغراض نے دوسروں کی زبانی خبروں میں

جھوٹ ملا کر کتابوں میں رائج کر دیا، یہ کام انہوں نے بعض اہل دنیا سے تقریب کے لئے کیا، یا کسی ایسے تعصب کی وجہ سے کیا جسے وہ دین سمجھتے تھے، اس کے باوجود اسلامی تاریخ کی خصوصیت یہ ہے کہ علماء کی ایک بڑی جماعت نے روایتوں اور راویوں کے بارے میں نقد کیا، اور کاذبین سے صادقین کو الگ کیا، اور علم تنقید ایک نہایت ہی محترم و معیاری علم بن گیا، جس کے قوانین و قواعد ہیں، اور اس علم میں کتابیں لکھی گئیں، راویوں کے حالات و تراجم میں بڑی بڑی معاجم و معابد کی تالیف ہوئی، جن میں ہر راوی ہی کے صدق تثبت اور امانت کو بیان کیا گیا ہے، نیز اگر کسی راوی میں ایسی جماعتی یا مذہبی عصبیت تھی، جس کی وجہ سے وہ باطل کی طرف جھک گیا تو علمائے نقد و جرح نے اسے بھی اس کے تذکرہ میں بیان کر دیا، تاکہ ایسے لوگوں کی تاریخ پڑھنے والا اس تاریخ کے قومی و ضعیف ہونے کے طریقوں سے واقف ہو اور جو لوگ ان باتوں میں کمال نہیں حاصل کرتے، خاص طور سے راویوں کے نقد اور ان کی عدالت و جرح کے بارے میں علماء کی تحقیقات سے غافل رہتے ہیں، وہ اسلامی تاریخ اور کتابوں کی تصنیف پر اترتے ہیں تو ایسی غلطی میں پڑ جاتے ہیں کہ اس میں نہ پڑنا ان کے امکان میں ہوتا، بشرطیکہ وہ تاریخ پر قلم اٹھانے سے پہلے ان کو مکمل کر لیتے، (حاشیہ صفحہ ۶۰، ۶۱)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محشی نے یہ حاشیہ مؤلف کتاب خلافت معاویہ و یزید کے لئے لکھا ہے، اگر وہ اس مشورہ پر عمل کرتے تو اپنی کتاب میں کام کی باتیں جمع کرتے،

"قاصۃ الشکیم" کے واقعات بیان کرنے کے بعد قاصدہ کے ماتحت لکھتے ہیں۔

وانما هو شيء اخبر عنه المبتدعة ووضعتہ التاريخیة للملوك

فتوارثه اهل المجانة والجهارة بمعاصی اللہ والبدع (صف ۷۷)

یہ وہ چیز ہے جس کی خبر بدعتیوں نے دی ہے، اور جسے بادشاہوں کے لئے تاریخ نگری گروہ نے وضع کیا ہے، اور اسے بے حیا اور کھلم کھلا معاصی و بدعات کرنے والے لوگ وراثت میں پاتے رہے،

مثنیٰ نے اس مقام پر ایک طول و طویل حاشیہ لکھا ہے، جس میں اسلامی تواریخ کے بارے میں نہایت قیمتی بات درج کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے،

اسلامی تاریخ کی تدوین کی ابتدا بنی امیہ کے زوال پر ایسی حکومتوں کے قیام کے بعد ہوئی، جن کے حکمران اپنے مقابلہ میں ماضی کے مفاضر اور اس دور کے لوگوں کے محاسن بیان کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس حال میں تین گروہ نے اسلامی تاریخ کی تدوین کا کام کیا، (۱) وہ گروہ جو بنی امیہ کے دشمنوں سے قربت حاصل کر کے عیش و تنعم چاہتا تھا (۲) وہ گروہ جس کا خیال تھا کہ دیانتداری اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ابو بکرؓ، عثمانؓ اور بنی عبد شمس کے حالات کا بھی تذکرہ نہ کیا جائے، (۳) دینداروں اور انصاف پسندوں کا گروہ جیسے طبری، ابن عساکر، ابن اثیر، اور ابن کثیر رحمہم اللہ، اس گروہ نے دیکھا کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ ہر طبقہ اور ہر مذہب کے راویوں اور ناقلوں کی روایات کو ان کے حوالہ اور سند سے جمع کر دیا جائے، جیسے ابو مخنف لوط بن یحییٰ کثر شیبی، اور سیف بن عمر معتدل عراقی، اس گروہ کے اکثر مورخوں نے جن روایتوں کو بیان کیا ان کے راویوں کے نام بھی درج کر دیئے تاکہ محقق و ناقد ہر راوی کے حالات معلوم کر کے بصیرت حاصل کر سکے، ان کا یہ ترکہ ہمارے پاس اس صورت میں پہنچا ہے کہ وہ ہماری تاریخ نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے مواد

و معلومات پر مشتمل ہے جن سے بحث و تحقیق کے بعد ہماری تاریخ نکالی جا سکتی ہے، اور بیدار مغز اور روشن ضمیر محقق ان کو پرکھ کر حقیقت معلوم کر سکتا ہے جبکہ وہ اس سلسلہ میں کتب احادیث اور ائمہ دین کے افکار کو سامنے رکھے گا، اس وقت ہمارے لئے نہایت ضروری ہے کہ ہم اس فریضہ کے لئے آمادہ ہوں اور جو سستی اب تک کی ہے اس کا بدل پیش کریں۔

و اول من استيقظ في عصرنا للدسائس المدسوسة على تاريخ  
بنی امیة العلامة الہندی الکبیر الشیخ شبلی نعمانی فی انتقادہ  
لکتاب جرجی زید ان، ثم اخذ اهل الامعية من المصنفين فی دراسة  
الحقائق فبدأت تظهر لهم وللناس منيرة شرقة الخ (حاشیہ  
صف ۱۷۷، ۱۷۸)

اور جس شخصیت نے ہمارے زمانہ میں سب سے پہلے بنو امیہ کے خلاف ان  
دسیہ کاریوں سے چونکا یا وہ علامہ کبیر شیخ شبلی نعمانی ہندی ہیں، جنہوں نے جرجی  
زید ان کی سبھی کتابوں پر تنقید کر کے یہ حقیقت ظاہر کی، اس کے بعد بیدار مغز  
مصنفوں نے دوسرے حقائق کو پڑھنا شروع کیا تو ان کے اور دوسرے لوگوں کے  
سامنے اہم حقائق روشن ہو کر آئے۔

اسی طرح محشی نے العواصم صف ۲۴۸ پر لکھا ہے کہ طبری نے اپنی روایات  
کے ماتخذ کا ذکر کیا ہے، اور زاویوں کے نام درج کئے ہیں، تاکہ ان کے بارے میں کسی  
قسم کا خفا نہ رہے، چنانچہ طبری نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں لکھا ہے۔

فما یکون فی کتابی هذا من خبر یستنکرہ قارئہ من اجل انه لم  
یعرف له وجہا فی الصححة فلیعلم انه لم یؤت فی ذلک من قبلنا

وانما اتى من قبل بعض ناقلية الينا ( حاشيه صف ۲۴۸ )  
 پس ميرى كتاب ميں جو خبر ايسى ہو کہ پڑھنے والا اس کی معقول وجہ نہ سمجھ کر  
 اس کا انکار کرے تو جاننا چاہئے کہ اس ميں یہ بات ہمارى طرف سے نہيں پيدا ہوئی  
 ہے بلکہ ان بعض لوگوں کی طرف سے ہے جو اس خبر کو ہمارے سامنے نقل کرنے  
 والے ہيں۔

قاضى ابو بکر نے صف ۲۴۵ پر ایک بحث کے آخر ميں لکھا ہے۔

فمع من تحبون ان تكونوا مع سمرة بن جندب او مع المسعودى  
 والمبرد وابن قتيبة و نظرائهم؟

تم بتاؤ کہ کس کے ساتھ رہو گے؟ حضرت سرہ بن جندب کے ساتھ، يا  
 مسعودى؟ مبرد اور ابن قتيبة جيسے لوگوں کے ساتھ؟

اس پر محشى نے قاضى ابو بکر کا تعاقب کرتے ہوئے یہ حاشیہ لکھا ہے۔

حكم القاضى ابوبكر على ابن قتيبة هذا الحكم القاصى وهو  
 يظن، ان كتاب الامامة والسياسة من تاليفه كما سيأتى وكتاب  
 الامامة والسياسة فيه امور وقعت بعد موت ابن قتيبة، فدل على انه  
 مدسوس عليه من خبيث صاحب هوى، ولو عرف المؤلف هذه

الحقيقة لوضع الجاحظ موضع ابن قتيبة

قاضى ابو بکر نے ابن قتيبة پر اتنا سخت حکم لگا دیا، ان کا گمان ہے کہ کتاب  
 "الامامة والسياسة" ان کی کتاب ہے، حالانکہ اس کتاب ميں ايسى ايسى باتیں درج ہيں جو  
 ابن قتيبة کے مرنے کے بعد واقع ہوئی ہيں، اس سے معلوم ہوا ہے کہ یہ باتیں کسی  
 خبيث بدعتى کی طرف سے ملا دی گئی ہيں اگر مؤلف قاضى ابو بکر بن عربى اس حقيقت

کو جانتے تو ابن قتیبہ کے بجائے جاہظ پر یہ حکم لگاتے،  
 آخری قاصمہ کو صاحب العواصم نے اپنی کتاب کے خلاصہ کے طور پر لکھا ہے،  
 اور اس میں پھر مورخوں پر اپنا غضب شدید لہجہ میں ظاہر کیا ہے اور صفحہ ۲۴ سے  
 صفحہ ۲۴۹ تک ان کو خوب خوب سنایا ہے، لکھتے ہیں۔

میں نے تمہارے سامنے یہ باتیں اس لئے بیان کی ہیں کہ تم خلق سے بچو خاص  
 طور سے مفسروں، مورخوں، اور ادیبوں سے، کیونکہ وہ دین کی حرمتوں سے جاہل ہیں  
 یا بدعت پر مصر ہیں، تم ان کی روایت کی پرواہ کرو، اور نہ ائمہ حدیث کے علاوہ کی  
 روایت قبول کرو،

ولاتسمعوا المورخ کلاما الا للطبری وغير ذلک هو الموت  
 الاحمر والذاء الا کبر

طبری کے علاوہ کسی مورخ کی بات مت سنو طبری کے علاوہ سرخ موت اور  
 مہلک بیماری ہے،

کیونکہ یہ لوگ ایسی ایسی باتیں پیدا کرتے ہیں جن میں صحابہ اور سلف کی توہین  
 ہوتی ہے، اور ان کی طرف اقوال و افعال کا اختراع ہوتا ہے، اور دین سے نکل کر دنیا  
 اور حق سے ہٹ کر خواہش کی طرف جانے کا بیان ہوتا ہے، اس لئے جب تم اہل  
 باطل کا مقاطعہ کر کے صرف عادل و ثقہ لوگوں کی روایت لوگے، تو ان کی چالوں سے  
 محفوظ رہو گے۔

ومن اشد شیء علی الناس جاہل عاقل ، او مبتدع محتال فاما  
 الجاہل فہو ابن قتیبہ فلم یبق ولم یذر للصحابة رسما فی کتاب  
 الامامة والسیاسة ان صح عنه جمیع ما فیہ ( صفحہ ۲۴۸ )

عوام کے لئے سب سے بڑھی مصیبت جابل عقلمند یا بدعتی حیلہ باز ہے، جابل تو ابن قتیبہ ہے جس نے اللامۃ والسیاسة میں صحابہ کے لئے کوئی کسراٹھا نہیں رکھی اگر اس کتاب کی تمام باتیں اسی کی ہیں،  
 محشی نے قاضی ابوبکر کے اس بیان پر لکھا ہے۔

لم یصح عنه شیئ مما فیہ، ولو صحت نسبة هذا الكتاب  
 للامام الحجة الثبت ابی محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتیبة لکان  
 کما قال عنه ابن العریبی الخ

اس کتاب کی کوئی بات بھی ابن قتیبہ کی نہیں ہے، اگر اس کتاب کی نسبت  
 امام حجت، ثبت ابو محمد عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ کی طرف صحیح ہوتی تو ان کے  
 بارے میں ابن عربی کا یہ کہنا صحیح ہوتا۔

آگے چل کر ابن عربی نے مبرد کو دوسرے جابل عاقل کی حیثیت سے مثال میں  
 پیش کیا ہے، پھر امام مسعودی کی خبر یوں لی ہے۔

واما المبتدع المحتال فالمسعودی فانه یاتی منه متاخمة الاحاد  
 فیما روی من ذلك ، واما البدعة فلا شک فیہ الخ

اور حیلہ باز بدعتی مسعودی ہے، اس لیے کہ وہ اس قسم کی روایات میں سے ایسی  
 ایسی باتیں بیان کرتا ہے جن کی حد الحاد سے ملی ہوئی ہے، اس کے بدعتی ہونے میں  
 تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔

اس موقع پر محشی نے علامہ مسعودی کی شیعیت پر مامقانی کی کتاب تنقیح المقال  
 ج ۲ صفحہ ۲۸۲ اور ۲۸۳ سے استدلال کیا ہے اور بتایا ہے کہ مامقانی نے ان کو  
 شیعوں کے کبار و شیوخ میں شمار کیا ہے، اور وصایا و عصمت امام کے بارے میں ان

کی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔

مگر سوال یہ ہے کہ ایک شیعہ مصنف کے علاوہ کسی اور شیعہ نے مسعودی کو اپنا پیشوا مانا ہے؟ یا اہل سنت کی کتابوں میں کہیں ان کے شیعہ ہونے کا ذکر آیا ہے، مسعودی کو اس طرح ایک آدھ گرے پڑے قول کی بنا پر شیعہ ماننا سخت غلط کام ہے، ان تصریحات کو ناظرین کرام سامنے رکھ کر فیصلہ کریں کہ امام قاضی ابو بکر بن العربی پر کس قدر غلبہ حال طاری تھا، اور وہ ابن قتیبہ جیسے شیخ کبیر اور محدث و مفسر کو جاہل عاقل قرار دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف الایمان والیساسة کو قرار دیتے ہیں، اور اتنی زحمت گوارا نہیں فرماتے کہ اسے دیکھ لیں تو حقیقت سامنے آئے، کہ وہ کتاب ابن قتیبہ کی نہیں ہے، یا بے تو اس میں بہت سی دسیہ کاریاں ہیں، مسعودی کو بلاوجہ "بتدرع محتال" کے لقب سے نوازا اور صرف امام طبری کو مستند و ثقہ تسلیم کیا، پھر بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ مولف کتاب، "خلافت معاویہ ویزید" کی تحقیق انبیق ان سے بالکل مختلف ہے، کہ موصوف نے امام طبری کو وہ سب کچھ کہا جو کسی معاند اسلام کے بارے میں کہا جاسکتا ہے، اور مسعودی کی ثقاہت کو برملا ظاہر کیا، جبکہ ایک جگہ دبے الفاظ میں ان پر بھی وار کیا، ناظرین امام قاضی ابو بکر بن العربی کی ان تصریحات اور ان پر محشی کے ان حواشی کو بغور پڑھیں تو اسلامی تاریخ کے بارے میں ان کا ذہن مطمئن ہو جائے، ہم نے اس بحث کو اسی لئے طول دیا ہے۔

حضرت حسن کی صلح کے بعد حضرت معاویہ کو خلیفہ ثابت کرتے ہوئے قاضی ابو بکر بن عربی مالکی لکھتے ہیں۔

فمعاویة خلیفة ولیس بملک فان قیل فقد روی عن سفینة ان  
النبی قال الخلافة ثلاثون سنة ثم تعود ملکا فاذا عددنا من ولاية



ابی بکر الی تسلیم الحسن، کانت ثلاثین سنة لا تزيد ولا تنقص  
یوما قلنا. خذما تراه و دع شیئا سمعت به فی طلعة البدر ما یغنیک  
عن زحل (صف ۲۰۰)

معاویہؓ خلیفہ ہیں، ملک نہیں ہیں، اگر اس کے مقابلہ میں سفینہ کی وہ حدیث پیش  
کی جائے جس میں بنی مصلحؓ نے فرمایا ہے کہ خلافت صرف تیس سال تک رہے گی،  
پھر ملوکیت ہو جائے گی، اور جب شمار کیا گیا تو حضرت ابو بکر کی خلافت سے لے کر  
حضرت حسن کی صلح تک کل تیس سال ہوتے ہیں تو ہم اس کے جواب میں یہ شعر  
سنائیں گے تم جو سامنے دیکھتے ہو اسے لو اور سامنے ہوئے کو چھوڑ دو جب چودھویں  
رات کا چاند نکل آتا ہے۔ تو زحل ستارے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

هذا حدیث لا یصح ولو صح فهو معارض لهذا الصلح المتفق

(صف ۲۶) علیہ فوجب الرجوع الیہ (صف ۲۰۲)

یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور اگر صحیح ہو تو وہ حضرت حسن کی مستفق علیہ صلح کے  
معارض ہے اس لئے صلح کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔

قاضی ابو بکر بن العربی کی جلالت شان ہمارے سرسنگھوں پر مگر اس حدیث کو غیر  
صحیح بنانے اور اسے صلح حسنؓ سے مطابق ثابت کرنے میں انہوں نے جس غلبہ حال کا  
اظہار فرمایا ہے وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے، محشی نے بھی اس مقام پر قاضی ابو بکر  
ابن العربی کا ساتھ نہیں دیا، مگر جب اسی حدیث سفینہ کو امام ابن تیمیہؒ نے صحیح تسلیم  
کرتے ہوئے منہاج السنۃ میں جگہ جگہ ذکر کیا تو اس کے خلاصہ المنتقی کے حاشیہ میں اسی  
محشی نے اس کے رجال پر کلام کیا، مگر پھر بھی ان کو اس حدیث کے موضوع کہنے کی  
جرات نہیں ہوئی ہے مگر مؤلف خلافت معاویہ اور یزید نے اسی حاشیہ کو لیکر اپنی کتاب

میں اس کے رجال پر ناکام جرح کی اور اس حدیث کو موضوع اور وضعی کھنسنے کی جرأت دکھائی۔

آگے چل کر قاضی ابو بکر نے حضرت معاویہ کی خلافت کے سلسلے میں لکھا ہے  
 وشهد له بخلافته فی حدیث ام حرام ان ناسا من امتی یرکبون  
 مسلج البحر الاخضر ماوکا علی الاسرة او مثل الملوک علی الاسرة  
 فکان ذالک فی ولایتہ ویحتمل ان تکون مراتب فی الولاية خلافة ثم  
 ملک، تکون ولاية الخلافة للاربع وتکون ولاية الملك ابتداء معاویة  
 وقد قال الله فی داؤد وهو خیر من معاویة واتاه الله الملك  
 والحکمة فجعل النبوة ملکا.

رسول اللہ ﷺ نے ان کی خلافت کی گواہی ام حرام کی اس حدیث میں دی ہے  
 کہ میری امت کے کچھ لوگ بحر اخضر کی جنگ کریں گے، وہ ایسے ہوگا جیسے بادشاہ تخت  
 پر یا فرمایا کہ بادشاہوں کی طرح تخت پر ہوں گے، اور بحری غزوہ حضرت معاویہ کی  
 ولایت میں ہوا، اور ہو سکتا ہے کہ ولایت میں کسی درجے ہوں، خلافت پھر ملک، اس  
 طرح خلافت کی ولایت خلفائے اربعہ کے لئے ہوگی، اور ملک کی ولایت معاویہ کی ابتدا  
 سے ہوگی، اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے جو معاویہؓ سے بہتر ہیں  
 کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک اور حکمت دی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ملک بتایا،

حدیث غزوہ البحر سے حضرت معاویہ کی خلافت پر اس طرح استدلال کہ رسول  
 اللہ ﷺ نے اس کی گواہی دی ہے، عجیب استدلال ہے، جس کے لئے قاضی ابو بکر  
 بن عربی نے کیا کیا باتیں کیں، ولایت کے مراتب قائم کئے، اور حضرت داؤد کے  
 بارے میں اللہ تعالیٰ کے قول سے استدلال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ملک بتایا

ہے، معلوم نہیں کہ ملک سے مراد اگر نبوت ہے تو حکمت سے کیا مراد ہوگی؟ اور پھر یہاں پر ملک لفظ عام ہے، اور خلافت ایک معنی خاص میں استعمال ہوتا ہے، اور اصطلاحی لفظ ہے،

حضرت امام قاضی ابو بکر بن العربی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب "احکام القرآن" پڑھنے کے بعد کسی طرح یقین نہیں ہوتا کہ یہ ان کی باتیں ہیں، ہمارا تو خیال ہے کہ یہ باتیں کسی نے بعد میں داخل کر دی ہیں۔

قاضی ابو بکر ابن عربی کے یہاں جمہور کے خلاف ایک یا دو آدمی کے بیعت کرنے سے خلافت کا انعقاد ہو جاتا ہے، اور سن بھی ان کے نزدیک شرط نہیں ہے، اس لئے خلیفہ کا بلوغ بھی ضروری نہیں ہے، دیکھئے جمہور سے ہٹ کر انہوں نے کس طرح کھینچ تان کر خلیفہ کی ولی عہدی کی بیعت سے حضرت معاویہ کی حیات ہی میں اسے خلیفہ مان لیا ہے، اور اس وقت بیک وقت دو خلفاء کے لزوم کو انگیز کیا ہے، لکھتے ہیں،

الا انا نقول ان معاویة ترک الافضل فی ان يجعلها شوری، وان  
لا یخص بها احدا من قرابته فکیف ولدا، وان یقتدی بما اشار به  
عبدالله بن الزبیر فی الترتک او الفعل فعدل الی ولایة ابنه وعقدله  
البیعة وبایعه الناس و تخلف عنها من تخلف فانعقدت البيعة شرعا  
لانها تنعقد لواحد وقیل باثنین فان قیل لمن فیہ شروط الامامة قلنا  
لیس السن من شروطها، ولم یثبت انه یقصر بیزید عنها (العواصم من  
القواصم صف ۲۲۲)

بم کہتے ہیں کہ معاویہ نے خلافت کو شوری میں پیش کرنے کو چھوڑ کر افضل کو

ترک کیا، ان کو اپنے کسی آدمی کو اپنے رشتہ داروں سے خلافت کے لئے مخصوص نہیں کرنا چاہئے تھا، چہ جائیکہ انھوں نے لڑکے کو یہ امر سوئپ دیا، ان کو چاہئے تھا کہ ترک یا فعل میں عبد اللہ بن زبیرؓ کے مشورہ پر عمل کرتے، مگر اس سے ہٹ کر اپنے لڑکے کی ولایت کا کام کیا، اور اس کے لئے بیعت منعقد کی، اور لوگوں نے اس کی بیعت کی، اور جو کچھ لوگ اس سے رک گئے، پس شرعاً یزید کی بیعت منعقد ہو گئی، کیونکہ بیعت ایک آدمی کے کر لینے سے منعقد ہو جاتی ہے ایک قول کی بنا پر دو آدمیوں کے کرنے سے اگر اعتراض کیا جائے کہ امامت کی شرطیں کیا ہیں تو ہم کہیں گے کہ سن اور عمر امامت میں شرط نہیں ہے، پھر یہ ثابت نہیں ہے کہ یزید ولی عہد کی بیعت کے وقت کم عمر کا تھا۔

اس تصریح کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے، بات بالکل صاف ہے۔

فان قيل ولولم يكن ليزيد الا قتله لحسين بن علي قلنا يا اسفا  
 على المصائب مرة ويا اسفا على مصيبة الحسين الف مروان بوله  
 يجرى على صدر النبي ودمه يراق على البوغاء ولا يحقن يالله  
 وبالللمسلمين (صف ۲۲۸)

اگر کہا جائے کہ اگر یزید کا کوئی گناہ اس کے علاوہ نہ ہوتا کہ اس نے حسین بن علی کو قتل کیا ہے تب بھی بہت بڑا گناہ ہے تو ہم کہیں گے مصائب پر ایک مرتبہ افسوس اور حسین کی مصیبت پر ایک ہزار مرتبہ افسوس حسین کا پیشاب نبی ﷺ کے سینے پر بہتا تھا، پھر ان کا خون نرم زمین پر گرا دیا جائے اور بچایا نہ جائے، ہائے اللہ ہائے مسلمان!

اس کے بعد یزید کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے حضرت حسینؑ کو غاطی و مقتول بشریۃ جدہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

وما خرج اليه احد الا بتاويل ولا قاتلوه الا بما سمعوا من جدہ  
المهيمن على الرسل، المخبر بفساد الحال، المحذر من الدخول في  
الفتن واقواله في ذلك كثيرة فمنها قوله بانه ستكون هزات  
وهزات فمن اراد ان يفرق امر هذه الامة وهي جميع فاخربوه  
بالسيف كائنا من كان فما خرج الناس الا بهذا وامثاله الخ  
(صف ۲۳۳)

اور کوئی آدمی حسین کے قتل کے لئے نہیں نکلا مگر تاویل کے ساتھ اور لوگوں نے  
ان سے جنگ نہیں کی مگر اس دلیل کی وجہ سے جسے انہوں نے ان کے ناتا سے سنا، اور  
ان کے اقوال فساد سے بچنے کے بارے میں بہت زیادہ ہیں، منجملہ ان کے آپ کا یہ  
قول ہے کہ عنقریب طرح طرح کی ناگواریاں ہوں گی، ایسی حالت میں جو شخص اس  
امت کے معاملہ میں تفریق پیدا کرنے کا ارادہ کرے جبکہ امت متحد ہو تو اسے تم لوگ  
تلوار سے مار ڈالو، جو بھی ہو اور حسین کے خلاف لوگ اسی حدیث اور اسی کے مثل  
احادیث کی وجہ سے نکلے۔

پہلے تو امام قاضی ابو بکر بن العربی نے حسین کا نہایت شاندار ماتم کیا اور ان کے  
مناقب بیان کئے، پھر بتایا کہ وہ اپنے نانا رسول اللہ ﷺ کے اقوال و ہدایات کے  
عین مطابق قتل کئے گئے، اور انہوں نے اس امت میں افتراق پیدا کیا تو ان کو اس کی  
سزا ملی،

یہی وہ نقطہ ہے، جہاں قاضی ابو بکر بن عربی اور مولف "خلافت معاویہ و یزید" آکر ملتے ہیں، اور اسی بنا پر مولف خلافت معاویہ و یزید نے خود قاضی ابو بکر بن عربی کی اور ان کی کتاب کی بے حد تعریف کی، گذشتہ بیان میں اس قول کا رد علامہ ابن خلدون کی طرف سے گذر چکا ہے، نیز قاضی ابو بکر بن عربی کے اس خیال کی کسی ثقہ اور مستند اسلامی مورخ اور امام و محدث اور عالم و فقیہ نے تائید نہیں کی، بلکہ سب نے اپنی تصریحات سے اس کا رد ہی کیا،

## مسلمانوں کے دو علمی اور ثقافتی اداروں کی رائے

اس ملک میں مسلمانوں کے دو نہایت ثقہ اور معتمد ثقافتی اور علمی و تاریخی مرکز ہیں، ایک دارالمصنفین اعظم گڑھ، اور دوسرا ندوۃ المصنفین دہلی، ان دونوں اداروں نے کتاب خلافت معاویہ و یزید کے بارے میں جو رائے ظاہر کی ہے وہ مسلمانوں کے دینی و علمی اور ثقافتی ترجمان کی حیثیت رکھتی ہے،

معارف، دارالمصنفین اعظم گڑھ

دارالمصنفین وہی ادارہ ہے جسے علامہ شبلی نعمانیؒ نے قائم فرمایا، جن کی کتاب نے موجودہ عرب علماء کو بیدار کیا ہے، اور اب وہ اپنی تحقیقات سے بنو امیہ کے خلاف دسیہ کاریوں کا پردہ چاک کر رہے ہیں، اس کے ترجمان مجلہ معارف کے مدیر محترم مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی صاحب نے دسمبر ۱۹۵۹ء کے شیوع میں خلافت معاویہ و یزید پر حسب ذیل رائے ظاہر فرمائی ہے۔

محمود احمد عباسی صاحب کی کتاب "خلافت معاویہ و یزید" کئی مہینے ہوئے

ہمارے پاس آئی تھی، مگر معارف میں ریویو کے لئے اس کثرت سے کتابیں آتی ہیں کہ مہینوں کے بعد اس کی نوبت آتی ہے، اس لئے اب تک یہ کتاب ہماری نظر سے نہیں گزری تھی، مگر اس نے ایک فتنہ کی شکل اختیار کر لی ہے، اور ہمارے پاس اس کے بارے میں استفسار کے مسلسل خطوط آرہے ہیں، اس لئے اس کے متعلق اظہار رائے ضروری ہو گیا، اس کتاب میں مصنف نے منہاج السنۃ کی تلخیص المنتقی پر محب الدین الخطیب کے حواشی سے زیادہ استفادہ کیا ہے، مگر اس میں ان کے قلم کے بھی اضافے ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ اس کی بعض تاریخی بخشیں بڑی قابل قدر ہیں، لیکن اس میں حق کے ساتھ باطل بھی اس طرح ملا ہوا ہے کہ اس کو جدا کرنا مشکل ہے، اور مجموعی حیثیت سے مصنف کی اسپرٹ اور کتاب کا مقصد بہت غلط ہے

یہاں تک تو بلاشبہ صحیح ہے کہ مورخین نے بنی امیہ کے ساتھ بڑی بے انصافی کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ حضرت عثمان ہی کے زمانہ سے بنی امیہ کے خلاف ایک جماعت پیدا ہو گئی تھی، اس کے بعد حضرت علیؑ کے مقابلہ میں حضرت امیر معاویہؓ کی صف آرائی، پھر یزید کی ولی عہدی، اور سب سے آخر میں واقعہ کربلا نے جن کو عام مسلمان بھی ناپسند کرتے تھے، اور واقعہ شہادت سے خاص طور سے متاثر تھے، بنی امیہ کے مخالفین کو ان کے خلاف پروپیگنڈے کا پورا موقع دے دیا، اور انہوں نے ان کی واقعی غلطیوں کی اڑ لے کر ان کے متعلق بہت سے مبالغہ آمیز واقعات بلکہ جھوٹے افسانے ان کی جاٹب مٹوب کر دیئے، اس میں ان قوموں نے زیادہ حصہ لیا جن کو مسلمانوں نے محکوم بنایا تھا، ان واقعات سے فائدہ اٹھا کر بنی عباس نے اپنی حکومت قائم کر لی، یہ بھی بنی امیہ کے سخت دشمن تھے، اس لئے ان کے زمانہ میں بھی بنی امیہ کی مخالفت برابر جاری رہی، اور عباسی حکومت سندھ سے لے کر شمالی افریقہ تک تھی،

اس لئے بنی امیہ کے متعلق جو افسانے بھی مشہور ہو گئے وہ پوری دنیائے اسلام میں پھیل گئے،

اس زمانہ میں تاریخ نویسی کا آغاز ہوا، اس لئے وہ تمام افسانے جو پولیٹیکل مقصد سے تراشے گئے تھے، تاریخوں میں داخل ہو گئے، بنی امیہ کی بعض بد عمتوں اور صریح غلطیوں سے انکار نہیں، لیکن اسی کے ساتھ تاریخ اسلام میں ان کے شاندار کارنامے بھی ہیں، چنانچہ تاریخوں میں ان کی مخالف روایات کے پہلو بہ پہلو ان کے کارنامے بھی نظر آتے ہیں، جو پروپیگنڈے کے حجاب میں عام نظروں سے چھپ کر رہ گئے تھے، مگر جب تحقیق و تنقید کا دور آیا تو بہت سے لغو افسانے مسترد قرار پائے، اور بنی امیہ کی تصویر کا دوسرا رخ بھی نظر آنے لگا۔

اس پہلو سے اس دور کی تاریخ کا جائزہ لینا کوئی قابل اعتراض فعل نہیں ہے، بلکہ ایک علمی خدمت ہے، اور مختلف زمانوں میں علماء و محققین اس کام کو انجام دیتے رہے ہیں، خود راقم نے سیرا الصحابہ اور تاریخ اسلام میں بنی امیہ خصوصاً حضرت امیر معاویہؓ اور واقعہ کربلا کے متعلق تمام غیر معتبر روایات کی پوری تردید کی ہے، اور بنی امیہ کی غلطیوں کے ساتھ ان کے کارنامے بھی دکھائے ہیں، مگر اس طرح کہ اس سے حضرت علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کے مرتبہ اور ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آنے پایا ہے، اسی لئے کسی شیعہ کو بھی اس پر اعتراض کا موقع نہ مل سکا، اگر مصنف "خلافت معاویہ و یزید" بھی غیر جانبداری اور اعتدال و توازن کے ساتھ ان واقعات کا جائزہ لیتے تو کم از کم کسی اہل علم کو ان پر اعتراض کرنے کا موقع نہ ملتا، مگر وہ بنی امیہ خصوصاً حضرت امیر معاویہؓ اور یزید کی مدافعت اور حمایت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ حضرت علیؓ اور حضرت امام حسینؓ کو ملزم بنانے میں باک نہیں



کیا ہے انہوں نے واقعات پر جس طرح بحث کی ہے، اور اس سے جو نتائج نکالے ہیں، اس سے حضرت علیؑ اور امام حسینؑ خطا کار اور امیر معاویہؓ اور یزید برحق نظر آتے ہیں، جو نہ صرف جذباتی حیثیت سے قابل اعتراض بلکہ تاریخی حیثیت سے بھی غلط ہے، صدیوں کے پرانے واقعات تو مختلف رنگوں کا مجموعہ ہوتے ہیں، مورخ کا موئے قلم ان سے جیسی تصویر چاہے بنا سکتا ہے، یہی تصنیفی آرٹ محمود احمد عباسی نے بھی دکھایا ہے، اور ایک مقصد کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے، اور اس سے حسب منشا نتائج نکالے ہیں، اس لئے کتاب کا یہ پہلو تاریخی حیثیت سے بھی بہت کمزور ہے امر وہہ شیعوں کا ایک مرکز ہے، مصنف کا وطن بھی امر وہہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے زخم خوردہ ہیں، اس لئے انہوں نے بھی اسی رنگ کی کتاب لکھ دی، اور جو کتاب اس جذبہ سے لکھی جائے گی، اس میں اعتدال و توازن قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی بے اعتدالی کا شکار مصنف خلافت معاویہ و یزید بھی ہوئے ہیں،

اس کتاب کی اشاعت کا سب سے افسوس ناک نتیجہ یہ ہے کہ اس سے شیعہ سنی اختلاف کا ایک نیا قطنہ کھڑا ہو گیا ہے، مگر غنیمت یہ ہے کہ اہل سنت نے بھی اس پر ناپسندیدگی ظاہر کی ہے، ممکن ہے مناظرانہ ذہنیت رکھنے والے کچھ سنی اس کے حامی نکل آئیں لیکن ان کی اکثریت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ اور ان کے متعدد اکابر اس سے برأت ظاہر کر چکے ہیں، اس لئے ہم کو توقع ہے کہ شیعوں کا سنجیدہ طبقہ اس کو شیعہ سنی مسئلہ نہ بننے دے گا، ورنہ اگر اس کے جواب میں شیعوں نے گڑے مردے اٹھا کر شروع کر دیئے جیسا کہ بعض شیعہ اخبارات کر رہے ہیں تو پھر یہ مسئلہ واقعی شیعہ سنی مسئلہ بن جائے گا، جس کے نتائج دونوں کے لئے مضر ہوں گے، اب یہ زمانہ ان پرانے قضیوں میں الجھنے کا نہیں ہے، بلکہ ان کو بھلا دینے کا ہے۔

## برہان ندوۃ المصنفین دہلی

مسلمانان ہند کا دوسرا دینی و علمی اور تحقیقی ادارہ ندوۃ المصنفین دہلی ہے، جسے فضیلانے دیوبند کے محققین کی ایک جماعت نے قائم کیا ہے، اور جو اپنی علمی و تاریخی اور تحقیقی خدمت کی وجہ سے اسلامی دنیا میں معتبر و مستند تسلیم کیا جا چکا ہے

اس ادارہ کے ترجمان مجلہ برہان میں اس کے مدیر مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی صدر شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے نومبر ۱۹۵۹ء کے شیوع میں خلافت معاویہ و یزید کے بارے میں یہ رائے ظاہر فرمائی ہے۔

"آج کل خلافت معاویہ و یزید نامی کتاب گھر گھر موضوع بحث و گفتگو بنی ہوئی ہے، اور ملک میں متعدد مقامات پر اس سلسلہ میں اجتماعی مظاہرے بھی ہو چکے ہیں، یہ کتاب دفتر برہان میں وصول نہیں ہوئی، اور نہ ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے، بس ابھی چار پانچ دن ہوئے اس کو ادھر ادھر سے پلٹ کر صرف سرسری طور پر دیکھنے کا موقع ملا ہے اس لئے ظاہر ہے کتاب کی علمی حیثیت پر تو کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا، البتہ مسلمانوں میں جو میساجن ہے اس کے پیش نظر چند امور کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔

(۱) اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ حضرت امام حسنؓ اور امام حسینؓ سے آنحضرت ﷺ کو بڑی محبت تھی، اور آپ نے ان دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھا کر دعا کی تھی کہ اے اللہ! تو اس سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے، اور ان سے بغض رکھ جو ان سے بغض رکھتا ہے، پھر حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کو سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں گا اور یہ مسلم ہے کہ محبوب کا محبوب خود اپنا محبوب ہوتا

ہے، اس بنا پر ان دونوں "سیدہ شہاب اہل الجنتہ" سے محبت کرنا عین ایمان اور اسلام کا مقتضا ہے

(۲) لیکن کر بلا میں جو واقعہ پیش آیا اس کی اصل نوعیت کیا تھی؟ وہ کیونکر پیش آیا؟ اور واقعہ کے اشخاص متعلقہ میں سے ہر شخص نے اس میں کیا رول ادا کیا؟ واقعہ کے داخلی اور خارجی اسباب کیا تھے؟ یہ سب سوالات تاریخی ہیں اور ان کا جواب صرف تاریخ ہی دے سکتی ہے، ہم کسی واقعہ کو سن کر اس کے اشخاص متعلقہ کی نسبت جو رائے قائم کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے دل میں مختلف اشخاص و افراد کے متعلق جو جذبات نفرت و ہمدردی پیدا ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم کو واقعہ کی جو صورت و نوعیت معلوم ہوئی ہے اس کا تقاضا طبعی طور پر یہی ہو سکتا تھا، اب اگر فرض کیجئے۔ کسی اور ذریعہ سے واقعہ کی کسی اور صورت کا علم ہوتا ہے تو ظاہر ہے پہلے ہم کو جو تاثر ہوا تھا وہ بدل جائے گا، اور اب ہم کو اپنی پہلی رائے پر نظر ثانی کرنی ہوگی لیکن یہ جو کچھ ہو گا تاریخ کا طبعی عمل و اثر ہوگا، اس صورت میں مقبولیت پسندی اور علمی رواداری کا تقاضا یہ ہونا چاہئے کہ یا تو واقعہ کی دوسری شکل و صورت اور اس کی مخصوص نوعیت کی صحت کو ثابت کرنے کے لئے جو دلائل براہین پیش کئے گئے ہیں، ان کی رکاکت اور کمزوری ثابت کی جائے اور یا اگر دلائل قوی ہوں تو ان کو تسلیم کر لیا جائے اور واقعہ کی اصل صورت کی نسبت جو خیال پہلے سے قائم تھا اس پر نظر ثانی کی جائے، ان دونوں راہوں کو چھوڑ کر محض اس بات پر ہنگامہ آرائی کرنا اور شور مچانا کہ ایک شخص واقعہ کی صورت وہ نہیں مانتا جس کو ہم پہلے سے مانتے چلے آئے تھے، انصاف سے بعید ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم چند اشخاص کی نسبت پہلے سے ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اور پھر پورے واقعہ کو اسی کے قالب

میں ڈھال لیتے ہیں، حالانکہ رائے واقعہ سے پیدا ہوتی ہے واقعہ رائے سے پیدا نہیں ہوتا، اعتقاد کا سرچشمہ تاریخ ہے، تاریخ اعتقاد سے نہیں بنتی اس بنا پر ہونا یہ چاہئے تھا کہ زیر بحث کتاب میں واقعہ کربلا کی جو نوعیت بیان کی گئی ہے علمی طور پر اس کا جائزہ لیا جاتا اور اگر وہ غلط ہے تو اس کے لئے جو دلائل و براہین پیش کئے گئے ہیں ان کی رکاکت کا پردہ چاک کیا جاتا یہ ایک خالص تاریخی بحث ہے اور اس کو اسی طرح طے ہونا چاہئے۔

(۳) ایک صاحب نظر جانتا ہے کہ واقعہ کربلا سے متعلق جو روایات تاریخ کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں یا عام طور پر متداول ہیں ان میں افسانہ اور حقیقت کی آمیزش کس درجہ ہے، اور جرح و تنقید کے بعد ان میں صحیح و سقیم کا امتیاز کرنا کتنا مشکل کام ہے، اس بنا پر اس میں شک نہیں کہ صرف یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ اس عہد کی پوری تاریخ پر ہی ریسرچ کے لئے میدان بڑا وسیع ہے، لیکن ایک مسلمان محقق جو خاص واقعہ کربلا پر داد تحقیق دینا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے اپنے ضمیر کے گریبان میں منہ ڈال کر یہ فیصلہ کرنا چاہئے کہ کسی کی ضد یا پر خاش کے باعث اس کی کاوش کے پس منظر میں یزید کا جذبہ حمایت و طرفداری تو نہیں ہے، اگر واقعی ایسا ہے تو پھر اسے معلوم ہونا چاہئے کہ دانستہ یا نادانستہ سیدنا امام حسینؑ کی شان میں ایک لفظ بھی گستاخی یا بے ادبی کا نکل گیا تو اس کے لئے آخرت کی رسوائی کا سبب ہو سکتا ہے، ریسرچ بڑی اچھی چیز ہے لیکن آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ حضور ﷺ نے صاف ممانعت کر دی ہے کہ میرے والدین کے متعلق گفتگو نہ کرو۔

(۴) جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا ہم نے کتاب بہت رواداری میں سرسری طور پر دیکھی ہے، تاہم ہمارا اثر یہ ہے کہ مصنف کا انداز فکر اور انداز تحریر دونوں

جارحانہ ہیں، بنو امیہ کے دور حکومت کو اسلام کا سب سے زیادہ روشن اور تابناک عہد کہنا، حضرت امیر معاویہ اور یزید کی حکومت کو جمہور امت کے مسلک کے خلاف خلافت کہنا، یزید کے ورع و تقویٰ کا دعویٰ کرنا حدیث الملک عضو پر کلام کرنا یہ سب چیزیں اس بات کی غمازی کر رہی ہیں کہ مصنف کسی خاص دائمی تحریک کے زیر اثر پہلے سے ایک خاص خیال قائم کر چکا ہے اور پھر اس کی تائید کے لئے مواد تلاش کر رہا ہے یعنی اس نے تحقیق کے میدان میں قدم بالکل غیر جانبدار ہو کر نہیں رکھا ہے چنانچہ اس کتاب کے بین السطور میں مصنف کے ذہن کی جو جھلکیاں نظر آتی ہیں ان کا ہی یہ اثر ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کر ایک صاحب نے عربی زبان میں یزید کی مدح میں ایک قصیدہ لکھ کر برہان میں اشاعت کے لئے بھیجا ہے جس میں یزید کو امیر المومنین سے خطاب کر کے اس کو دنیا کا سب سے بڑا مظلوم انسان کہا گیا ہے، حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ امام عالی مقام کی شہادت برحق مگر یزید کے بارے میں کف لسان کیا جائے، کیونکہ اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے لیکن اس کی مدح کرنا تو حد درجہ دلیری اور بے باکی ہے۔

### ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور

یہ پاکستان کا مشہور اسلامی اور علمی و تحقیقاتی ادارہ ہے، جس کے کارپرداز نئے افکار اور مغربی علوم و فنون میں بصیرت رکھتے ہیں، اور اسلامی تاریخ و ثقافت پر اپنی علمی و فکری تحقیقات پیش کرتے ہیں، اس ادارہ کا ترجمان مجلہ "ثقافت" ہے جو پروفیسر ایم، ایم شریف، شاہد حسین رزاقی، محمد حنیف ندوی، محمد جعفر پٹواری، بشیر احمد ڈار اور رئیس احمد جعفری جیسے قدیم و جدید علوم و فنون میں دسترس رکھنے

والوں کی ادارت میں شائع ہوتا ہے، اسی ثقافت "فروری ۶۰ء میں" خلافت معاویہ و یزید پر تاثرات کے ذیل میں ادارہ ثقافت اسلامیہ کی ترجمانی کرتے ہوئے اظہار خیال کیا گیا ہے، اس ٹھوس اور خالص علمی اور فکری ادارہ کی اس رائے کو بھی ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔

مسلمانوں میں فرقہ آرائی، تخریب اور افتراق باہمی پہلے ہی سے کچھ کم نہیں ہے، اکابر امت اور مصلحین ملت کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان آپس میں متحد ہوں، ماہ الاختلاف حیرتوں سی الامکان نظر انداز کیا جائے مشترک اور متفق علیہ امور کو بنیاد و اساس قرار دے کر ملت اسلامیہ کا کاروان سبک سیر وزمین گیر پھر عروج و فروغ کی منزل مقصود تک بڑھے لیکن افسوس ہے کہ ان مساعی کے مقابلہ میں وہ کوشش زیادہ بار آور ہوتی ہیں جو افتراق و اختلاف باہمی کی خلیج کو وسیع کرنے والی ہوں، مسلمانوں کے مختلف فرقوں کو متحد کرنے والی انہیں شانہ بشانہ آمادہ عمل کرنے والی اور دوش بدوش ملت اسلامیہ کو مستحکم کرنے والی کوشش تو مشکل سے کامیاب ہوتی ہیں لیکن ان میں اختلاف پیدا کرنے والی بالکل ذاتی کوششیں بھی اجتماعی فتنہ و فساد اور ہنگامہ آرائی کا سبب بن جاتی ہیں، خلافت معاویہ و یزید نامی کتاب محض ایک شخص کی نادانی و کج فہمی کا کرشمہ ہے، جس کے پس پشت کوئی تنظیم نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی تحریک نہیں، اور اس کتاب کو اور اس کے فساد انگیز مندرجات کو نظر انداز کر دینا سہی قرین صواب تھا، لیکن بد قسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور مصنف تو گوشہٴ اعیاف میں بیٹھ گیا، لیکن فریقین

من و گرزو میدان وافر اسیاب

کانفرہ لگاتے ہوتے میدان میں اترے

اس کتاب کا مقصد تصنیف اگر یہ تھا کہ مسلمانوں میں افتراق، ہنگامہ آرائی، فتنہ و فساد، دشنام طرازی اور آپس میں گالیاں ہیں، غیروں میں تالیاں ہیں "کا منظر ایک مرتبہ دنیا پھر دیکھ لے تو ماننا پڑے گا کہ مصنف اپنے مقصد میں پورے طور پر کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس کتاب کے جواب میں جو کتابیں لکھی گئیں ہیں وہ بھی ایسے ہی شرانگیز ثابت ہوئیں اور مسلمان افتراق و انتشار پیدا کرنے والے ایک نئے فتنے کا شکار ہو گئے، افسوس ہے کہ لاعلمی کی وجہ سے بعض حلقوں میں اسے ایک تحقیقی کام سمجھا گیا، اور ایک بزرگ تو اس درجہ متاثر ہوئے کہ اس کتاب کے مندرجات کا جائزہ لینے کے لئے ایک مجلس تحقیقات قائم کرنے کا مطالبہ تک کر دیا،

جو لوگ اسے تحقیق کا شاہکار قرار دے رہے ہیں، انہوں نے یہ نہ سوچا کہ جو شخص آئینہ بند کر کے ہر تاریخ کو جھوٹ کا طومار قرار دے سکتا ہے، جو ہر بڑے مصنف پر کم فہمی تعصب، اور نادانی کا الزام لگا سکتا ہے لیکن اپنے مطلب کے حوالے نہایت ڈھٹائی کے ساتھ اسی "جھوٹ کے طومار سے دیتا ہے، جو اپنے مقصد کے خلاف تمام مستند کتب تاریخ کو حرف غلط قرار دیتا ہے لیکن حسب ضرورت آٹھانی تک کے حوالے دینے سے نہیں چوکتا، اس کی تحقیقات کو کس طرح درست مانا جا سکتا ہے، انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ جو شخص لارنس کو محقق کا خطاب دے سکتا ہے وہ خود کس قسم کا محقق ہوگا، کون نہیں جانتا کہ لارنس ایک دریدہ دہن یا وہ گو اور شاتم رسول مستشرق ہے، اور اس کتاب کی تحقیق سے مرعوب ہونے والے اصحاب نے یہ بھی نہ سوچا کہ بعض مستشرقین نے عام طور پر اور لارنس نے خاص طور پر تحقیق کے نام سے کذب و افتراء کے جو مجموعے تیار کئے ہیں انہوں نے اپنے ملحم بالغیب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، بلکہ خلافت معاویہ و یزید کے مصنف کی طرح تاریخ اسلام

ہی کے صفحات سے اپنی تحقیق کا قصر فلک نما تعمیر کیا ہے، یعنی جہاں چابا غلط ترجمہ کر دیا، جہاں چابا، سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا، جہاں چابا زید کا قول خالد سے منسوب کر دیا، جہاں چابا خالد کی ٹوپی زید کے سر پر رکھ دی عرب مورخین قاری کی قوت مدرکہ ماخذ و استنباط اور ملکہ نقد و نظر پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی تاریخوں میں صحیح اور غلط قابل اعتماد اور ناقابل یقین ہر طرح کے واقعات سلسلہ اسناد کے ساتھ درج کر دیتے ہیں، انہی کتابوں کو سامنے رکھ کر وہ کتابیں بھی لکھی جاسکتی ہیں جو شبلی نعمانی، سلیمان ندوی اور شاہ معین الدین ندوی وغیرہ کے قلم سے نکلی ہیں، اور انہی کتابوں کو سامنے رکھ کر وہ داستان طلسم ہوش ربا بھی تیار کی جاسکتی ہے جو عباسی صاحب نے پیش کی ہے،

## شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا صحیح مسلک

(از مولانا اویس ندوی نگرانی استاد تفسیر دارالعلوم ندوہ لکھنؤ)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تصنیفات میں منہاج السنۃ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اس کتاب کی تاریخ یہ ہے کہ شیخ الاسلام کے زمانہ کے ایک شیعہ عالم ابن مطہر علی نے مذہب امامیہ کی تائید و نصرت میں منہاج الکرامة کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب میں پانچ باتوں پر بحث تھی، (۱) مسئلہ امامت، (۲) مذہب امامیہ کا واجب الاتباع ہونا (۳) امامت سیدنا علی کے دلائل، (۴) ائمہ اثنا عشر کی امامت (۵) حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمان کی خلافت کا ابطال

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنۃ کے نام سے اس کتاب کی ایک محققانہ تردید لکھی، اور ابن مطہر علی کے ہر اعتراض کا انتہائی مدلل جواب دیا ان جوابات



کے ضمن میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور امیر معاویہؓ کے اختلافات نیز سیدنا حسینؓ کے واقعہ کربلا کا ذکر بھی آیا ہے، جن لوگوں نے منہاج السنۃ کو بالاستیعاب نہیں پڑھا ہے، ان کو یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ شیخ الاسلام نے منہاج السنۃ میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت سیدنا حسینؓ کے موقف سے اختلاف کیا ہے بعض تازہ تصنیفوں میں اپنے نظریات کی تائید میں انہیں عبارتوں سے کام لیا گیا ہے حالانکہ یہ بات قطعاً غلط ہے،

صحیح صورت حال یہ ہے کہ شیخ الاسلام نے اس کتاب میں جا بجا یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ سیدنا علیؓ و سیدنا امیر معاویہؓ کے سلسلے میں ہمارا وہی خیال ہے جو محققین اہل السنۃ والجماعت کا ہے، لیکن اگر شیعہ حضرات، حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت عمر فاروقؓ پر معترض ہوں گے تو جس دلیل سے وہ ان لوگوں پر معترض ہوں گے وہی اعتراض سیدنا علیؓ پر بھی ہو سکتا ہے،

اسی اصول کے پیش نظر انہوں نے مسائل متعلقہ میں تفصیلی گفتگو فرمائی ہے ورنہ جہاں تک سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہؓ کے حالات کا تعلق ہے شیخ الاسلام کی رائے وہی ہے جو عام اہل السنۃ والجماعت کی رائے ہے، چند حوالے ملاحظہ ہوں،

منہاج السنۃ ج دوم صفحہ ۶۰۶ میں ارشاد ہے

اہل سنت کا اتفاق ہے کہ حضرت علیؓ کا مرتبہ بڑا ہے، اور وہ امامت کے زیادہ حقدار ہیں، اور خدا اور رسول اور مسلمانوں کے نزدیک افضل ہیں بمقابلہ امیر معاویہؓ کے، اور سیدنا علیؓ تو ان سے بھی افضل ہیں جو امیر معاویہؓ سے افضل ہیں،

اسی جلد دوم صفحہ ۲۱۹ میں ارشاد ہے

ایک جماعت کہتی ہے کہ بہتر تھا کہ لڑائی نہ ہوتی، لڑائی کا نہ ہونا دونوں گروہوں

کے حق میں بہتر تھا، لیکن امیر معاویہؓ کے معاملے میں حضرت علیؓ زیادہ حق سے قریب تھے، یہی قول امام احمد اور اکثر ائمہ اور اکابر صحابہ و تابعین کا ہے،

جلد سوم صفحہ ۲۴۱ میں فرمایا

جمل و صفین میں اکثر صحابہ نے نہ ادھر سے جنگ میں شرکت کی نہ ادھر سے مثلاً سعد بن ابی وقاص، ابن عمر، اسامہ بن زید، محمد بن مسلمہ، مگر اس کے باوجود یہ سب لوگ حضرت علیؓ کی عظمت کرتے تھے، ان سے محبت رکھتے تھے، اور ان کو دوسروں کے مقابلہ میں بڑا جانتے تھے، اور ان کے زمانہ میں کسی کو ان کے مقابلہ میں امامت کا زیادہ حقدار نہیں جانتے تھے،

جلد دوم صفحہ ۳۰۳ میں فرمایا

اہل سنت خلفاء کی خلافت پر نصوص سے استدلال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کی خلافت اہل شوکت کی بیعت سے منعقد ہو گئی، اور حضرت علیؓ کی بیعت اہل شوکت نے کی تھی گو ان پر وہ اجماع نہ ہو سکا جو ان سے پہلوں پر ہوا تھا، مگر کوئی شک نہیں کہ اہل شوکت کی بیعت سے ان کو طاقت حاصل تھی، اور نص دلالت کرتی ہے کہ ان کی خلافت، خلافت نبوت تھی، اور جن لوگوں نے ان پر بیعت نہیں کی، ان کا عذر اس سے زیادہ ظاہر ہے جیسا کہ سعد بن عبادہ کا عذر حضرت صدیقؓ پر بیعت نہ کرنے کا ظاہر ہے،

اپنے اسی خیال کا اظہار شیخ الاسلام نے اپنے رسالہ الوصیۃ الکبریٰ میں بھی

حسب ذیل الفاظ میں کیا ہے۔

ہم یقین رکھتے ہیں کہ سیدنا علیؑ افضل اور حق سے زیادہ قریب تھے، بمقابلہ امیر معاویہؓ کے اور ان لوگوں کے مقابلہ میں جنہوں نے ان سے قتال کیا (ص ۲۹ مجموعہ رسائل کبریٰ جلد اول)

شیخ الاسلام کی جن عبارتوں کو سیدنا علیؑ پر اعتراض سمجھا جاتا ہے اس کی حقیقت امامیہ کے محض الزامی جوابات کی ہے، اس کی بھی دلیل ملاحظہ ہو،  
منہاج السنۃ جلد چہارم صفحہ ۱۲۱ میں ارشاد ہے (ملخصاً)

حضرت علیؑ آخر خلفاء راشدین میں سے ہیں، جن کی خلافت خلافت نبوت و رحمت ہے، لیکن اگر معترض حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی قدح کرے گا (آگے خلافت شیخین پر قدح کی تفصیل ہے) تو معلوم ہے کہ اگر (شیخین کی) یہ قدح صحیح ہو گی تو بدرجہ اولیٰ اس کے حق میں زیادہ صحیح ہو گی جس نے مسئلہ خلافت میں قتال کیا وغیرہ۔

اور جب ہم خوارج کے مقابلہ میں حضرت علیؑ کی طرف سے دفاع کرتے ہیں تو ہم شیخین کی طرف سے بطریق اولیٰ دفاع کریں گے،

جلد سوم صفحہ ۱۹۵ میں حضرت علیؑ کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کوئی حضرت علیؑ پر اعتراض کرے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہؓ، ان کے رفقاء اور حضرت طلحہ و زبیر سے جنگ کی تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ جن لوگوں نے حضرت علیؑ سے جنگ کی حضرت علیؑ ان سے افضل اور عدل و علم میں ان سے زیادہ تھے، اس لئے یہ جائز نہیں ہے کہ ان سے لڑنے والوں کو عادل کہا جائے اور ان کو ظالم کہا جائے۔

پھر فرمایا کہ جس طرح اس قسم کے اعتراض کرنے والوں کے مقابلہ میں حضرت

علی کی طرف سے حمایت اور جواب دہی واجب ہے اسی طرح بطریق اولیٰ حضرت عثمانؓ کی طرف سے حمایت ضروری ہے۔

یہی صورت سیدنا حسینؓ کے معاملہ میں بھی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس مسئلہ میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو عام اہل سنت کا ہے،

منہاج السنۃ جلد دوم صفحہ ۲۵۶ میں فرماتے ہیں،

اس کے مقابلہ میں ناصبیوں کا غلو ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت حسینؓ نے خروج کیا اور ان کا قتل جائز تھا، اس لئے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کسی ایک آدمی پر متفق ہو اور کوئی آکر تم میں تفریق پیدا کرنا چاہے اس کی گردن مار دو، وہ خواہ کوئی بھی ہو، اہل سنت ان دونوں کی تردید کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سیدنا حسینؓ مظلوم شہید کئے گئے، اور جن لوگوں نے ان کو قتل کیا، وہ ظالم اور حد سے بڑھنے والے تھے، اور جس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ ان پر صادق نہیں ہوتی ہے۔ اسی جلد کے صفحہ ۲۴۷ میں فرماتے ہیں۔

بے شبہ سیدنا حسینؓ مظلوم شہید ہوئے، اور جس نے قتل حسین کا ارتکاب کیا، یا قتل حسین میں امداد کی، یا قتل سے راضی ہو اور خدا اور اس کے رسول کا گنہ گار ہے۔

شیخ الاسلام نے اسی خیال کا اظہار رسالہ الوصیۃ الکبریٰ میں ان الفاظ میں کیا ہوا ہے، (مختصاً)

سیدنا حسینؓ کا قتل عظیم الشان مصائب میں سے ہے کیونکہ سیدنا حسین اور ان سے پیشتر سیدنا عثمان کا قتل اس امت کے اندر فتنوں کا سب سے بڑا سبب ہے، اور ان لوگوں کو انہوں نے قتل کیا جو خدا کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں، (مجموعہ رسائل کبریٰ صفحہ ۳۰۱)

حیدرآباد لطیف آباد، پرنٹ نمبر ۸-۲۱

یزید کے متعلق بھی حافظ ابن تیمیہ نے وہی مسک اختیار کیا ہے جو محققین اہل السنۃ والجماعت کا پسندیدہ ہے، رسالہ الوصیۃ الکبریٰ میں انہوں نے صراحت کی ہے کہ یزید کے متعلق لوگوں نے افراط و تفریط کا معاملہ اختیار کر رکھا ہے ایک جماعت نے کافر و زندیق کے لقب سے اس کو یاد کیا ہے دوسری جماعت نے اس کو ائمہ بدی میں شمار کیا، یہ دونوں طریقے اہل علم کے مسک کے خلاف ہیں، یزید نہ تو کافر و زندیق تھا، اور نہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے صلح و تقویٰ کی شہرت ہو، وہ گو قتل حسینؑ کا خواہشمند نہ تھا، مگر اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اس نے اس حادثہ پر بیزارگی ظاہر کی ہو یا قصاص لیا جو جو کہ اس پر واجب تھا اسی ترک واجب کی بنا پر اہل حق اس کو ملامت کرتے ہیں، اہل سنت کا مسک یہ ہے کہ ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور نہ گالی دیتے ہیں، وہ بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ تھا، بہتر یہ ہے کہ اس کے متعلق ہم اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں، کیونکہ اسی وجہ سے جاہل کھنسنے لگے کہ وہ اکابر صالحین اور ائمہ عدل میں سے تھا، حالانکہ یہ کھلی ہوئی غلطی ہے

(ملخص) (الوصیۃ الکبریٰ صفحہ ۲۲۹ تا ۳۰۱)

سطور بالا کے پڑھنے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ بعض نئی تصنیفات میں شیخ الاسلام کی --- عبارتوں سے جو نفع اٹھانے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ کس قدر غلط اور بے محل ہے میں نے اس نئی کتاب کے تمام حوالوں کو منہاج السنۃ سے ملا کر دیکھا ہے وہ سب حوالے اسی موقع کے ہیں، جہاں شیخ الاسلام نے مناظرانہ رنگ میں الزامی جواب دیا ہے، اپنا اصل مسک نہیں بیان کیا ہے، اس لئے مصنف نے حافظ ابن تیمیہ کی عبارتوں سے جو غلط مطلب نکالنا چاہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، (صدق جدید ۱۹ جنوری ۱۹۶۰)

صومیا

ترتیب  
سید الفیض المصطفیٰ

## خلافت معاویہ و وزیر

### ”ایک جائزہ“

رازیہ جناب مولانا مجاہد الاسلام القاسمی مدرس مدرسہ جامعہ مدنی خانہ لاہور  
مولانا محمود احمد عباسی صاحب کتیب ”خلافت معاویہ و وزیر“ اس وقت پورے ملک میں محلِ بحث و نظر  
بنی ہوئی ہے۔ اہم الحروف نے بھی اس کتاب کا مطالعہ کیا اور جو کچھ محسوس کیا اسے پیش کر دینا ضروری

ہم قلم ہے

کتاب کی ابتدا اعراف مؤلف سے ہوتی ہے۔ مصنف نے پیش لفظ میں جہاں عہد نبوی امیر کی برکات پر روشنی  
ڈالی ہے وہاں تمام مستند تاریخوں کے دربرہ استناد کو بھی پہنچ کیا ہے۔ مصنف کے نقطہ نظر سے نبوی امیر کے  
باسے میں دوسری صدی ہجری میں وضعی روایات اور سن گھڑت انسانوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا گیا۔ اس طرح  
اسلامی تاریخ کی بنی مسند کتاب میں ان کو بیچ سے یکتلم کھال دیا گیا ہے۔ اگر مصنف کے اس نقطہ نظر کا  
تیسلم کر دیا جائے تو بھر نہایت سہولت کے ساتھ تاریخ کے ان تمام اہم واقعات کا انکار کیا جاسکتا ہے۔ جن پر  
شک دوہم کا کوئی گند نہیں۔ تحقیق و تنقید کا یہ طریقہ تو صحیح ہے کہ مخالف و موافق اور ہر واقعات کو سامنے  
رکھ کر اہول روایت اور اہول روایت کی بنیاد پر بیچ کو جھوٹ سے الگ کیا جائے۔ اور صحیح ہو رہا حال  
کی تحقیق کی جائے۔ لیکن تحقیق کا یہ طریقہ بالکل انوکھا ہے کہ ایک رائے پہلے سے قائم کرنی جائے پھر اگر  
اس مزبور نقطہ نظر کے خلاف کوئی بات کو مصنف گھدی ہے تو اس روایت کو ناقابل اعتبار ٹھہرانے کا  
خاطر اس تصنیف اور اس کے تمام مواد کو غلط قرار دیا جائے۔ تاہم صحیح طبری یا اس طرح کی دوسری تاریخیں  
نکلا ہے کہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جن کی پیش کردہ معلومات کو لاریب نیک کی سند حاصل نہیں

ان میں صحیح مغلط کا احتمال ہے بنا بریں صحیح طریق کار یہ ہے کہ ان روایات پر جرح و نقد کیا جائے اور صحیح کو غلط سے الگ کیا جائے لیکن اگر ان تمام روایات کو غلط قرار دینے کے لئے امام ابن جریر طبری جیسے امام اہل سنت و جماعت پر نسبی اور غالی شیعہ کی کاہل لگا دیا جائے تو اس صحیح طریق کار نہیں کہا جاسکتا۔

مصنف نے اس پوری جماعت مورخین میں سے صرف ابن خلدون کو بخشا ہے۔ اور ان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ لکھے ہیں۔

”البتہ ایک منفرد مثال علامہ ابن خلدون کی ہے جنہوں نے اپنے شہرہ آفاق مقدمہ تاریخ میں بعض مشہور و فہمی روایات کو نقد و درایت کے معیار سے پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ نام نہاد مورخین کہا ہے جس جہاں کہا ہے کہ تاریخ کو خرافات اور وہابی روایات سے انہوں نے تشریح کیا۔“  
 خطبہ سے مولوی علی احمد عباسی کے قلم سے تعارف ”بے اس میں بھی تاریخ کو دوسری ہمدی پھری میں دہمی روایات سے بھرنے اور تاریخ اسلام کو صحیح کر دینے کا الزام قائم کیا گیا ہے اور پھر سبائی جو تحریک کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ پھر خباب بن اسماعیل کا لکھا ہوا مقدمہ ہے۔ اس میں ان تعصبات اور غلو پر تبصرہ کیا گیا جو تاریخ روایات پر اثر انداز رہے ہیں۔ اس کے بعد اہل کتاب شروع ہوتی ہے۔

اہل کتاب کے بنیادی مباحث یہ ہیں کہ زید خلیفہ عادل ہے، وہ اہلی کردار، بلند کیر کسٹر اور مختلف قوموں کا حامل تھا، اس کی خلافت جائز تھی، اس پر تمام صحابہ کا اتفاق تھا۔ اور حضرت حسین بن علی کا خروج قطعاً جائز نہیں تھا۔ ان کے خروج کی حیثیت ”خلیفہ عادل کے مقابلے میں کسی باغی کے خروج کی ہے۔ ان کا قتل محض ایک اتفاقی واقعہ تھا جو خردمان کے سبائی ساتھیوں کی وجہ سے پیش آ گیا۔

کتاب میں ضمنی طور پر کہیں کہیں خود حضرت علی پر بھی بے جا نقد کیا گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے موازنہ کرتے ہوئے کہیں لکھا گیا ہے کہ حضرت علی کی بیعت ہی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کبھی کوئی ملک فتح نہ کیا، ان کے زمانہ میں کبھی جہاد نہ ہوا۔“ اپنے زمانہ خلافت میں کبھی انہوں نے حج نہ کیا۔ اور نہ امارت۔ حج کے فرائض ادا کئے۔ سب نہیں بلکہ ان کی اولاد میں سے بھی کبھی کسی نے امارت حج کے فرائض ادا نہیں کئے۔ خلافت حضرت معاویہ کے اور ان کے لائق فرزند امیر زید کے کہ انہوں نے تین بار امارت حج کے فرائض



ادائے ذمیرہ وغیرہ۔

اس طرح بعض جگہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معنیٰ حضرت علیؑ پر حضرت مسیحؑ ہی کو نہیں بلکہ تیرید کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ایک جگہ حضرت معاویہؓ کے فضائل کا ذکر کرتے کرتے یہ راستہ دیکھتے ہیں حضرت عمرؓ سے بھی انہیں بڑھا دیتے ہیں۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تمام علماء اسلف کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ ہم ان کی بہی نزاعات کے بارے میں "کف لسان" کریں اور خود انہی خواہ کے لئے تفضیل و موازنہ کی بحثوں سے پہنچے زبان و قلم کو آلودہ نہ کریں۔

ابو بکر و عمر و عثمان و علیؓ معاویہؓ و عمرو بن العاصؓ، طلحہ و زبیر، حسین و حسنؓ، پسر ابی آفتاب و ابی تہابؓ تھے ان سب نے آفتاب نبوت سے روشنی حاصل کی تھی اور سب ہمارے لئے "سجیہ ہدایت" تھے قرآن کریم نے انہیں

شہدائے اللہ عنہم و رضوانا علیہم

کا امتیاز بخشا اور جناب رسالتؐ نے

اصحابی کا لجم، بایہوا امتدادیہ اھتدیتو

فرمایا۔

انہیں حضرات کی بہرہ و جذبہ نے دین کو محفوظ و مامون بنانے میں ہم تک پہنچایا اور ان کا یہ احسان قیامت تک امت کے سر پر رہے گا۔ تمام عمال اہل علم نے صحابہ کرام کو ان کے باہمی نزاعات میں خلص تسلیم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ حضرات اپنی اجتہاد ہی رایوں پر عامل تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کا اختلاف فنی مسائل میں ہوا ہے۔ اور وہ ان مسائل میں اجتہاد کے مجاز تھے۔ ان کی بلند کرداری، لہیت، خلوص اور خیرا پرستی کی بچی زندگی اس پر شاہد ہے۔ صحابہؓ اپنی خواہش نفس کے پیرو نہیں تھے۔ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر جزئیہ میں مہرِ رضائے الہیٰ لگو ملنے دیتے تھے۔ یہ ان کا صلح نظر تھا، اور یہی ان کا نصب العین بہر حال کتاب کے جن بنیادی مباحث پر گفتگو کرنی ہے۔ ان کے تجزیہ سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے

واقعات پیش کے ہائیں۔ اور نتائج نکال کر گنگو کی جہائے مصنفؒ پر تحریر فرماتے ہیں۔  
 ”ہم عصر حضرات کو جن میں کثیر تعداد مہاجر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین کرام کی مثال  
 تھی امیرزید کی سیرت اور کردار میں کوئی خامی ایسی نظر نہیں آتی تھی جس کی بنا پر عقد بیعت خلا  
 نامائز ٹھہرے یا بعد بیعت ان کے خلاف خروج و بغاوت کا جواز نکالا جائے۔“

۴۹ پر لکھا ہے

”علم و فضل، تقویٰ و پرهیزگاری، پابندی صوم و صلوٰۃ کے ساتھ امیرزید بدرجہ درجہ کریم النفس،  
 عظیم الطبع، سنجیدہ و متین تھے۔“  
 ۵۰ پر دیکھئے

سیرت امیرزید کا یہ مختصر سا تذکرہ اس سلسلہ میں کیا گیا ہے کہ ان کے کردار میں کوئی ایسی خامی نہیں  
 تھی کہ ان کے خلاف خروج کا جواز نکالا جاسکتا  
 ۵۱ پر تحریر ہے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احکام شریعت کی تشریحات سے واضح ہے کہ حضرت حسینؑ  
 کو امیرزید کے خلاف اہرام خروج کا جواز مطلق نہ تھا۔“

مصنف نے زید کے ایک شعر سے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ حضرت حسینؑ نے بھی امیرالمؤمنینؑ کی  
 زندگی میں امیرزید کی ولیدگی کی بیعت کی تھی۔ مثلاً

اور اپنے اس دعویٰ کی تائید میں ایک یورپین مورخ دوزی کے جملے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔  
 ”آزاد اور بے لاگ مورخین نے حضرت حسینؑ کے اقدام خروج کے سلسلے میں اسی بات کو بیان  
 کیا ہے۔ مشہور مورخ دوزی کا ایک فقرہ اس بارے میں قابلِ لحاظ ہے، وہ لکھتا ہے:-

ایرانی شہید نے اپنے اس تہویر میں فدخال بھرے اور حضرت حسینؑ کو بجائے ایک معمولی سمت آنا  
 کے جو ایک انوکھی تعزیر و خطائے ذہنی اور قریب قریب غیر منقول حجتِ جاہ کے کارن ہلاکت کی جانب  
 تیرنگامی سے رواں دواں ہوں، دلی اللہ کے روپ میں پیش کیا ہے۔ ان کے ہم عصروں میں اکثر و بیشتر

انہیں ایک دوسری نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ انہیں عہد شکنی اور بغاوت کا قصور وار خیال کرتے تھے۔ اس لئے کہ انہوں نے حضرت سادہؓ کی زندگی میں نیرید کی وسیعہ کی بیعت کی تھی اور اپنے حق یا دعوئے خلافت کو ثابت نہ کر سکے۔

اسی طرح ۹ پر "اقدام خروج کی غلطی" کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں مگر دار خلیفہ میں کوئی ٹھانی یا برائی ایسی نہ تھی کہ اس کے خلاف خروج کا جواز نکالا جاسکتا۔

پھر ۱۰ پر جو کچھ لکھے ہیں۔ اسے غور سے پڑھا جائے۔

اب اگر بالفرض یہ ثابت کر دیا جائے کہ حضرت حسینؓ نے اپنے موقف سے رجوع نہیں کیا تھا تب بھی دینی زاویہ نگاہ سے امیر المؤمنین پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا بلکہ اس سے پہلے جو واقعات گذر چکے ہیں ان کی روشنی میں ایسا اعتراض بھی حکومت پر وارد نہیں ہوتا جیسا کہ حضرت علیؓ فرمائی ہیں۔

حضرت علیؓ کی بیعت مکمل نہیں ہوئی تھی۔ امت کی بڑی اکثریت ان کی بیعت میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ ان کے خلاف جو حضرات کھڑے ہوئے وہ بڑی جمیعت رکھتے تھے۔ ان کے قبضہ میں ملک تھے اور لاکھوں انسانوں کی حمایت انہیں حاصل تھی۔ پھر ایسا خلیفہ جسے جمہور کی حمایت حاصل نہ ہو جب شرعاً اس کا مجاز ہے کہ اپنے مخالفوں کے خلاف تلوار اٹھائے تو امیر نیرید جو متفق علیہ خلیفہ تھے جن کا پرچم تمام عالم اسلام پر لہراتا تھا جن کی بیعت میں سیکڑوں صحابہ کرام خصوصاً حضرت عبداللہ بن عباسؓ نیز حضرت حسینؓ کے بھائی حضرت محمد بن علیؓ راہنہ خلیفہ ایسی معتد اور مقدس ہتھیار داخل تھیں۔ وہ اس کے مجاز کیوں نہیں کہ اپنے خلاف خروج کرنے والوں کا مقابلہ کریں۔

حاصل یہی ہوا کہ حضرت علی بن ابی طالبؓ جن کی بیعت مکمل نہیں ہوئی تھی، امت کی بڑی اکثریت ان کے خلاف تھی اور جمہور امت کی حمایت حاصل نہیں تھی، اگر حضرت سادہؓ اور حضرت عائشہؓ کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو نیرید کو جو متفق علیہ عادل خلیفہ تھا جس کی حکومت کا پرچم تمام عالم اسلام پر لہراتا تھا، اس کا حق کیوں نہیں کہ وہ حضرت حسینؓ پر تلوار اٹھائے جو حکومت عادلہ سے بغاوت کے مجرم تھے۔ آگے مصنف نے خود واضح کیا ہے :-

حضرت علی مرتضیٰ کی تواریخ اگر امام المؤمنینؑ کے خلاف بے نیام ہو سکتی ہے..... تو حضرت حسینؑ کے خلاف تواریخوں نہیں اٹھائی جا سکتی!

اس کے بعد مصنف نے حضرت حسینؑ کی دعوت اور تحریک کی بنیاد کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے جن کی (حضرت حسینؑ کی) دعوت محض یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور حضرت علیؑ کا فرزند ہونے کی حیثیت سے خلیفہ نہیں بنایا جائے!

اس طرح حضرت حسین بن علیؑ مصنف کے نقطہ نظر سے محض خاندانی اور نسلی فضائل کی بنیاد پر پیڑہ کے خلاف دعوتِ خلافت لے کر اٹھے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اسلام اس طرح کے دعویٰ تسلیم کرنے کے لئے قطعاً تیار نہیں ہے۔ اسی لئے مصنف کے خیال میں حضرت حسینؑ ایک حکومتِ عادلہ اور خلافتِ صحیحہ کے بانی تھے لیکن اس جرمِ بغاوت کے باوجود شرف سے ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کی گئی خود گتھے ہیں "باوجود اس کے ان کے خلاف شروع سے تشدد اور کارروائی نہیں کی گئی"۔

ان اقتباسات اور کتاب میں پھیلے ہوئے دوسرے خیالات کی روشنی میں مصنف کے تصورات کا خلاصہ یہ ہے

الف :- یہ زیرِ علم و فضل، تقویٰ و پرہیزگاری کا جامع تھا۔ صوم و صلوات کی پابندی کے ساتھ ہر درجہ کریم النفس، حلیم الطبع، بخیدہ و متین تھا۔ خلافت کے لئے جن صفات کی ضرورت ہے وہ ——— بربرہ اتم اس میں موجود تھیں۔

ب :- ان سب باتوں کے بعد وہ خلیفہ منتخب ہوا۔

ج :- صحابہ کرامؓ اور جمہور اصحابِ صل و عقدا اس کی خلافت پر متفق تھے اور کردارِ بزرگ میں کوئی ایسی نہایتی تھی جس کی بنیاد پر اس کے خلاف خروج کو جائز کیا جائے۔

د :- ایسے عادل اور متقی خلیفہ کے خلاف خروج شرعاً حرام ہوگا اور اسے خلافتِ عادلہ کے خلاف بغاوت کہا جائے گا۔

س :- ان مقدمات کی روشنی میں ظاہر ہے کہ مصنف کے نقطہ نظر سے حضرت حسینؑ کا اہم خروج

حرام ہو گا اور نجات۔ اور چونکہ حضرت حسینؑ نے.... حضرت معاویہؓ کی جات میں یزید کی ولی مہدی کی بیعت بھی کر لی تھی۔ اس لئے وہ شرفاً نورا اور نفع مہد کے مجرم تھے۔

ص:۔ ان سب امور سے زیادہ اہم حرم ان پر یہ عائد ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنی دعوت اور تحریک کی بنیاد ہی ایک ایسی غلط بات پر رکھی جو قطعاً شریعت اسلامی کی روح کے خلاف ہے اسلام آیا ہی تھا نسلی بھلا دہری کو مٹانے اور اُسے جڑ سے اکھڑنے میں حضرت حسینؑ کا مطالبہ خود مصنف کے الفاظ میں ایسا نہ تھا کہ کتاب اللہ سے اس کی کوئی سند پیش کی جا سکتی ہے نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تعامل خلفائے راشدین اور زوار اہل بیت سے (۱۵)

لیکن ان سب جرائم کے باوجود حکومت وقت نے ان کے خلاف شروع سے تشدد و ذکاوت کا رویہ نہیں کیا؛ حضرت حسینؑ کو بلا چہچہ اور ان کی ملاقات اس فوجی دستے سے ہوئی جو ہتھیار رکھنے والے کی غرض سے ڈیرہ ڈالے ہوئے تھا حضرت حسینؑ کے ساتھیوں نے جو سبائی ذہنیت رکھتے تھے۔ اس دستہ پر حملہ کر دیا اور اچانک جنگ چھڑ گئی اور یہ واقعہ حُزُنِ مِشْرِیْنِ آگیا۔

اس کتاب کے مطالعہ کے بعد راقم الحروف نے جو کچھ محسوس کیا۔ وہ یہی امور ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ تمام اہل انصاف اس احساس میں شریک ہوں گے۔ کتاب کے پیش کردہ مندرجہ بالا تصورات حق ہیں۔ یا باطل؟ اس کے فیصلہ کی ایک راہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ اس سلسلہ میں تاریخ کی تمام کتابیں واضح نظریات پیش کرتی ہیں۔ لیکن جہاں کہ عرض کیا گیا مصنف کو عام کتب تاریخ پر اعتماد نہیں ہے ہاں ان کو ان تمام کتب تاریخ میں ابن خلدون پر اعتماد ہے، جیسا کہ مصنف کی تصریح گذشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔ ایک اور جگہ رقم طراز ہیں۔

علاء مہر مہروف نے ولایت مہدی کی بحث میں امیر یزید کی ولی مہدی کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے۔ وہ اسی کتاب میں دوسری جگہ درج ہے۔ اس کے پیش نظر راقم الحروف کا یہ استنباط شاید غلط نہ ہو کہ تنہا وہی ایک مورخ ہیں جنہوں نے دیگر وحشی روایات کی طرح ساتھ کر بلا کی فتوحات کو اسی معیار سے جانچنے کی کوشش کی تھی جس کی پاداش میں ان کی کتاب کے تمام نسخوں سے صرف یہی تین ورق... جو

اس حادثہ کے بارے میں تمہیں ایسے غائب ہوئے کہ آج تک کسی فردِ بشر کو چار دواگ عالم میں دستیاب نہ ہو سکے  
روضہ عرض مولف)

مصنف کا یہ استنباط کس ہرگز صحیح ہے اس سے بحث نہیں۔ یہاں تو ہر بی بی عرض کرنا ہے کہ مصنف  
کو ابنِ خلدون پر پورا بھروسہ ہے اس لئے ہم دوسری تدریخوں کا سہارا لینے کے بجائے خود ابنِ خلدون کی  
راے مذکورہ بالا مسائل کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔

کیا یہ عادل متقی | علامہ ابنِ خلدون نے اپنے شہرہ آفاق مقدمہ تاریخ میں رجوان کی تاریخی معلومات  
اور پیرامیٹرز کا ارتقا | اور تحقیقات کا پنچوڑ ہے اس سلسلے پر بحث کرتے ہوئے کہ نام صحابہ شیعہ ہدایت تھے۔  
ان کی عدالت، ان کا تقویٰ اور ان کا انحصار محتاج بحث و نظر نہیں وہ اس سے بہت بالاتر ہیں کہ ان کے  
بارے میں نفسانیت کا وہم بھی کیا جاسکے۔ اس لئے حضرت امیر معاویہؓ کا مزید کوئی عہد بنانا بھی بیجا  
تھا اور ان بات کی تفصیلات کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے۔

و عرض هنا امور متداولہ و الضرومات | یہاں چند معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں

الطایبان المحت فیہا (۱۷۶) حق کا واضح کردینا ضروری ہے۔

اس سلسلے میں پہلا سوال کیا ہے؟ اور ابنِ خلدون نے اسے کس طرح حل کیا ہے؟ ذرا غور  
سے سنئے اور کہتا ہے

فالاول منها ما حدث فی یزید | پہلا سلسلہ تو یزید کے فتنے کا ہے۔ جو اس کے

من الفسق ایام خلافتہ۔ (۱۷۶) زمانہ خلافت میں پیدا ہو گیا تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب یزید فاسق تھا۔ تو حضرت معاویہؓ جیسے مخلص صحابی نے اسے ولی عہد کیوں بنایا؟  
اس کا ضرور خیال رکھئے کہ ابنِ خلدون ما حدث من الفسق یزید کے فتنے کا جزم و یقین کے ساتھ  
ذکر کرتا ہے مایروسی روایت کیا جاتا ہے، مایعقال رکھا جاتا ہے، ماینسب فتنے کی اس کی طرف  
نسبت کی جاتی ہے، یا اس طرح کے دوسرے الفاظ استعمال نہ کئے جس سے یہ سمجھا جاسکے کہ ان کے نزدیک  
یہ روایات کمزور اور وہابی ہیں۔

اور اگر فقیر یزید کی روایتیں و روایات و محرمات تھیں تو اس کا ہدف جواب یہی تھا کہ ابن خلدون ان روایتوں پر نقد کرتے جیسا کہ ان کی مادت ہے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بلکہ انہیں دوسرے جواب کا سہارا لیا پڑا۔ وہ لکھتے ہیں۔

نایا لك ان تلحن ب معاویة رضی اللہ  
برگزیر گزتم حضرت معاویہؓ کے بارے میں یہ گناہ  
عنه انه علم ذالك من يزيد فانده  
مت کرنا کہ وہ یزید کے اس فتے سے واقف تھے  
اعدل من ذلك و افضل  
اور انہوں نے اس کو (پھر بھی) ولی عہد بنا لیا!

وہ اس سے بالاتر اور بلند ہیں۔

(۱۶۶)

یزید کو ابن خلدون عدالت و تقویٰ کے اعلیٰ مدارج پر سمجھتے ہیں۔ یہاں فقیر و فخر کا مرکب۔ اس کا انوکھا تو مندرجہ بالا جملوں ہی سے ہو جاتا ہے۔ لیکن اگلے جملے میں تو ابن خلدون نے اس کا بھی اعتراف کیا ہے کہ یزید کی طرف جو سستی اور گانے بجانے کی شوق کی نسبت کی جاتی ہے وہ صحیح ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حیات ہی میں پیدا ہو چکی تھی، اور حضرت معاویہؓ اس کی اس حرکت پر ملامت بھی کرتے تھے۔

بل كان يذله ايام حياته في  
بلکہ حضرت معاویہؓ یزید کو اپنی زندگی میں غلام کے  
سماع الغناء و ينهاها عنه  
سننے پر ملامت کرتے تھے اور اس سے منع

فرماتے تھے۔

(ص ۱۶۶)

ابھی تو مندرجہ بالا تہریج پر قناعت کیجئے۔ آئندہ صفحات میں اس سلسلہ کی کچھ اور تفصیل آ رہی ہے۔

### صحابہ کا موقف یزید کے بارے میں

مصنف نے بہت تفصیل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ صحابہ یزید کی امارت پر ہاموش ہی نہیں رہے۔ بلکہ انہوں نے اس کی خلافت کو بخوشی قبول کیا۔ مختلف عہدوں کو قبول کیا اس لئے کہ وہ یزید کو عادل و متقی خلافت کے لائق سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں یزید کے کردار میں کوئی خاصی نہیں تھی۔ وغیرہ وغیرہ۔

دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا موقف خلافتِ یزید اور کردارِ یزید کے بارے میں کیا تھا؟ کیا وہ واقعتاً اس کی عدالت و تقویٰ کے معترف تھے۔ اور اسی لئے وہ حضرت حسینؑ کو اس اقدام سے روک رہے تھے۔ اہلِ خلدون یزید کے فسق اور اس کے بارے میں صحابہ کرام کا مسلک بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔

وما حدث فی یزید ما حدث  
من الفسق اختلف الصحابة  
حينئذ فی شانہ (۱۷۷)  
جب یزید میں فسق و فجور ظاہر ہوا تو اس وقت  
صحابہ کے پاس اس کے بارے میں اختلاف  
رائے ہوا:

خیال رکھئے کہ یزید کا فسق محتاجِ بحث مسئلہ نہ تھا۔ اختلاف ہوا تو اس میں کہ اس امامِ فاسق کے  
سلسلے میں کیا طرزِ عمل اختیار کیا جائے؟

فمنہم من ساء الخرج عليه  
ونقض بغيته من اجل ذلك كما  
فعل الحسين وابن الزبير ومن  
اتبعهما في ذلك (۱۷۷)  
اور دوسری جماعت کا مسلک یہ تھا

وفمنهم من ابى  
کیوں؟ کیا اس لئے کہ یزید کے کردار میں کوئی خرابی نہیں تھی؟ نہیں! بلکہ  
لما فيه من اتسار الفتنه وكثرة  
الفصل مع العجز عن الموقف  
اس لئے کہ اس سے فتنہ ہٹے گا اور قتلِ قتال  
ہوگا پھر حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ یہ  
دعوت پوری ہوگی۔

اب ان صحابہ نے جو طرزِ عمل اختیار کیا ہے وہ بھی سنئے  
فاقتضوا عن یزید بسبب  
اسی فتنہ و فساد کے خوف سے یزید کے خلاف



خروج سے احتراز کیا،

ذات

اور

اقاموا علی الدعاء بعد ایتہ اب وہ لوگ یزید کی ہدایت اور اس سے سلا

والراحة منہ کی نجات کے لئے دعا کرنے میں مشغول ہو گئے

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مسلک یزید کے بارے میں جو کچھ تھا، اس کا اظہار ہی ہوا۔ کہ ناسخ اسے کبھی سمجھتے تھے، بعضوں نے اس بلا سے نجات دلانے کے لئے خروج کیا، اہم پانی جانیں، حکومت عادلہ اور خلافت راشدہ کے قیام کی جدوجہد میں قربان کر دیں، دوسری جماعت نے عام مسلمانوں کو ہتھ و فساد سے بچانے کی خاطر سکوت اختیار کیا۔ اور وہاں کی راہ اختیار کی، ابن خلدون نے اس اختلاف رائے کا تذکرہ کرتے ہوئے بہت قیمتی جملے لکھے ہیں۔

والکل مجتہدون ولا ینکر علی احد  
من الفریقین فقاصدھو فی البد  
وتحرى الحق معروفتہ۔ وفضل اللہ  
الاحسان بعدہ  
یہ سب حضرات جہد تھے ان میں سے کسی پر نیکر  
کرنا جائز نہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ان سب  
حضرات کا نہب العین صرف ٹیکل اور حق ہوتا  
تھا۔ اللہ ان کی اقدار کی ہیں تو فی حق عطا

فرمائے، آمین

(۱۷۷)

حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں خروج کیا؟ ان کی دعوت کیا تھی؟ کیا وہ محض نسل و سلم کے نواسے اور حضرت علیؑ کے بیٹے ہیں، اس لئے انھیں خلیفہ بنایا جائے؟ لیکن انیسویں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مصنف کا یہ نقطہ نظر آپ نہیں ہے جس کی تائید میں کوئی تاریخی شہادت پیش کی جائے، بلکہ تاریخ کا جائزہ ہماری

رہنمائی اس طرف کرتا ہے کہ حضرت حسینؑ کے اقدام کا نہب العین "خلافت عادلہ مجتہدہ کا قیام تھا۔ یزید کا نسب خلافت نبوت کو "خلافت قیصر و کسری" سے بدل رہا تھا۔ یہ فسق گھر کی چار دیواریوں میں محدود رہا تھا۔

بلکہ عوام انہاں کے سامنے گل چکا تھا، اس وقت حضرت امام حسین بن علیؑ کے اجتہاد نے اس طرف پہنچائی  
کی کہ اس "امام جائز" کے سامنے "حق کا اظہار" ضروری ہے اور انھوں نے اس راہ میں اپنی جان دیدی۔  
ابن خلدون لکھا ہے۔

ولما الحین فانہ لما ظہر فسق  
یزید عند الکافہ من اهل  
عصا، بعثت شیعة اهل البیت  
یا لکوتہ لحسین ان یتھو فیتھوا  
حضرت حسینؑ کا معاملہ یہ ہوا کہ بیزیر کا فسق  
اس زمانہ کے تمام لوگوں کے سامنے گل گیا تو  
کوفہ کے طرفدار ان اہل بیت نے نہیں پیغام  
بجھا کہ وہ ان کے پاس چلے آئیں اور یہ لوگ  
ان کی سرگردگی میں اٹھ کھڑے ہوں۔ (۱۸۰)

اب یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک طرف خلیفہ کا فسق ہے جو تمام بلیک کے سامنے بے پردہ ہو چکا ہے۔ دوسری  
طرف اہل کوفہ کی دعوت ہے جو "تحریک" کے لئے شوکت کا سالانہ چہا کرتی ہے۔ حضرت امام حسینؑ نے اپنے  
کراس دعوت کا اہل بھجا اور خروج کا فیصلہ کیا اور اہل کوفہ کے اس پیغام کو بلیک کہا، اب آپ خود کریں  
کہ کیا حضرت حسینؑ نے اس پکار پر بلیک محض اس لئے کہا کہ وہ جاہ و اقتدار کے بھوکے تھے، یا محض اس  
لئے کہ وہ نبی کے نواسے تھے؟ ابن خلدون لکھا ہے۔

سای الحسین ان الخیوج علی  
یزید متعین من اجل فسقہ  
لا میا من لا القدرت علی ذلک  
حضرت حسینؑ نے دئے قائم کی گریزید کے فسق  
و غور کی وجہ سے اب اس کے خلاف خروج  
ضروری ہے خصوصاً اس شخص پر جو اس کی  
قدرت رکھتا ہو۔ (۱۸۰)

معلوم ہوا کہ حضرت حسینؑ کے اقدام خروج کی وجہ بیزیر کی نااہلی تھی، ان کا اپنا تسلی استحقاق نہیں۔

انگے پہل کر ابن خلدون لکھا ہے کہ

حضرت حسینؑ نے اپنے اندر خروج کی قدر محسوس کی اپنی اہلیت اور اپنی شوکت کی وجہ سے  
ابن خلدون لکھا ہے کہ جہاں تک خلافت کی اہلیت اور صلاحیت کا تعلق ہے۔

نکان کما ظن و زیادتا ایت ہیسی وہ بگنھے تھے ویسی ہی تھی بلکہ

اس سے بھی زیادہ

باں شرکت کے اندازہ میں ان سے غلطی ہوئی۔ اس لئے کہ اس وقت ساری کلیدی طاقتیں، اور  
عصبیت بنو امیہ کے ہاتھ میں تھی۔ زمانہ جاہلیت کی عصبیت جو اہم مسائل کے پیش آ جانے کی وجہ سے  
دب گئی تھی پھر ابھرائی تھی، اس لئے اس کا مقابلہ مشکل تھا۔ اس تفصیل کے بعد لکھا ہے کہ

قد تبین لك غلط الحین الا انہ  
فی امر دنیوی ولا یصراہ الغلط  
حضرت حسینؑ کے اندازہ کی غلطی تمہارے سامنے  
واضح ہو گئی، لیکن خیال رکھو کہ غلطی دنیاوی  
امر میں ہوئی اور دنیاوی (سیاسی) غلطی سے

قیلہ (۱۸۱)

انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا،

رہا اس خروج کا شرعی حکم تو ظاہر ہے کہ اس کے جواز میں شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لئے  
کہ اس کی بنیاد مجتہد کے اجتہاد پر ہے۔

جاہل یہ ہے کہ حضرت امامؑ کے خروج کی بنیاد زید کا فسق و فجور تھا ان کی تحریک کی بنیاد خلافت  
عادلہ کا قیام تھا۔ وہ خدا نخواستہ ایک غیر اسلامی چیز یعنی نسلی فضیلت کی بنیاد پر خلافت کے مدعی  
نہ تھے۔

صحابہ کرامؓ کا موقف حضرت حسینؑ کے بارے میں  
جب امام ہمامؑ کا کہنا ہے کہ امام زین العابدینؑ علیہ السلام نے فرمایا کہ  
وہ زید کے فسق کے باوجود اس کے خلاف خروج کے قائل نہ تھے، بعض  
اس لئے کہ فتنہ و فساد کا خطرہ تھا امام صحابہؓ اپنے اس اجتہاد کی بنیاد پر حضرت امامؑ کا ساتھ تو نہ  
دے سکے

لہذا یلعوا الحسین انہوں نے حضرت حسینؑ کی اتباع نہ کی

لیکن امام حسینؑ کو غیر اسلامی تحریک کا داعی اور گمراہ گار بھی نہ کہا،

ولا انکر و اعیلہ و لا ائمتہ (۱۸۰) انہوں نے حضرت حسینؑ پر تکبر کی اور نہ انہیں

گنہگار قرار دیا۔

اور عام صحابہؓ کو حضرت حسینؑ نے بھی مورد الزام قرار نہیں دیا۔ اس لئے کہ وہ بھی اپنے اجتہاد پر مائل تھے، لیکن اپنی دعوت کی حقانیت پر اور اپنی تحریک کی سچائی پر انھیں صحابہؓ کو گواہ بناتے تھے جو عملاً ان کے اس اقدام میں شریک نہیں تھے اور کہ بلا میں اعلان کرتے تھے

یستشهد بھودھو لعیاتل بکرو دلا	حسینؑ جب کہ بلا میں قتال کر رہے تھے انھیں
علیٰ فضلہ وحقہ ویقول سلوا	صحابہؓ کو اپنے فضل اور اپنے حق پر گواہ بناتے
جابر بن عبد اللہ و اباسعید	تھے اور کہتے تھے،
المحلہ رمی والنس بن مالک	پر صحیحہ جابر بن عبد اللہؓ، ابوسعید خدریؓ، انس
ومہل بن سعید و زید بن ارقم	بن مالکؓ، سہل بن سعیدؓ اور زید بن ارقمؓ

وامثالہم (۱۸۰) وغیرہ سے

خلاصہ یہی ہوا کہ حضرت حسین بن علیؑ اپنے اجتہاد پر عمل پیرا ہو کر یزید یوں سے نبرد آزما ہوئے اور عام صحابہؓ نے فتنہ و فساد کا خیال کرتے ہوئے اسی میں نجات سمجھی کہ یزید کی ہدایت کے لئے دعا کی جائے اور اس سے نجات اور راحت کی دعا کی جائے۔ حضرت حسینؑ سمجھ رہے تھے کہ عام صحابہؓ بھی یزید کے فسق سے واقف ہیں، اور وہ بھی خلافتِ عادلہ کے قیام کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن بنو امیہ کی طاقت اور عبیہ کی بنا پر کسی نئی تحریک کا ہمارا دور ہونا مشکل ہے، اور پھر مسلمانوں کے مابین قتل و خون کا اندیشہ ہے، اس لئے وہ اس طرح کی تحریک اٹھانے کے لئے تیار نہیں۔ اس لئے حضرت حسینؑ نے انھیں مدد نہ کرنے پر مورد الزام بھی نہ سمجھا، اور دوسری طرف انھیں اپنی دعوت پر گواہ بناتے رہے۔ یہیں سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے، کہ بعض صحابہؓ نے حضرت حسینؑ کو اس اقدام یا کونڈ کی طرف جانے سے روکا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید کے کردار میں کوئی ایسی حامی نہ تھی جس کی وجہ سے اس کے خلاف خروج جائز نہ ہو، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہؓ سمجھ رہے تھے کہ حالات ایسے نہیں ہیں جس میں یہ تحریک کا یہاں ہو سکے۔

کیا یزید اور دوسروں کے لئے حضرت حسینؑ سے قتال جائز تھا؟ | اس شبہہ کا ازالہ کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت حسینؑ کے

قتل میں صحابہ کی رائے کو بھی دخل تھا؛ ابن زیدوں کے پاس ہے،  
 ”حضرت حسینؑ سے یزیدوں کا قتال حضرات صحابہؓ کی رائے اور ان کے اجتہاد سے نہ تھا۔ دراصل  
 بلکہ

انما الفی فی قتالہ یزید و اصحابہ      بلکہ ان کے قتال کے ذمہ دار صرف یزید اور  
 اس کے ساتھی ہیں۔      (۱۸۰)

اس کے بعد اس طرح کے خیالات کی تردید کرتا ہے کہ جب حضرت حسینؑ باغی تھے تو ان سے قتال شرعاً  
 جائز ہونا چاہیے اور لکھتا ہے کہ

بائیسوں سے قتال علماء کے نزدیک اسی وقت جائز ہے جب کہ آپ امام عادل کا ساتھ دے رہے  
 ہوں، اور یہاں ایسا نہیں ہے۔

اس لئے کہ یزید ظاہر ہے کہ عادل نہیں تھا پس اس کے خلاف خروج امام عادلؑ کے خلاف نبوت  
 نہ ہوگی لہذا شرعاً حضرت حسینؑ سے قتال جائز نہیں ہوگا۔

فلا یجوز قتال الحسین مع یزید      لہذا حضرت حسینؑ سے قتال کرنا نہ دوسروں کے  
 ولا یزید      لئے، یزید کی معیت میں جائز تھا اور نہ خود یزید  
 کے لئے جائز تھا۔

اور انکا جملہ سنئے

بل ہی من فعلاً منہ الموکد      بلکہ حضرت حسینؑ سے قتال تو قتال یزید کی ان  
 لغتہ      حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے جو اس کے نفع  
 کا اور پختہ کر دیتی ہیں۔      (۱۸۰)

حضرت حسینؑ کی حیثیت اس معاملہ میں کیا تھی؟

والحسینؑ منہا مشہد من قتال و هو علی      حسینؑ شہید تھے، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے  
 حق و اجرت ما۔      مستحق ہوئے، وہ برحق تھے اور اپنے اجتہاد پر عمل

ابن عربی اور واقعہ شہادت | قاضی ابوبکر بن العربی نے "العوامم والقوامم" نامی کتاب میں حضرت حسین بن علیؑ کے قتل کو حق بجانب قرار دیا ہے اور اس مسئلہ پر بحث کی ہے محمود احمد صاحب جاسی نے ابن عربی کی رائے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، لیکن ابن خلدون اس کی تردید کرتے ہوئے لکھتا ہے،

قد غلط العاصمی ابوبکر ابن العربی	قاضی ابوبکر بن العربی سے اس مسئلہ میں غلطی
للمالکی فی هذا فقال فی کتابہ الذی	جو گئی انھوں نے اپنی کتاب "العوامم والقوامم"
سمی العواصم والعواصم ما معناه	میں ایسے الفاظ لکھے ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ
ان الجسین قتل بشیخ جده	حضرت حسینؑ اپنی نانا کی شہادت کے مطابق
(۱۸۰)	قتل کے گئے

ابن عربی کا اشارہ اسی طرف ہے، کہ اسلام، نقطہ نظر سے بائعی کی سزا قتل ہے اس لئے حضرت حسینؑ کا قتل جائز تھا۔ ابن خلدون لکھتا ہے کہ ابن عربی کا یہ خیال غلط ہے اس لئے کہ بائعی کا قتل جائز اس وقت ہے، جب کہ امام عادل ہو، یہاں تو مسئلہ کی صورت ہی دوسری ہے۔ ایک طرف زید ہے جس کا فسق و فجور زندگی کی طرح واضح ہو چکا تھا، اہل آراء تھے جو اپنی شہوات اور خواہش نفس کے مطابق حکومت چلا رہے تھے، دوسری طرف حسینؑ تھے جو مجسمہ عدالت، تقویٰ اور سرپا شرافت و دیانت تھے، پس حضرت حسینؑ کے اقدام خروج کی حیثیت امام عادل کے خلاف بغاوت کی نہیں بلکہ امام جائز و فاسق کے مقابلے میں "حق و صداقت کے علمبرداروں" کے خروج کی ہے، یہ حکومت عادل کے خلاف بغاوت نہیں تھی بلکہ امام جائز کے سامنے کلمہ حق کا اظہار تھا۔ اور قتل کا قانون اس بغاوت و عہد شکنی کے لئے ہے۔ جو امام عادل کے مقابلے میں اختیار کی جاتی ہے، نہ کہ اس شخص کے لئے جو کھڑا ہوا ہو، ہر قیمت و کسر ویت "جائے حبصیت اور فسق و فجور کو مٹا کر حق و عدالت کی بنیاد پر حکومت قائم کرنے کے لئے پس ایسے شخص کے قتل کو کیسے جائز کہا جاسکتا ہے؟ ابن خلدون لکھتا ہے،

وهو غلط حملۃ علیہ الغفلة عن	ابن عربی کی یہ رائے غلط ہے انھوں نے یہ غلطی
اشتراط الامام العادل ومن اعدا	اس لئے قائم کی کہ وہ امام عادل کی شہادت سے

من المحین فی زمانہ فی امامتہ      ناض ہو گئے، اور حضرت حسینؑ سے بڑھ کر ان کے نانا  
 وعد اللہ فی قتال اهل الاساع      میں امامت اور عدالت کے اقدار سے اپنی آراء  
 کے قتال کے لئے کون اہل تھا۔      (۱۸۰)

## حاصلِ کلام

ابن خلدون کی اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ  
 ۱) یزید کا حق و فائز تھا، اس کا فسق و فجور عوام و خواہش پر ظاہر ہو چکا تھا۔  
 ۲) تمام اہل ہجرت کو اس کی ان غامیوں کا احساس تھا، لیکن عام صحابہؓ فتنہ و فساد کے خوف سے خلیج  
 کے قائل نہیں تھے اور بعض حضرات اس کے فسق کی وجہ سے خروج کو ضروری سمجھتے تھے،  
 ۳) حضرت حسینؑ نے اس وقت خروج کیا جب یزید کا فسق کھل کر سامنے آ گیا۔  
 ۴) حضرت حسینؑ پر ہجرت نیکر نہیں کرتے تھے اور نہ گنہگار سمجھتے تھے،  
 ۵) حضرت حسینؑ سے قتال کو متر کا جائز نہیں کہا جاسکتا۔  
 ۶) اس قتال کی ذمہ داری یزید اور اس کے ساتھیوں پر آتی ہے۔  
 ۷) حضرت حسینؑ برحق تھے، وہ واقعہ کر بلا میں شہید ہوئے۔  
 ۸) حضرت حسینؑ کی حیثیت اہلی کی نہیں تھی، بلکہ وہ ظلمت پیادوں پر قائم حکومت کو مٹا کر جائز  
 اسلامی خلافت اور حکومتِ عادلہ قائم کرنا چاہتے تھے،  
 اب ان حقائق کی روشنی میں کتاب کا مطالعہ کیجئے، کہ مصنف کے پیش کردہ تصورات کس حد  
 تک صحیح ہیں؟

"اندرجہ بان دہلی دسمبر ۱۹۵۹ء"

# کتاب خلافت معاویہ ویزید پر تبصرہ

از ایوان منظور شیخ احمد استاذ مدرسہ احیاء العلوم بالنسواؤدکن

منقول از ماہنامہ دارالعلوم جنوری ۱۹۶۱ء

”خلافت معاویہ ویزید“ نامی کتاب کے تعلق سے مولانا محمد احمق صاحب ندوی

استاذ دارالعلوم ندوہ کا بیان

مندرجہ صدق جدید ۱۳ نومبر ۱۹۵۹ء پڑھ کر بڑا تعجب ہوا وہ فرماتے ہیں:-  
 ”اگر شیوخ حضرات اس کی اشاعت سے مضطرب ہیں تو جائے تعجب نہیں مگر بعض  
 اہل سنت کا ان کی ہمنوائی کرنا حیرت انگیز ہے خصوصاً ہستم صاحب دارالعلوم  
 دیوبند کا یہ اعلان اور بھی تحیر خیز ہے کہ ”کتاب کے مضامین مسلک اہل سنت  
 والجماعت کے خلاف اور جذبات کو مجروح کرنے والے ہیں“ انھوں نے کتاب  
 کی پیشانی پر مولانا کا یہ اعلان ضرور پڑھا ہو گا کہ یہ کتاب بسلسلہ تاریخ ”اقتلان  
 امت“ معرض تحریر میں آئی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ”امت“ سے مراد صرف شیعہ  
 حضرات ہیں؟ کیا اہل سنت امت میں شامل و داخل نہیں ہیں۔

ندوی صاحب نے بتایا ہے کہ میں نے کتاب اول سے آخر تک دیکھی۔

اس کا موضوع تاریخی واقعات ہیں نہ کہ مذہبی عقائد“ میں نے بھی کتاب اول  
 سے آخر تک دیکھی ہے اور اس پر بطور تبصرہ ایک کتاب لکھی ہے جو زیر طبع ہے  
 اس میں میں نے پوری صراحت و وضاحت سے بتایا ہے کہ کتاب کس تحریک کے  
 زیر اثر لکھی گئی ہے کس غرض اور مقصد کے لئے لکھی گئی ہے کس ذہنیت اور کس نقطہ  
 نظر سے لکھی گئی ہے اور اس کا اصل موضوع کیا ہے دراصل اس کا موضوع مذہبی  
 عقائد ہیں نہ کہ تاریخی واقعات، اس میں تاریخی واقعات پر جس انداز سے بحث کی  
 گئی ہے اس کی براہ راست زدندہ ہی عقائد پر پڑتی ہے اور وہ نہ صرف  
 الٹ پلٹ ہو کر دیتے ہیں۔ بلکہ امت سے وہ سارا سرمایہ علوم ہی چھین جاتا



ہے جس پر اس کے مذہبی عقائد کا دار و مدار ہے۔ مولف نے پچھلے ہزار بادہ سو سال کے تمام مورخین، محدثین، مفسرین اور دوسرے علوم و فنون کے ماہرین کو مجروح و ناقابل اعتبار ٹھہرا کر ماضی سے امت کا رشتہ بالکلیہ کاٹ دینے کی کوشش کی ہے۔ مولف نے ابن جریر طبری، ابن کثیر دمشقی اور جلال الدین سیوطی وغیرہم تک کو جن جن الفاظ میں یاد کیا ہے وہ کتاب میں جا بجا پھیلے ہوئے ہیں۔ خصوصاً کتاب کے دوسرے ایڈیشن پر مولف نے جو مقدمہ لکھا ہے وہ تو پوری طرح اس کی ذہنیت اور اس کے نقطہ نظر کا آئینہ دار ہے۔

ندوی صاحب نے یہ بات بالکل غلط سمجھی ہے کہ کتاب میں محض یزید کو نسل حسین کی ذمہ داری سے بری ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر بات صرف اتنی ہوتی تو یہ ایک تاریخی اختلاف ہوتا کہ فی الواقع یزید اس جرم کا مرتکب ہوا تھا یا نہیں۔ لیکن یہاں تعصب اس درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ امام حسینؑ کے مسلک و موقف کو پوری سنگدلی کے ساتھ مسخ کیا گیا ہے آپ پر سخت سے سخت الزامات لگائے گئے ہیں آپ کو بد سے بد تر الفاظ میں مطعون کیا گیا ہے۔ آپ کی سیرت کا حلیمہ بگاڑ کر رکھ دیا گیا ہے یہاں تک کہ ”مات میتہ جاہلیہ“ اور ”فمن اراد ان یفرق امرہذا الامتہ دہلی جمیع فاضلہ بالسیف“ وغیرہ احادیث کو نقل کر کے انھیں امام عالی مقام پر حیاں کیا گیا ہے۔ اب ان احادیث کا کیا حشر ہوگا جن سے امام کے مسلک اور موقف پر بخوبی روشنی پڑتی ہے اور وہ حدیثیں کہاں جن میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنؑ و حضرت حسینؑ کا نام لے کر آپ کو سید اشباب اہل الجنت“ فرمایا ہے۔ کیا جاہلی اور حرام موت عمر لے لے بھی جنت میں جا سکتے ہیں؟ پھر جائیکہ وہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں۔ پھر وہ ساری احادیث کہاں چلی گئیں جن میں حضور نے آپ کو اپنا محبوب بھی بتایا ہے، خدا سے آپ کی محبوبیت کے لئے دعا بھی کی ہے،

اور یہ بھی فرمایا ہے کہ حسین اہل آسمان کے نزدیک تمام اہل زمین میں محبوب ہیں کیا خدا اور سونے اور ساری خلق کے محبوب کی وہی سیرت ہے جسے یہاں پیش کیا گیا ہے؟ یہاں تو لعصب نے یہ یہ کہہ کر علی رضی اللہ عنہ تک پہنچ کر فوقیت دیدی ہے اور ان کے مقابلہ میں یہ یہ کہہ کر پہلا متفق علیہ خلیفہ تسلیم کیا گیا ہے۔ پھر تعصب کے اندھے پن کا حال یہ ہے کہ شاہان بنی امیہ کو حدیث نبویؐ ”لا یزال الاسلام عزیزاً الی اثنی عشرۃ خلیفۃ“ کا مصداق بتاتے ہوئے حضرات ابو بکر، عمر، عثمان، حسین رضی اللہ عنہم کو سرے سے اڑا دیا گیا ہے۔ اور امیر معاویہؓ کو پہلا خلیفہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مروان بن محمد کو تو اس لئے خارج کر دیا گیا ہے کہ اس پر بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ لیکن جب اس کے باوجود یہ دقت پیش آئی کہ بارہ کے تیرہ بادشاہ رہے جاتے ہیں تو درمیان سے امت محمدیہ کے مجدد اول عمر ثانی

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے خلیفہ راشد کو پوری بے دردی سے ہٹا دیا گیا ہے اور باقی شاہان بنی امیہ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہی وہ بارہ خلفائے اسلام ہیں جن کے متعلق حضورؐ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ان کے زمانے میں اسلام زبردست اور طاقتور رہے گا۔ احادیث نبویؐ کے ساتھ یہ سلوک دوسرے مقامات پر بھی کیا گیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ صحیحین کی ایک حدیث کو ”محل نظر“ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی رو سے ابن سعد عہد نبویؐ کا مولود نہیں اور مؤلف کو یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ عہد نبویؐ کا مولود تھا۔ ایک اور مقام پر ”الوداؤد“ وغیرہ صحیح کی حدیث ”الخلافة فی امتی ثلاثون سنة ثم ملک کو دھسی ٹھیرا گیا ہے کیونکہ وہ مؤلف کے نقطہ نظر کے بالکل خلاف ہے۔ مولانا محمد اسحق صاحب نے پوچھا ہے کہ غریب مصنف

عہد مولانا محمد اسحاق سندیلوی کے، مسدوح عظیم الدین کا تو مشن ہی یہ ہے اور مولانا کی تقریظ نے ان کے اس مشن کو چار چاند لگا دیئے ہیں۔

نے کیا جرم کیا ہے، اور مسلک اہل سنت والجماعت کی کوئی مخالفت کی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ جرم نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اگر یہ مسلک اہل سنت والجماعت کی مخالفت نہیں تو کیا یہ موافقت ہے؟

ان کے نزدیک کتاب میں کسی دینی پیشوا کی شان میں کوئی گستاخی و بے ادبی نہیں کی گئی ہے۔ انہوں نے حضرات اہل سنت سے یہ بھی فرمایا ہے کہ پوری کتاب دیکھے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرے۔ پس اگر کسی کے نزدیک امام حسینؑ سے دینی پیشوا تھے ہی نہیں اور اسی لئے ان کی شان میں کسی گستاخی و بے ادبی کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تب تو خیر۔ لیکن جو لوگ انہیں اپنا دینی پیشوا مانتے ہیں وہ کتاب کے حسب ذیل مقامات دیکھ کر خود فیصلہ کریں کہ ان تحریروں کو کم سے کم کن الفاظ میں یاد کیا جاسکتا ہے۔

صفحات ۷۶، ۸۴ تا ۹۵، ۹۴، ۹۸، ۹۸ تا ۱۰۶، ۱۳۳، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۹، ۱۸۰۔ ان کے نزدیک کتاب کو ضبط کرانے کی کوشش اعتراف شکست کے مراد ہے، لیکن میرے نزدیک یہ کوشش کتاب کی اشاعت سے اٹھنے والے وسیع و شدید فتنوں کو جلد سے جلد دبانے کی ایک بے تابانہ خواہش ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ علمی حیثیت سے اس کی ایک ایک سطر کا مدلل و مکمل جواب دیا جاسکتا ہے۔ ان کے نزدیک اگر یہ کتاب ضبط ہوئی تو یہ بہت بڑی نا انصافی ہوگی لیکن میرے نزدیک اس کی اشاعت و تبلیغ اور اس کی پرزور تائید و حمایت نہ صرف نا انصافی ہے بلکہ امت کے لئے سخت فتنہ و فساد اور انتشار و نقصان کا باعث ہے۔ امت کے ذمہ دار ہمزور گوں کو اس سوچی سمجھی اور گہری سازش کے اندفاع کی فی الفور کوشش کرنی چاہئے۔

مولانا محمد اسحق صاحب نے حضرت ہتم صاحب دارالعلوم دیوبند سے ان کے بیان کی وضاحت چاہی ہے، میں وضاحت طلبی کی پرزور تائید کرتا ہوں اور میرے نزدیک یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس کی وضاحت میں ایک تفصیلی مقالہ قلم بند فرمائیں۔

## فیصلہ کن سوالات و جوابات

**سوال** ایک روز چند اشخاص اہل سنت و الجماعت کے ایک جگہ بیٹھے تھے۔ ان میں تذکرہ مذہب کا تھا۔ تفضیل اشخین پر فریقین متفق ہیں۔

(۱) احمد کا دعویٰ ہے کہ اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ ہے۔ محمود کا دعویٰ ہے کہ صحابہ کی شان اہل بیت اطہار سے بڑھی ہوئی ہے اور یہ کہ صحابہ کی شان میں حدیث آئی ہے کہ جو کوئی ان کی پیروی کرے گا ہدایت پائے گا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی آیت سے بھی ان کی شان و مرتبہ کا پتہ چلتا ہے احمد نے کہا اہل بیت کی شان میں بھی حدیثیں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں دو چیزیں اپنے بعد موجب نجات اپنی امت میں چھوڑنے جاتا ہوں۔ ان میں سے ایک قرآن پاک اور دوسری اہل بیت ہے۔ جو ان دونوں کو اختیار کرے گا نجات پائے گا۔ محمود نے کہا وہ حدیث جو صحابہ کی شان میں ہے اس کے مقابلہ میں اہل بیت کی شان کی حدیث نہیں ہے۔

(۲) اسی مجلس میں ذکر حضرت معاد یہ رضی اللہ عنہ کا آیا۔ اس پر محمود نے کہا کہ ”دہ عشرہ مبشرہ“ میں ہیں۔ احمد نے کہا کہ مجھے عشرہ مبشرہ کی تو تحقیق نہیں لیکن آپ صحابی ضرور ہیں مگر ان کے کچھ غلطی ہوئی۔ چنانچہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز نے ”تحفہ اثنا عشریہ“ میں لکھا ہے کہ ان سے خطا ضرور ہوئی۔ محمود نے کہا کچھ بھی ہو لیکن حضرت امیر معاد یہ رضی اللہ عنہ کا درجہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام یعنی اہل بیت سے بڑھا ہوا ہے۔ براہ کرم اپنی رائے سے مطلع فرمائیں۔

(۳) بعدہ ایک مولوی صاحب نے فرمایا کہ ایسا اعتراض حضرت علی کرم اللہ

وجہ کے ایمان پر بھی ہے کیونکہ وہ نابالغی کی حالت میں ایمان لائے تھے اور نابالغی کے ایمان اور فعل کا اعتبار نہیں ہوتا۔

(۴) حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر کن کن صحابہ کو فضیلت ہے ؟  
 (۵) ایک بار تذکرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا آیا تو کسی نے کہا کہ ان کی شہادت تو مروان کے فعل سے ہوئی جیسا کہ مشہور ہے کہ فاقبلوا کی جگہ فاقتلوا لکھ دیا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خبر ملی کہ دشمنوں نے خلیفہ سوم کے مکان کو گھیر لیا ہے اور حملہ آور ہیں تو اپنے دونوں صاحبزادوں کو مسلح کر کے بھیجا اور سمجھا دیا کہ حضرت عثمانؓ کو دشمنوں کے آزار سے بچانا اس پر محمود نے کہا کہ یہ کام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا صرف دکھانے کا تھا حقیقتاً ان کو حضرت عثمانؓ کی حفاظت منظور نہ تھی۔

حضرات علماء سے دریافت کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ظاہر کچھ تھا اور باطن کچھ ؟ المستفتی ۵۲۳ شیخ شفیق احمد (ضلع مونگیر) مہربیع الثانی ۱۳۵۳ھ مطابق ۹ جولائی ۱۹۳۵ء  
 (۱۲۲) جواب (۱) صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان بھی رفیع ہے اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی شان بھی بلند ہے۔ اہل بیت میں داخل ہونے کا شرف جدا ہے اور فضیلت صحبت جدا دونوں کے متعلق صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ جن لوگوں کو دونوں شرف حاصل ہوئے یعنی وہ اہل بیت میں بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں جیسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما ان کی فضیلت دونوں جہت سے ثابت ہے۔ اور جو اہل بیت میں شامل ہیں مگر صحابی نہیں ان کو ایک شرف حاصل ہے دوسرا نہیں۔ جو صحابی ہیں مگر اہل بیت میں شامل نہیں ان کو بھی ایک شرف حاصل ہے دوسرا نہیں۔ اس کے بعد علم تقویٰ اور دیگر صفات کی وجہ سے فضیلت کے مراتب کم و بیش ہوتے ہیں۔ اس لئے اس بارے میں اسی قدر اعتقاد پر اکتفا کرنا اسلام ہے۔ شیخین کی فضیلت

۷۷ مولوی عظیم الدین وغیرہ بھی ایسا ہی تاثر دیتے ہیں۔

کلیہ باوجود اہل بیت میں داخل نہ ہونے کے صرف صحابی ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ ان کے اوصاف کاملہ علم و تقویٰ اور خدمات دینیہ کی بنا پر ہے جن میں یہ خاص امتیازی شان رکھتے ہیں۔

(۲) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں داخل نہیں ہیں۔ اور یہ کہنا بھی درست نہیں کہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں۔ ان کے لئے وہ مناقب جو احادیث میں آئے ہیں کہ وہ حضورؐ کے کاتب وحی تھے اور حضورؐ نے ان کو اپنا کمرہ مرحمت فرمایا تھا اور دعادی تھی اور ان کے پاس حضورؐ کے

(آگے کچھ عبارت رجسٹر میں منقول نہیں ہے) (وآصف)

(۳) یہ اعتراض مہمل اور لٹو ہے۔ یہ تو حضرت علی کی فطری اور طبعی صلاحیت کی دلیل ہے کہ بچپن میں ہی ان کو معرفت حق اور قبول صداقت کی توفیق مبداً فیاض سے عطا ہوئی تھی۔

(۴) ترتیب فضیلت ترتیب خلافت کے موافق ہے یعنی حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی ذوالنورین حضرت علی سے افضل ہیں۔ ان تینوں کے بعد حضرت علی باقی صحابہ کرام سے افضل ہیں۔

(۵) یہ خیال کہ حضرت علی نے صرف دکھاوے کے لئے حضرت حسن و حسین کو بھیجا تھا، حفاظت منظور نہ تھی، بدگمانی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے ایسی بدگمانی کرنی مناسب نہیں ہے۔

محمد کفایت الشکان اللہ

سوال | متعلقہ واقعہ شہادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔

(۱۲۶) جو اب۔ جب مفسدوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کا

محاصرہ کر رکھا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما سے یہی امام ابن نمیر اور تمام اہلسنت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ سے مولانا محمد اسحاق سید بلوی اور جعفر شاہ

پھلواروی کے مدوح مودعی عظیم الدین بھی یہی تاثر دے رہے ہیں بلکہ یہ بد کو خلیقہ رابع علی رضی اللہ عنہ کے مقابلہ

میں اعلیٰ سیرت و فہم ثابت کر رہے ہیں۔ نقل مطابق اصل ادارہ

عثمان کو ان کے دروازے پر حفاظت کے لئے متعین کر دیا تھا کہ کوئی مفسد گھر میں داخل نہ ہو سکے، مفسد دروازہ چھوڑ کر دوسری طرف سے دیوار پر چڑھ کر گھر میں اتھے اور حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ حضرت علی کو جب خبر ہوئی تو انھوں نے اگر امام حسن کے منہ پر طمانچہ مارا اور حضرت امام حسین کے سینے پر پتھر مارا اور فرمایا کہ تم دونوں کے موجود ہوتے ہوئے حضرت عثمان کیسے شہید کر دیئے گئے۔ جب حضرت علی کو واقعہ معلوم ہوا کہ قاتل دیوار پھاند کر گھر میں گھسے تو انھوں نے امام حسن اور امام حسین کو معذور سمجھا۔ حضرت عثمان کے منہ پر طمانچہ مارنے کا بیان صحیح نہیں اور حضرت عثمان دوسرے روز دفن ہوئے۔ تین دن نعش کا بڑا رہنا بھی غلط ہے۔ اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ یہودیوں کے قبرستان میں دفن ہونا بھی درست نہیں۔

محمد کفایت اللہ

**سوال** حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی نسبت غصب خلافت کا الزام نیز یریزید کو آپ کا ولی عہد سلطنت باوجود اس کے فسق و فجور کے بنانا جس کو بعض سنی بھی کہتے ہیں کس حد تک صحیح و درست ہے؟

المستفتی ۱۴۰۲ھ سید خلیل حیدر رکانپور ۱۵ صفر ۱۴۰۲ھ مطابق ۱۹ اپریل ۱۹۸۴ء  
 جواب۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی تھی اور اس کے بعد وہ جائز طور پر خلافت کے حامل تھے۔ انھوں نے یریزید کے لئے بیعت لینے میں غلطی کی کیونکہ یریزید سے بہتر اور اولیٰ و افضل افراد موجود تھے۔ لیکن اس غلطی کے باوجود یریزید کے اعمال و افعال کی ذمہ داری ان پر عائد نہ ہوگی۔ کیونکہ اسلام اور قرآن پاک کا اصول ہے۔ لا تزدوا ذمہ و ذمہ اخذی۔ اس لئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی اور درستی نہیں کرتی چاہیے۔

یسوالات و جوابات کفایت المفتی جلد ثانی مؤلف مفتی کفایت اللہ رابعی (مفتی اعظم ہند) نے نقل کئے ہیں ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲،

### فتنہ معاویہ اور حبیت

جب حضرت شیخ کو اپنے تلمیذ ارشد حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب (جو حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رانپوری قدس سرہ کے خلیفہ مجاز اور جتھے ہیں) کے خطوط سے معلوم ہوا کہ حضرت رانپوری نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں محمود احمد عباسی کی کتاب "خلافت معاویہ و یزید" پڑھی جا رہی ہے تو فوراً حضرت نے خطوط کے ذریعہ اس کا مجلس میں پڑھے جانے کو موقوف کر دیا۔ وہ دونوں خط ذیل میں نقل کئے جاتے ہیں۔

رد مکرم و محترم مولوی عبدالجلیل صاحب مدنیو عنکم

بعد سلام مسنون! اس وقت جمعہ کے دن ۱۱ بجے میر صاحب سے سرسری ملاقات ہوئی کہ باہوم تھا۔ رسالہ پہنچ گیا مگر دستی پرچہ باوجود میرے سوال کے بھی کوئی نہیں دیا۔ اس کے بعد ڈاک آئی اور اس میں کارڈ پوسٹوں بدھ کا لکھا ہوا ملا۔ اگرچہ اس وقت جمعہ اور باہوم کی وجہ سے وقت تنگ ہے مگر چونکہ اس میں ایک تو حضرت کے نظام الاوقات میں یہ لکھا کہ ایک کتاب خلافت معاویہ و یزید کے متعلق سنائی جا رہی ہے۔ اگر یہ وہی عباسی والی ہے تو ہرگز اس قابل نہیں کہ مجمع میں سنائی جائے۔ جو عادت شریعت سے واقف نہیں، تاریخ پر عبور نہیں رکھتے۔ ان کو اس کا دیکھنا ہرگز جائز نہیں ہے، سخت گمراہی کا اندیشہ ہے۔ اس بد نصیب نے دیدہ دانستہ عبارتیں مسج کی ہیں مثال کے طور پر



لکھتا ہوں کہ حافظ ابن حجرؒ کی تہذیب التہذیب سے یہی کاقول نقل کیا ہے۔  
 کہ حافظ نے ان سے یزید کی توثیق نقل کی۔ اب ذرا کوئی شخص اصل کتاب کو نکال  
 کر دیکھے تو معلوم ہو کہ حافظ نے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہی جو ایک ثقہ آدمی ہیں۔  
 انہوں نے فلاں سے جو ثقہ ہے، یہ نقل کیا کہ میرے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ  
 کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المؤمنین کہہ دیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے  
 کوڑے لگوائے کہ تو یزید کو امیر المؤمنین کہتا ہے، اس سے اندازہ کریں کہ اس جاہل  
 نے اس کو یہ لکھا کہ حافظ نے یہی سے یزید کی توثیق نقل کی۔ تعجب ہے کہ  
 مولانا محمد صاحب کے وہاں ہوتے ہوئے بھی یہ کتاب حضرت کی مجلس میں  
 پڑھی جاسکتی ہے۔ نہایت عجلت میں یہ سلوڈ اس لیے لکھ دیں کہ میری صاحب  
 آج جا رہے ہیں۔ ڈاک کا خط نہ معلوم کب تک پہنچے۔ حضرت اقدس کی  
 خدمت میں سلام کے بعد دعا کی درخواست۔

فقط

ذکر یا

۳ / جمادی الثانی ۱۳۷۹ھ  
 مولانا عبدالجلیل صاحب مدظلہ نے مکتوب بالا کے جواب میں عرضہ لکھ کر  
 واضح فرمایا کہ کتاب "خلافت معاویہ و یزید" مجلس عام میں نہیں سنی گئی بلکہ صرف  
 چند مخصوص قدام کی موجودگی میں سنی گئی ہے۔  
 اس پر دوبارہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے اپنے والا نامہ میں

تحریر فرمایا:

کتاب خلافت معاویہ و یزید کے متعلق تم نے لکھا ہے کہ  
 خواص کے مجمع میں پڑھی جاتی ہے۔ لیکن جن خواص کا نام آپ نے

لکھا ہے وہ بھی تاریخ و حدیث کے زیادہ ماہر نہیں ہیں اور اس کتاب میں بددیانتی سے کام لیا گیا ہے، کہ ”لا تقربوا الصلوٰۃ“ سے نماز کے پڑھنے کی قرآن پاک سے ممانعت کے مشابہ ہے۔

فقط والسلام

زکریا، مظاہر العلوم، ۱۱ جمادی الثانی ۱۳۷۹ھ

حضرت مولانا انور حسین نفس رقم صاحب مدظلہ (خلیفہ مجاز حضرت راپوری قدس سرہ) لکھتے ہیں کہ کتاب ”خلافت معاویہ و یزید“ کے مندرجات سے حضرت اقدس راپوری کو جو محبت صحابہ و اہل بیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کیسے اتفاق ہو سکتا تھا؟ یہ خواندگی تو محض معلومات کے لیے تھی۔ حضرت اقدس نے اپنے مخصوص انداز میں ایک مختصر اور بلیغ جملے سے اس کتاب کی تردید فرما دی۔ فرمایا: ”ہمیں تو اہل بیت کرام سے بھی محبت ہے۔“ انہی دنوں یہ بھی فرمایا کہ ”میں تو ان سیدوں کا غلام ہوں، لیکن شیعوں کا نہیں“ کتاب ”خلافت معاویہ و یزید“ دو بارہ کبھی حضرت والا کی مجلس میں دیکھی اور سنی نہ گئی۔ حالانکہ پستیدہ کتابیں مجلس مبارک میں بار بار پڑھی جاتی تھیں۔ علماء اہل سنت دیوبند نے برعلا اس کتاب کی تردید کی اور اس کے مصنف کی فتنہ انگیزی سے عامۃ المسلمین کو آگاہ کیا۔“

اے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب زید مجدد خلیفہ مجاز شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ کی کتاب ”غابری فتنہ“ اور کشف ”خارجیت“ اس موضوع پر بہترین کتابیں ہیں۔

فاطمہ بنت رسول کی توہین بخاری اور روایات صحاح کو جعلی قرار دینا

از حضرت مولانا مفتی ولی حسن نوکیلی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم

(۲) محمود احمد صاحب عباسی مصنف "خلافت معاویہ برید" و تحقیق مزید وغیرہ سے بندہ لیاقت آباد میں رہنے کی وجہ سے ایک عرصہ سے واقف تھا۔ شروع شروع میں روافض دشمنی کی قدرے مشترک کی وجہ سے عباسی صاحب سے قاصی دوستی تھی۔ کبھی کبھی ان کے کہنے پر بعض عربی عبارات کے ترجمہ میں مدد بھی دی اسی طرح بعض کتبوں کے حصول میں معاونت بھی کی۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ روافض کے خلاف عباسی صاحب اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ بعض بزرگوں کی ملاقات عباسی صاحب سے بندہ ہی نے کرائی۔ ایک عاشورہ محرم پر عباسی صاحب کا یہ رنگ بھی دیکھا کہ ان کے مکان پر اچھے خاصے لوگ جمع ہیں اور عباسی صاحب حضرت زینب بنت العیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی اولاد اجداد کا ذکر کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اس منظر سے میں قاصدا متاثر ہوا لیکن کچھ دن بعد یہ واضح ہوا کہ موصوف خاصے ناصبی ہیں۔ ایک بار میرے اور کچھ لوگوں کے سامنے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا پر العیاذ باللہ تنقید شروع کر دی اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ وہ "اتنی سی تھیں" یعنی ان کا قد چھوٹا تھا۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا میں نے عرض کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو چیز اذیت دے وہ مجھے بھی اذیت پہنچاتی ہے۔ آپ کس طرح خاتونِ حبیب کی غیبت کر رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس پر وہ بخاری اور دیگر کتب حدیث پر تنقید کرنے لگے اور منکرین حدیث کے طرز پر احادیث صحیح کو "عجمی سازش" کہنے لگے، اس سے پہلے میں مشہور منکر حدیث تمنا عمادی کو ان کے یہاں دیکھ چکا تھا وہ ان کے بڑے مبلغ تھے اور ان کی خود ساختہ تحقیقات کے خاصے معترف تھے ان واقعات

بعد بندہ نے بجاسی صاحب کے یہاں آنا جانا چھوڑ دیا اور محمد پر واضح  
ہو گیا کہ یہ شخص ناصبی اور منکر حدیث ہے۔

والعلم عند اللہ تعالیٰ و ہوا علم  
کتبہ

دلی حسن منغی دارالافتاء جامع العلوم الاسلامیہ کراچی  
۱۲ جمادی الاول ۱۳۸۴ھ

## عباسی صاحب حقیقہ کیا تھے؟ (فیصلہ کن اشعارات)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۵) محمود احمد عباسی صاحب مرحوم سے میرا تعارف پاکستان آکر غالباً ۵۴-۵۳-۱۹۵۳ء میں ہوا تھا۔ انھیں کسی کتاب کی ضرورت تھی اس لئے کسی کی نشان دہی پر میرے یہاں آئے تھے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ ہمارا استاد امام طب حکیم فرید احمد صاحب عباسی مرحوم و مستفوی کے چھوٹے بھائی ہیں تو ایک قرب کا پہلو نکل آیا اور طرینین کی آمد و رفت شروع ہو گئی ان کے اور ان کے اہل و عیال کی خدمت و علاج کے بھی مواقع پارہاٹے، کچھ ہی دن کے بعد ان کی کتاب کے چرچے علمی حلقوں میں شروع ہوئے مگر مطالعے کی لت کے باوجود مجھے اس کتاب کے مطالعے کی آگاہی نہیں ہوئی کیونکہ اہل تشن اور اہل تشیع کے اختلافات میرا موضوع فکر و مطالعہ نہیں نہ میری افتاد مزاج کو خلاقیات سے کوئی مناسبت ہے نہ میں ان مناقشات کو امت محمدیہ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے حق میں منازب اور مفید سمجھتا ہوں اور تاریخی، کلامی یا فقہی مسالک کے اختلاف کے بجائے عقائد کے اشتراک اور متفق علیہ امور پر نگاہ رکھتا ہوں، بہر حال میں یہ کتاب نہ پڑھ سکا، مگر ایک بار خود عباسی صاحب مرحوم ہی نے مجھے خلافت معاویہ و یزید عنایت فرمائی تو اسی مطالعے کی لت کے ہاتھوں اس کا مطالعہ کر گزرا اور خلافت مزاج پاکر الماری میں سجادی، اوریوں عباسی صاحب کے افکار و آراء کا تعارف

حاصل ہو گیا۔ لیکن اس موضوع پر ان سے گفتگو کی کبھی نوبت نہیں آئی حالانکہ انہوں نے بارہا سلسلہ چھیڑا مثلاً ایک بار انہوں نے فرمایا تم حسنی سیدہ یا حسینی؟ میں اس سے پہلے کئی حضرات سے سن چکا تھا کہ وہ سجدوں اور انساب پر گفتگو کرتے ہیں اس لئے تریاخ سے جواب دیا کہ میں نے آپ سے کب کہا کہ میں سید ہوں؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے، اسی طرح میں نے جب سرسید مرحوم کی کتاب "سیرت فریدیہ" ایڈٹ کی اور اس کے مقدمہ میں سرسید کے سیاسی کردار پر تنقید کی تو عباسی صاحب ایک روز فرماتے لگے، کل ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ تمہارے عزیز امیری طرف اشارہ تھا) نے تمہارے مقتدا (سرسید) پر بڑی سخت تنقید کی ہے۔ تو میں نے برجستہ جواب دیا کہ جی ہاں وہ صاحب مجھ سے بھی کہہ رہے تھے مگر میں نے ان سے کہہ دیا کہ عباسی صاحب نے ہمارے نانا (سیدنا حسینؑ) کو نہیں بچتا تو ہم ان کے مقتدا کو کیوں بچتے، اس پر وہ بڑی دیر تک ہنسنے اور بات آئی گئی ہوئی۔

عباسی صاحب نے ان ملاقاتوں میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ معمولی صلاحیتوں کے آدمی تھے، عربی غالباً بالکل نہیں جانتے تھے، فارسی پر بھی عبور نہیں تھا، میں نے ان کو فارسی کی غلط عبارتیں پڑھتے کئی بار سنا ہے، تحریر کا کام بھی وہ مسلسل نہیں کرتے رہے، آغاز عمر میں تاریخ اور "تحقیق الانساب" اور "تذکرہ الکرام" لکھی تھیں اس کے بہت عرصہ بعد ۷۰ سال سے زیادہ کی عمر میں "خلافت معاویہ و یرید لکھی، اس کتاب کے سلسلے میں ان کو متعدد اہل علم و قلم کا تعاون حاصل تھا جن میں سے ایک نام کے متعلق مجھے تحقیق ہے اور وہ ہے مولانا تہن عابدی کا نام، جو ان کے لئے کتب تاریخ سے اقتباسات اور ان کے ترجمے لکھ کر بھیجا کرتے تھے، ایک بار وہ عباسی صاحب کے یہاں چند روز مقیم بھی رہے اور

۷۰ بھائی (قاری علی بھل نقوی) بھی ان کے متعلق یہی کہتے رہے ہیں۔ ادارہ

وہاں بھی میں نے انھیں یہی کام کرتے دیکھا ہے۔

دوسرا تاثر میرا یہ ہے کہ وہ اپنی تحریک کے سلسلے میں مخلص نہیں تھے زبان و قلم سے ردِ شیعیت کے باوجود اہل تشیع سے ان کے گونا گوں مراسم تھے، ایک بار میں پہنچا تو چند نام ذرِ شیعہ اہل قلم ان کے یہاں بیٹھے تھے اور بڑا پر تکلف ناشتہ کر رہے تھے اور بہت اپنائیت کی باتیں ہو رہی تھیں، ان کے جانے کے بعد از خود صفائی کرنے لگے کہ ان بچوں سے وطن ہی سے مراسم ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، میرا بڑا الحاح ظاہر کرتے ہیں، میں نے ”جی“ کہہ کر بات ٹال دی کہ مجھے اس سے کیا دلچسپی؟ اسی طرح ایک بار انتخابات میں انھوں نے ایک شیعہ امیدوار کو ووٹ دیا اور میرے سامنے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس کے خاندان سے قدیم مراسم ہیں اور میں اسے اہل بھی سمجھتا ہوں، ایک بار ان کی اہلیہ میرے چہرے پر بڑی شفقت فرماتی تھیں اپنے ایک ہسائے کی شکایت کرنے لگیں کہ وہ آج صبح انھیں (عباسی صاحب) گھالیاں دے رہا تھا اور ریز بیدا اور ریز بید کی اولاد تک کہہ گیا۔ اس پر میں نے ازراہ تغین کہہ مارا کہ یہ تو آپ کے نقطہ نظر کے پیش نظر مدح ہوئی، قدح نہیں ہوئی۔“ اس پر وہ بہت برہم ہو گئے اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے، اور ان کی اہلیہ حشر مہکتے لگیں کیوں تھپڑتے ہو؟

مطلب یہ ہے کہ میرے خیال میں وہ دل سے ریز بید دوست اور شیعہ دشمن نہیں تھے بلکہ دانستہ یا نادانستہ کسی اسلام دشمن تحریک یا طاقت کا آلہ کار تھے اور باقر اقبال بن المسلمین کی ہم میں سرگرم تھے، میں نے ان میں شیعیت کے مظاہر تو کئی بار دیکھے، مثلاً مجالس تک ان کے یہاں برپا ہوتی تھیں اور وہ ذکر کر کے روتے اور رلاتے تھے، مگر ان کی پابندی احکام شریعت کا کوئی منظر اور واقعہ میرے علم و ذہن میں نہیں ہے، کم سے کم میں نے ان کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا نہ کسی سے سنا۔ تجارت اور معاشی منفعت بھی اس ہم عمر اس واقعہ کو ذہن میں رکھ کر عباسی صاحب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ کیا تھے؟ (ادارہ)

میں یقیناً ان کے پیش نظر تھی، ایک بار نیا زور پوری کا ایک خط انھوں نے ایک دوسرے خط کے دھوکے میں مجھے پرٹھنے کے لئے دیا میں بھی جب خط پرٹھ چکا تو یہ چلا کہ یہ وہ مطلوبہ خط نہیں ہے، خط انھیں واپس کیا تو وہ بھی چکر اے گئے، بہر حال اس خط کا جو مفہوم ذہن میں متحضر ہے کچھ اس قسم کا تھا کہ خوب کتاب لکھی ہے، کچھ ہنگامہ گرم رہے گا، لطف بریگا خوب نکل رہی ہوگی، میں نے بھی اس پر تبصرہ لکھا ہے، کتابی شکل میں بھی آئے گا، اسے وہاں نکلو ایس اور اپنی کتاب کے اتنے نسخے تاجرانہ نرخ پر مجھے بھجو ایس، کہ تبصرہ پرٹھ کر کتاب کی مانگ بھی آئے گی۔“

اسی طرح ایک صاحب سے جوہ خدا کے قائل تھے نہ مذہب کے ان سے اپنی تحقیق کا ذکر کر کے چاہتے تھے کہ وہ رائے دیں، انھوں نے کہا میری رائے کا کیا کریں گے، میری نظر میں آپ کے حسین اور آپ کے زیر دیدوں گھٹیا تھے، عالمی سطح پر ان کی حیثیت نہیں ہے، تاریخ عالم کے اکابر میں ان کو محسوب نہیں کیا جا سکتا، تحت کے دو معمولی امیدار لڑ پڑے تھے اور ایک بار اگیا، اس پر عباسی صاحب نے تائید اور مسرت کا اظہار ایک قہقہے سے کیا اور انگریزی میں چند جملے کہے جن کا مفہوم یہ تھا کہ بالکل یہی رائے میری اور ہر پڑھے لکھے آدمی (ایجوکیٹڈ) کی ہے۔ مگر ان صاحب (جنٹلمین) کے سامنے بات نہ کیجئے یہ لوگ قدمت گزیدہ (آرٹھوڈوکس) ہوتے ہیں، عباسی صاحب نے مجھے انگریزی سے نابلد سمجھا تھا، میں نابلد ہی بنا رہا اور اجازت چاہی جو بڑی خوش دلی سے دیدی گئی، میرے بعد باہم گفتگو ہوئی ہوگی کہ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں میں تو خود روشن خیال اور آزاد فکر ہوں، مگر ایک فرقے کو بہکانا اور معاشی منفعت حاصل کرنا ہے، اس قسم کے حضرات کو صرف معاشی منفعت ہی حاصل ہو کر رہ جاتی ہے، یا پھر اس کے ساتھ کوئی عالی منصب اور شہرت بھی یہ ان لاشوں میں آپ خوب خوب عباسی صاحب کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ ادارہ



مگر اصل منفعت تو کفار کو حاصل ہوئی ہے، یہود کو حاصل ہوئی، اسلام دشمنوں کو حاصل ہوئی ہے جنہیں اگر کوئی خطرہ ہے تو اس امت کی بیداری سے ہے۔ اس لئے وہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار اور انہیں تاریخی، کلامی اور فقہی مسائل پر اختلافات کی آگ کو اپنے دامن دولت سے ہوا دیکر فروزاں کرتے ہیں۔

ان کے مسلک کے بودے پن کے سلسلے میں یہ دلچسپ واقعہ بھی سننے کا ہے، ایک بار معلوم ہوا کہ لاہور سے حکیم حسین احمد صاحب عباسی مرحوم آئے ہوئے ہیں اور محمود احمد عباسی صاحب کی یہاں میقم ہیں۔ چنانچہ میں اور میرے رفیق دریں اور عزیز دوست حکیم جامی صاحب ”جو کوٹری“ سے حسین میاں سے ملنے کے لئے ہی تشریف لئے تھے، عباسی صاحب کے یہاں پہنچے، حسین میاں تو نہیں ملے، البتہ عباسی صاحب ضرور مل گئے اور حسب عادت وہی موضوع چھیڑ دیا، میں حسب دستور تحمل سے کام لیتا رہا مگر جامی صاحب تحمل کے قابل نہیں اور رقباطل کے لئے ہمد وقت آمادہ و مستعد رہتے ہیں اور زبان و بیان تک کی اغلاط کی تصحیح کو جہاد سمجھتے ہیں چنانچہ عباسی صاحب اسلامی تاریخ کے مآخذ پر گفت گو کر رہے تھے اور ”طبری“ وغیرہ کو نامعتبر بتا رہے تھے، اچانک سیدنا حسین کے لئے فرمایا لگے انہیں خناق کا مرض تھا اور طباً نے لکھا ہے کہ اس مرض میں مبتلا انسان کی قوت فیصلہ بہت متاثر ہو جاتی ہے۔ اب جامی صاحب کے جہاد کی گھڑی آگئی تھی، عباسی سے پوچھا کہ یہ بات کس نے لکھی ہے؟ عباسی صاحب روانی میں کہہ گئے کہ ”طبری“ نے لکھا ہے، اس پر جامی صاحب نے ایک بڑے زہریلے قسم کا طنز یہ تمہیں سر کیا اور بولے جی ہاں وہی طبری جو نامعتبر ہے، اس پر عباسی صاحب نے اپنے موقف کے ضعف کو اپنی برہمی سے قوت میں بدلتا چھایا اور آپلے سے باہر ہو گئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے میرے بھائی (بابائے طب مرحوم و مغفور) کا شاگرد ہوں کہ مجھ پر

تفہید کرتا ہے اور ایسی ہی جو اس باختگی کی بہت سی باتیں بڑے جوش و غضب کے عالم میں کہہ گذرے، جامی صاحب نے جو ایسے معرکوں کے عادی اور ماہر اور جسمانی صحت سے بھی مایہ دار ہیں۔ بڑے اطمینان اور ٹھیرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، بڑے میاں! پہلے تو بیٹھ جاؤ! ہانپ رہے ہو۔ پھر تم اس یگانہ وقت اور باخدا بزرگ (بابائے طب) سے کیا نسبت رکھتے ہو، اور ان سے نسبت جتنا ہے جو جس کی تصدیق کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں اگر ہے تو اسے ثابت کرو اور اچھے آدمیوں کی طرح معقولیت سے بات کرو، اپنی باتوں کے تضاد کو رفع کرو اور اگر کشتی ہی لڑتا ہے تو لو میں بھی کھڑا ہوا جاتا ہوں۔ اسی دوران دونوں کی بلند آوازیں سنکر زمانے میں ایک نوجوان غالباً نواسہ محل آیا تھا اسے مخاطب کر کے جامی صاحب نے پچکار تے ہوئے کہا، ”میاں ابا کی مدد کے لئے صرف تم سے کام نہیں چلے گا اللہ کے فضل سے ۲۵ آدمیوں سے بیک وقت لڑوں گا۔ وہ نوجوانی مرعوب ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ اور میں نے جامی صاحب کی آتش جلال کو سرد کرنے کے لئے کچھ کہنا چاہا تھا کہ جامی صاحب کڑکے! معاف فرمائیے محمود میاں! میں باطل اور گمراہ کن اور بے سرو پا باتیں سن کر آپ کی طرح خاموش ہو جانا اور تردید کے لئے مناسب موقع کا انتظار کرنا گناہ سمجھتا ہوں۔ اب میں اس شخص کو بھگتنے کے لئے کیا کوٹری سے پھر کبھی آؤں گا یا یہ مجھے معقول جواب دے در نہ میں ”اپنے بھرے بازو بانو دکھاتے ہو“ ان کو حرکت میں لاؤں گا“ عباسی صاحب یہ عالم یہ رنگ دیکھ کر بڑے خون ریزہ اور بدحواس سے ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے مراسم کے زور پر جامی صاحب کی بجز التواریح جہاد پر آمادہ کیا اور ان کو گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے آیا۔

عباسی صاحب سے آخری ملاقات یوں ہوئی کہ میرے فاضل دوست

عہد کسی قابل رشک قوت ایمانی ہے کاش کہ اہل باطل سے مقابلہ کی ایسی ہی ایمانی قوت اللہ تعالیٰ تمام اہل سنت کو دیدے۔ - ادارہ

جناب اقتدا ہاشمی صاحب اور میں عباسی صاحب کے یہاں گئے۔ ہاشمی صاحب تاریخ اسلام پر بڑا عبور رکھتے ہیں اور ان کے اور عباسی صاحب کے درمیان کتب مطالعہ کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا تھا۔ تو ایک دن ہاشمی صاحب اور میں عباسی صاحب کے یہاں گئے۔ عباسی صاحب اور ہاشمی صاحب اسی موضوع (حسین و یزید) پر گفتگو کرنے لگے، میں کتاب ہاتھ میں لے کر وقت گزارنے لگا۔ مطالعہ سے میری توجہ بلند ہوتی ہوئی آواز نے ہٹائی۔

ایڈیٹ ؟۔ (بیوقوف)

ہاں ایڈیٹ تھا،

علی ایڈیٹ، علی ایڈیٹ۔

یہیں، علی ایڈیٹ، علی واز ایڈیٹ۔

اور ہاشمی صاحب جو پاؤں اٹھائے سخت پر بیٹھے تھے پاؤں لڑکا کر جوتا پہنتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے "حکیم صاحب! آپ ٹھیریں گے، میں تو چلا اب برداشت کی بات نہیں رہی،

میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، فوراً چلے، اب یہاں کبھی نہیں آنا ہے تو یہ تو بہ! اور عباسی صاحب "حکیم صاحب، ہاشمی صاحب" چمچتے رہے مگر ہم وہاں سے نکل آئے اور پھر کبھی وہاں نہیں گئے، یہاں تک کہ عباسی صاحب اس کے دربار میں پہنچ گئے جس کا سامنے ان کا باطن ظاہر ہوگا۔

محمد واجد برکاتی لا لکھیت ۳۰ مارچ ۱۹۷۷ء

حکیم سید محمود احمد برکاتی | حکیم سید محمود احمد برکاتی صاحب معروف طبیب ہیں تہارت سعیدہ و تمدین عالم و فیاض میں، عمدہ صاحب قلم و نقاد ہیں، دین کے شہداء اور جری دخی گو ہیں، مولانا عبد الشکور صاحب لکھنؤی سے گہری عقیدت رکھتے ہیں۔ تاریخی طبیب حکیم فرید احمد صاحب عباسی امرہوی جو مصنف خلافت معاویہ و یزید کے بھائی تھے، کے شاگرد رشید ہیں۔ (ادارہ)

عباسی صاحب حضرت عثمان غنی کو خلیفہ ثالث بھی نہیں مانتے تھے

از مولیٰ حسن صاحب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

(۸) وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ — جہاں اس امت مسلمہ میں ایسے سعادتمند اہل علم اور محققین — پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعہ دین کی اشاعت و تبلیغ کی خدمت انجام دی ہے وہاں ایسے بد بخت گمراہ لوگ بھی ہوئے جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعہ دین کے متعلق شکوک پھیلائے، واجب الاحترام ہستیوں کو اپنی خیانت کا نشانہ بنایا اور مسلمہ واقعات کو غلط تاویلاً کے ذریعہ مسخ کرنے کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ محمود عباسی صاحب اسی دوسرے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ غالباً ۱۹۵۸، ۱۹۵۵ء کا زمانہ تھا کہ عباسی صاحب کا ایک سلسلہ وار مضمون ”الحسین“ کے نام سے کراچی کے ایک اخبار میں چھپنا شروع ہوا۔ راقم بھی اپنی کوتاہ علمی کی وجہ سے اس سے متاثر ہو گیا تھا، عباسی صاحب کا اسی دوران تعارف ہوا اور بعد میں چار بار ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ مگر دوران گفتگو عباسی صاحب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخانہ کلمات اور مغلظات استعمال کرتے رہے، وہ حضرت عثمان غنیؓ کو خلیفہ ثالث بھی نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شر سے محفوظ رکھا اور میں نے محسوس کیا کہ یا تو عباسی خارجی ہے یا ناصبی۔

مجھے خوشی ہے کہ مطہر نقوی صاحب نے عباسی صاحب کی خیانت پر سے پردہ اٹھانے کے لئے یہ کتاب لکھی ہے اور مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ جو عباسی صاحب کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہیں اس کتاب سے عباسی صاحب کا حقیقی چہرہ دیکھ سکیں گے۔ فقط

مولیٰ حسن

21-9-1980

موصوف کا بیان ہے کہ ”خلافت معاویہ ویزید پر پابندی کے خلاف قانونی جاڑ جوئی کے لئے میں ہی عباسی صاحب کو حسین شہید ہروردی کے پاس لے گیا تھا۔ موصوف سے ملاقات بواسطہ عوامی کمیٹی ”نزد زمین مسجد بندر رود ہوسکتی ہے۔ ادارہ کے آئیے میں: مطہر نقوی  
ملا محمود عباسی ایچو معاہدہ و نظریات کے آئیے میں: مطہر نقوی

# حدیث غزوہ قسطنطنیہ اور مغفرتِ یزید

سنہ تصنیف \_\_\_\_\_ شوال ۱۳۸۸ھ

از شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا

مح اکتب بید کتب اللہ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث پر  
 علی تحقیقی بحث غزوہ قسطنطنیہ میں شریک ہونے والے مجاہدین کی بخشش  
 و مغفرت اور یزید ابن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیلئے بشارت اور  
 منقولہ ہم میں داخل ہونے یا نہ ہونے پر ایک گرانقدر اور قیمتی تحریر۔  
 اسلامی تاریخ کے اس معرکہ الآراء و موضوع پر دل و دماغ  
 اور قلب و نگاہ کی پاکیزگی کے ساتھ جامعیت اور اعتدال سے بھرپور  
 ایسی تحریریں بہت کم پڑھنے کو ملتی ہیں۔

دیوبند سے تاج ہوئے والے ایک مشہور مجلہ "ماہنامہ تجلی" کی فروری و مارچ ۱۹۶۱ء کی اشاعت میں جناب مظہر عزیز، ہیل، بی، اے گورکھپور کے قلم سے ایک طویل علمی مضمون بعنوان "حدیث غزوہ قسطنطنیہ پر استفتاء" شائع ہوا۔ اس مضمون میں بخاری شریف کی اس حدیث پر بحث کی گئی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اسلامی فوج کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی پیشین گوئی اور اس میں شرکت کرنے والے مجاہدین و غازیوں کیلئے مغفرت کی بشارت ہے۔

یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں چھ جگہ مختلف ابواب کے تحت تحریر فرمائی ہے پہلی جگہ باب اللعاب بالجهاد والشهادة للرجال والنساء میں اور دوسری جگہ باب من یصرع فی سبیل اللہ فحماة میں تیسری جگہ باب غزوة المرأة فی البحر میں چوتھی جگہ باب رکوب البحر میں، پانچویں جگہ باب ما قیل فی قتال الروم میں چھٹی جگہ کتاب الاستیذان باب من زار قومًا فقتل عندہم میں۔

مستفتی کو اصل خلیجان اس حدیث شریف سے متعلق ان توضیحات و تشریحات میں تھا جو بعض شراح حدیث مثلاً علامہ ابن التین اور علامہ ابن المثیر وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ سے منقول ہیں کہ ان حضرات کے نزدیک مغفور لہم سے کے عموم میں بیزداد اصل نہیں ہے، اس لئے کہ حضور پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ قول اس شرط کے ساتھ مشروط

لہ ناچیز مقدمہ نگار مولانا سلطان الحق صاحب قاسمی ناظم کتب خانہ دارالعلوم دیوبند کا ممنون ہے کہ ان کی مساعی سے تجلی کا یہ شمارہ حاصل ہوا۔

ہے کہ ان مجاہدین میں معفرت کی اہلیت اور صلاحیت بھی باقی رہی ہو۔  
 مستفتی نے علامہ ابن التین اور علامہ ابن المنیر رحمہما اللہ تعالیٰ کی  
 بیان کردہ اس رائے اور توضیح کے پیش نظر ان کے بارے میں منہما لائے  
 من الرفض کا فیصلہ دیا ہے اور ماہنامہ تجلی کے تقریباً چار صفحات میں انکی اس  
 رائے اور توضیح کو غلط ثابت کرتے ہوئے ایک طویل استفتاء دس اکابر علماء کی  
 خدمت میں پیش کیا ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ وہ کتاب و سنت اور  
 فقہائے اُمت کے اقوال و دلائل سے اس کا جواب تحریر فرمائیں۔

وہ دس اکابر یہ ہیں (۱) مولانا الحافظ الشاہ عبدالشکور صاحب فاروقی لکھنؤ  
 (۲) مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی منو اعظم گڑھ (۳) مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی  
 ڈھاکہ (۴) مولانا محمد تقی صاحب امینی مدرسہ معینیہ امیر (۵) مولانا محمد طیب صاحب  
 ہتم دارالعلوم دیوبند (۶) مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی شیخ الحدیث مظاہر علوم  
 سہارنپور۔ (۷) مولانا سید ابوالحسن علی ندوی شیخ الحدیث والتفسیر ندوہ لکھنؤ (۸) مولانا  
 سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی مدیر رسالہ ترجمان القرآن لاہور (۹) مولانا محمد منظور صاحب  
 نعمانی مدظلہ مدیر رسالہ الفرقان لکھنؤ (۱۰) مولانا محمد شفیع صاحب دیوبندی کراچی۔

مستفتی نے ان حضرات کی خدمت میں بھیجنے کیلئے جو استفتاء مرتب کیا ہے  
 وہ اگرچہ کافی طویل ہے لیکن اسکو یہاں نقل کرنا اسلئے ناگزیر ہے کہ حضرت شیخ  
 نور اللہ مرقدہ نے اپنے جواب میں جا بجا اسکے حوالے دیئے ہیں۔ استفتاء یہ ہے۔

استفتاء | (۱) کیا فرماتے ہیں علماء دین حسب ذیل استفسارات و شبہات کے باب میں  
 کیا مغفور لہم سے معفرت اول مراد ہے جس کا دوسرا عنوان

دخولِ جنت بغیر عذاب ہے یا مغفرت بعد سزائے کبار مراد ہے ؟ اگر مغفرت بعد سزا مراد ہو تو نہ اسمیں یزید اور دیگر لشکریان کیلئے کوئی خصوصیت، کوئی مدح، کوئی مزیدہ بشارت ہے اور نہ ابن التین وغیرہ کو اس پر گھبرانے اور تاویلات پیدا کرنے اور مشتبہ بنانے کی کوئی ضرورت ہے۔ کیونکہ وہ تو ابن التین کیلئے، میرے لئے، اور تمام گناہ گاروں کیلئے عام ہے ہی مگر بظاہر اور میرے نزدیک ابن التین کی یہ کلاڑ کوششیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ تمام لشکریوں کیلئے خصوصاً یزید کیلئے کسی قسم کی بھی مغفرت کے قائل نہیں۔

(۲) حضور کا ارشاد مغفور لہم کا طرز بیان، پوری حدیث کے دیگر قرآن کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے کیا جہادِ قسطنطنیہ کی ترغیب اور فضائل کا محض عام ذکر ہے۔ (اگر کوئی فرد یا لشکر پہلے غزوہ قسطنطنیہ میں جائے گا تو مغفور لہم کے ثواب میں بشرط وجود شرائط عامہ ثواب کا شریک ہو سکے گا) یا یہ خاص حالات کے مخصوص افراد کیلئے ایک خاص تبشیر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس انعام کا ملنا تو اٹل ہے یہ انعام تو انہیں مل کر ہی رہے گا کیونکہ ان مخصوص لوگوں کی ایمان کی سلامتی اور وفات علی الامیمان تو متیقن و متعین ہے، اسمیں کوئی شرط و تعلیق نہیں۔ ؟

(۳) اگر یہ اوجبوا اور مغفور لہم ذکر فضائل جہاد مجاہدین ہے اور ترغیب عمل نہیں بلکہ مخصوص تبشیرِ حبش ہے تو کیا مخصوص تبشیر میں بھی شرط و تعلیق ہو کر نی ہے ؟ اگر ہو سکتی ہے تو اسکی کوئی نظیر۔ ؟

(۴) اگر ایک بشارت مغفور لہم میں شرط و تعلیق علماء نے مانی ہے تو کیا اسی وقت کی اور اسی حیثیت کی دوسری بشارت اوجبوا میں بھی شرط و تعلیق مانی ہے۔ ؟



اگر نہیں تو کیوں؟ اس سے تو ترجیح بلام حرج لازم آتی ہے اور اگر ہے تو پھر ابن التین کو یا ہم کو اس ارشاد میں اور کن کن قوانین کو ملا کر ادا جیوا کا انعام تقسیم کرنے کا ضابطہ بنانا چاہیے اور کن کن افراد کو کس کس قانون کی روشنی سے اس بشارت کا نفع ملنے سے خارج کر دینا چاہیے۔؟

(۵) جس قاعدہ کی طرف ابن التین اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حکم مشروط ہے اس شرط سے "وہ بات صحیح اور تسلیم تو ہے مگر جہاں تک میری ناقص نظر اور ناقص فہم کی رسائی ہے، اس کا طرز بیان ہی جداگانہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ دو جملوں (شرط و جزا) میں ہوا کرتا ہے مثلاً من صام رمضان ايماناً واحتساباً عفرلہ ما تقدم من ذنبه وما تأخر وغيرہ۔ یہاں دو جملے ہیں، مضمون بھی شرط و جزا کا ہے اسلئے شرط بھی صحیح اور تعلیق بھی تسلیم مگر "قل جيش من امتي يغزون مدینة فیسر مغفور لہم،" تو جملہ مفردہ اسمیہ خبریہ ہے اسکے اندر بھی شرط و تعلیق ماننا میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی زید کو دورہ پڑھنے کے زمانے میں زید عالم کہدے تو دوسرا کہے کہ واہ زید بھلا اس عوم میں کیونکر داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ تمام علماء بلا اختلاف جانتے اور مانتے ہیں کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، کہے معلوم کہ زید زندہ بھی رہے گا اور یہ کہ عالم ہونا مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ شخص عمر طبعی خدا کے یہاں سے لے کر آیا ہو پھر اس کو مدرسہ بھی جامعات ازہر مصر کی طرح ملا ہو۔ یہاں تک کہ اگر بالفرض اسے ابن التین جیسے استاد نہ ملیں تو اسکے عالم ہونے کا کوئی امکان نہ ہو، اسلئے معلوم ہوا کہ کہنے والے کا منشار عالم کہنے سے صرف اسی صورت کے ساتھ مخصوص و مشروط ہے کہ وہ بوڑھا ہو کر مرے، مہر جا چکا ہو اور ابن التین جیسا استاد ہی اسے ملا ہو

(۶) کیا حضورؐ کی اور تمام بشارتیں عشرہ مبشرہ کو، اہلبیت قرآنی، یعنی اہبات المؤمنین کو۔ اہلبیت حدیثی یعنی آلِ عبا کو اصحابِ بدر کو بلکہ جملہ اصحابِ رسولؐ کو کہ (مغفرتہ واجراً عظیماً کا وعدہ بھی سے ہے) بھی اسی نادر بشرط و تعلیق کا ہدف ہیں۔

(۷) جب جمع الفوائد جلد دوم مناقب حسینؑ میں معجم کبیر طبرانی کی ایک حدیث ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ مروی ہے کہ حضرت جبرئیلؑ اور حضورؐ دو معصوموں نے شہادت دی کہ قاتلین حسینؑ مسلمان ہوں گے، چنانچہ اس پر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو تعجب بھی ہوا گویا ان کو قاتلین حسینؑ کا مسلمان ہونا یا مسلمان رہ جانا باوری نہ ہوتا تھا۔ مگر جب حضورؐ نے ان کو مسلمان کہہ دیا اور قاتل حسینؑ ہی کے جرم کے ساتھ ان کا مسلمان ہونا بیان فرمایا تو کیا ابن السّین، (یا تفتازانی یا کسی غوث و قطب) کو اس کا حق پہنچتا ہے کہ اسے شریعتِ محمدیہ کی رو سے کافر یا مرتد کہیں۔؟

(ب) اگر بالفرض یزید نے یا ابن زیاد نے سیدنا حسینؑ کو قصداً بھی اس خیال سے قتل کیا کہ وہ تفریقِ بین المسلمین کے مرتکب ہو رہے تھے جیسا ابن عمرؓ کا قول اتقوا اللہ ولا تفرقا بین المسلمین، ابن علی اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم کے باب میں مذکور اور حدیث فاتلوہ کا ثنا من کان مشہور ہے تو کیا شریعتِ محمدیہ کی رو سے وہ لوگ گناہگار ہوئے۔؟ کیا ایسا کوئی قاتل مسلم یا مرتد قاتل مسلم ایسی صورت میں بھی مستحق لعنت ہے جیسا امام غزالیؒ لکھتے ہیں۔؟

ایہ سوال بظاہر ابن السّین سے غیر متعلق ہے لیکن ان کے قول کو کچھ دور چلنے کے بعد مستلزم ضرور ہے اسلئے لکھ دیا:

(۸) حضورؐ نے نام حرام کے یہاں قبیلہ میں جو دو خواب دیکھے اور پھر جو بشارتیں اور جبوا اور مغفورؑ لہم کی دیں تو کیا ان ارشادات میں اخبار عن الغیب، کشف مستقبل نہیں تھا۔؟ دونوں خواب خود تو وحی تھے مگر کیا اسکے ان ارشادات میں بھی وحی کا کوئی دخل نہ تھا۔؟ کیا ایسے قرآن وحی سے قطع و یقین کا خیال مستنبط ہوتا ہے یا ظن و تخمین اور تعلق و تمانین ہی کا پہلو نکلتا ہے۔؟ اگر ان قرآن کے باوجود بھی اس ارشاد میں محض ترغیب جہاد اور حکم مشروط نکلتا ہے تو ایک کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اگر حضورؐ نے یا کسی پیغمبر نے خواب کی وحی سے بھی اعمال کے فضائل اور ثواب تعلیم کئے ہیں تو خواب و خیال کا اعتبار کیا۔؟ سائل کے نزدیک اس میں ترغیب جہاد ہرگز نہیں ہے، بلکہ خواب کی وحی، مسرت اور صبحک کے قوی وجد و حال کے قرآن سے اسمیں تامہ اور مغفرت اولیٰ مراد ہے۔

(۹) اگر ابن السین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مغفورؑ لہم کے احترام اور تقدیس میں ایک دوسرے ارشاد نبوی اور عام انعام قانون کو پیش نظر رکھنا اپنے علم و دیانت کا تقاضا سمجھا تو میں بھی حضورؐ کے اس ارشاد کے احترام اور تقدیس ہی کی خاطر ایک دوسرے ارشاد نبوی اور عام انعام خداوندی کو پیش نظر رکھنا اور مسلمانوں تک پہنچانا، اپنے علم و دیانت کا تقاضا خیال کرتا ہوں، علماء کرام فیصلہ کریں سلم و سلامتی والے اسلام اور امن و امان والے ایمان کے مزاج کے مطابق اور حضرت رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت اور رحیمیت اور حق تعالیٰ کی غفارت اور رحمانیت کی روح کے موافق ابن السین کے علم و دیانت کا تقاضا ہے یا راقم الحروف کے علم و دیانت کا، وہ ارشاد نبوی یہ ہے: (دیکھیے مشکوٰۃ باب وقوف بعز عن عباس

ابن مرداس ص ۲۲۹، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روز دن ڈھلے اپنی اُمت کی مغفرت (تاتمہ) کی دُعا فرمائی تو دربار الہی سے جواب ملا کہ اچھا میں نے ان سب کو بخش دیا بجز مظالم اور حقوق العباد کے، کیونکہ یہ حق تو میں ظالم سے مظلوم کو دلوں کر رہوں گا تو حضورؐ نے عرض کیا اے میرے پروردگار! آپ اگر چاہیں تو مظلوم اور صاحبِ حق کو جنت کا کوئی محل دیکر راضی اور ظالم کو (بری فرما کر) معاف فرما سکتے ہیں تو اس دُعا کا جواب وہاں میدانِ عرفات میں تو آپؐ کو نہیں ملا مگر جب آپؐ نے مزدلفہ پہنچ کر صبح کو پھر وہی دُعا مانگی تو آپؐ کی دُعا منظور کر لی گئی، راوی کہتا ہے کہ پھر حضورؐ پر ضحک یا تبسم کا وجہ طاری ہو گیا تو آپؐ سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ ہمارے ماں باپ آپؐ پر قربان! یہ گھڑی تو ایسی مبارک اور اہم ہے کہ آپؐ (بجز شغلِ دُعا و اہتِ مال و گریہ اور ذکر کے) کبھی اس وقت ہنسا نہیں کرتے تھے، آخر کیا بات تھی جس نے آپؐ کو ہنسا دیا، خدا کرے آپؐ ہمیشہ ہنسنے خوش ہوتے رہیں، حضورؐ نے فرمایا سنو! اللہ کے اس دشمن ابلیس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دُعا (مغفرتِ اُمت کی) قبول فرمائی اور میری اُمت کی مغفرت (تاتمہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی) فرمادی تو مٹی لیکر سر پر ڈالنے اور بڑی ہاتے ویلا چھاننے لگا ہے، پس اسکی یہ بدجو اسی دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آگئی!! (اہتہا)

اب ابن التین ذرا دیکھیں کہ اس حدیث میں بھی اسی مغفرت کا ذکر ہے جس کے ایک صیغہ مغفور لہم نے ان کو بدجو اس اور تاویلات پر آمادہ کر دیا، ابن التین تو ایک یزیدی کی مغفرت پر سر بڑھیں، پور ہے، میں اور حضورؐ کی شانِ رحمت اللعالمین ساری ہی اُمت کی مغفرت تاتمہ کیلئے بار بار دُعا فرما رہی ہے جن میں نہ معلوم کتنے یزید ہونگے۔

یہ استفادہ حضرت نور اللہ قادری کی خدمت میں دس سوال شدہ (۲۸ مارچ ۱۹۶۱ء) میں پہنچا، اسکے ساتھ ایک چند سطری خط سائل کی جانب سے اس مضمون کا بھی ملا کہ احقر کو جناب کے علم و عمل اور تقویٰ اور اخلاق پر اعتماد ہے، اسلئے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ماہ سوال کے ختم تک اس فتویٰ کا جواب دیدیا جائے۔

حضرت الخدم نے اپنے شدید مشاغل اور متعدد عوارض کے باوجود دو دن میں اس کا جواب اپنے قلم مبارک سے تحریر فرما کر خدام کے حوالہ کیا کہ وہ اس کی نقل تیار کر لیں، لیکن جواب لکھنے میں جس قدر عجلت ہوئی اسی قدر اس کے ارسال کرنے میں تاخیر ہوتی چلی گئی اور مین ذی الحجہ ۱۳۸۰ھ (۱۹ اپریل ۱۹۶۱ء) میں بھینچنے رجسٹری سائل کو یہ جواب بھیجا گیا۔

مولانا عام صاحب عثمانی (مدیر تجلی) نے اس جواب کو پڑھ کر جو خط تحریر کیا وہ یہ ہے۔

مخدوم و مکرم مولانا تے محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔  
جواب استفادہ پر مشتمل جناب کا ملفوف موصول ہو گیا تھا، لیکن بعض ناگزیر اسباب سے وصولیابی کی رسید دینے اور اظہار تشکر کرنے میں دیر ہوئی معاف فرمائیے گا۔  
آنجناب نے اپنی بیماری کے باوجود اتنے مفصل جواب کی زحمت فرمائی یہ جناب کے اخلاق کریمانہ اور ظرف عالی کا منظر ہے، پھر جس پاکیزہ لب و لہجہ میں آپ نے جواب عنایت فرمایا ہے وہ یقیناً جناب کی عظمت کا نقش روشن ہے، اللہ تعالیٰ آپ جیسے کریم النفس بزرگوں کو نادیر ہمارے سردوں پر قائم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ علمی مباحث میں آپ کی متانت، علم اور منکسر مزاجی کا اتباع کر سکیں۔

یہ ضروری نہیں کہ مستفتی کو آپ کے ہر ارشاد سے اتفاق ہی ہو لیکن یہ اظہر من الشمس ہے کہ آپ کی تفہیم کا انداز صاحب علم و تقویٰ بزرگوں کی شایان شان ہے اور علمی سحر کا امانت دار۔

تمام موصولہ جوابات کا مطالعہ کر کے جناب مستفتی کس نتیجہ پر پہنچیں گے یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے، فی الوقت اس عاجز پر آپ کا شکر یہ فرض ہے اور اسی کی ادائیگی کے لئے یہ سطور ہدیہ خدمت کی ہیں، اگر موصولہ جوابات تجلی میں شائع کئے گئے تو پرچہ ضرور حاضر خدمت ہوگا، آپ کی صحت و عافیت کے لئے یہ گناہ گار دعا کرتا ہے اور آنجناب سے دُعا کے خیر کا نتیجہ ہے۔

عامر عثمانی، مدیر تجلی، ۶ مئی ۱۹۶۱ء

ابھی آپ نے مدیر تجلی کا مکتوب اور ان کی طرف سے حضرت المخدم کے لئے القاب و آداب، پاکیزہ لب و لہجہ، اخلاق کریمانہ اور طرف عالی، عظمت کا نقش روشن علمی مباحث میں ان کی متانت، حلم اور منکسرانہ مزاجی، تفہیم کا انداز، صاحب علم و تقویٰ، بزرگوں کے شایان شان اور علمی سحر کا امانت دار جیسے وقیع اور اونچے الفاظ ملاحظہ فرمائے، لیکن انہی القاب و آداب اور صفات محمودہ سے متصف شخصیت نے مودودی صاحب کی تصنیفات و تالیفات کا جائزہ لیکر جب ان کا تعاقب کیا اور ان کے دجل و تبلیس کو آشکارا کیا تو ماہنامہ تجلی کے اسپر تبصرے اور تنقید اور درشت لب و لہجہ قارئین کیلئے تصویر کا دوسرا رخ ثابت ہوا۔

ابن الہتین اللہ میاں کو تقسیم مغفرت کے متعلق ایک ضابطہ بنا کر مشورہ دے رہے ہیں کہ حضور سے مشروط کر دیجئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حریص علیکم کا تاج سر بردار کئے ہیں وہ حق تعالیٰ کے سامنے حقوق العباد (جس میں قتلِ مسلم بھی داخل ہے) کی معافی کے لئے ترجم خسروانہ کی اپیل کر رہے ہیں اور اُمت کو ولا تخش من ذی العرش افلا لا کے عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں۔

(۱۰) جب مغفور تمہیں حضور کا ارشاد ہے اور مقام تبشیر میں ہے منزل کے طور پر اسکے تو معنی ہی یہ ہیں کہ اس فوج کے لوگ گناہوں سے پاک اور پارساؤ نہ ہوں گے کہ مغفرتِ اول سے کامیاب ہوں اور بے حساب جنت میں چلے جائیں بلکہ ہوں گے ان میں سے اکثر تم تکبیر کبار، کوئی قابلِ مسلم ہوگا کوئی آمر تبشیر مسلم ہوگا کوئی مستبشر بہ قس ہوگا کوئی مدینِ خمر ہوگا کوئی جیتوں اور گتوں سے شکار کا مشغلہ کرتا ہوگا، کوئی شعر گوئی میں تضحیح اوقات کرتا ہوگا، ایسے لوگوں کیلئے بھی جب حضور نے مغفور لہم فرمادیا تو کیا اس کا صاف مطلب یہ نہیں کہ جہادِ مدینہ قیصر کا ثواب اس قدر بے نہایت ہے اور یہ فعل ایسا پسندیدہ حق ہے کہ اس فوج کے تمام افراد کے تمام گناہ صغائر بھی کبار بھی، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی سب بخش دیئے جائیں گے، بلکہ اگر بالفرض ان مجاہدین میں سے کسی کو (معاذ اللہ) ایک تقدیرِ رازی کے بموجب کفر و ارتداد کا بھی ابتلاء پیش آجائے گا تب بھی اُس غزوہ کے مجملہ شکر کیلئے (بلا استثنا۔ مرد و عورت، امیر و مامور، سپاہی و سپہ سالار) حق تعالیٰ کی دوسری تقدیر یہ بھی ہو چکی ہے کہ اس ابتلاء کے بعد بھی اسے پھر توبہ و صادقہ کی توفیق یقیناً ہو جائے گی، اس طرح وہ مستحق مغفرت بن جائیگا اور حضور کا

فرمان سچا اور پورا ثابت ہو کر رہے گا، گویا حضورؐ نے مغفور تم فرما کر اسی دوسری تقدیر خداوندی کی طرف اشارہ فرمایا تھا جو ابن السّین کے گلے کے نیچے نہیں اتر ہی۔ ایک نظریہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپرا ایمان لانا ضروری ہے، اگر ابن السّین مکذبین بالقدر میں سے نہیں ہے تو ان کو آنکھ کھول کر وہ ارشاد نبوی دیکھنا چاہیے جسے بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے (دیکھو مشکوٰۃ باب القدر عن ہل بن سعد) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ زندگی بھر دوزخیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اسی طرح بندہ جنتیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ انسان کے آخری اعمال کا اعتبار ہوتا ہے یہ تو سچی تقدیر کی تصویر اور نظریہ، اب اسکی ایک مثال بھی عہد سعادت ہی کی سن لیجئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ سے کچھ وحی قرآنی لکھوائی، آیت فتبارک اللہ احسن الخالقین پڑھ کر ایک تقدیر الہی کی بموجب ان کو ارتداد کا ابتلا پیش آگیا مگر چونکہ ان کو جنتی ہونا تھا اسلئے دوسری تقدیر الہی سے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سعی سے ان کے عہد میں دوبارہ اسلام لائے اور فاتح مصر بنے، رضی اللہ عنہ، حالانکہ لسان نبوت نے جہاں تک مجھے علم ہے ان کے بارے میں مغفور تم سے کی بشارت دی بھی نہیں تھی، اگر مزید سپہ سالار غزوہ قسطنطنیہ کیلئے بھی جس سے شاید کفر و ارتداد ہوا بھی نہیں تھا، حق تعالیٰ نے حضورؐ کے ارشاد مغفور تم کی لاج رکھنے کیلئے دوسری تقدیر، توبہ صادقہ، قبل الموت، وفات علی الایمان کی فرمادی، ہو تو ابن السّین کو اس تقدیر الہی سے انکار کیوں ہے؟ بیٹو! توجروا!



عنایت فرماتے سنو، بعد سلام سنو  
 کئی دن ہوتے اول رسالہ تجلی اور پھر گرامی نامہ پہنچا، رسالہ کی آمد سے  
 تعجب ہوا کہ کیوں آیا، معمولی ورق گردانی سے بھی پتہ نہ چلا کہ کیوں آیا پھر گرامی نامہ  
 کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ کوئی استفتا اسمیں ہے تو خیال ہوا کہ دارالافتاء میں  
 بھیج دوں اسلئے کہ یہ ناکارہ مفتی نہیں ہے نہ فتاویٰ کے جواب لکھتا ہے، اس  
 ناکارہ کے نام جو فتاویٰ آتے ہیں وہ دارالافتاء ہی میں بھیج دیتا ہے بلکہ زبانی بھی  
 کوئی مسئلہ دریافت کرتا ہے تو مفتی صاحب کے پاس بھیج دیتا ہوں کہ افتاء کی  
 ذمہ داری سخت ہے اور یہ ناکارہ افتاء کا اہل نہیں ہے، لیکن ایک صاحب نے  
 جو اتفاق سے یہاں بیٹھے تھے رسالہ کو دیکھا اور اسمیں اس ناکارہ کے نام پر نظر  
 پڑ گئی تو انہوں نے متوجہ کیا۔ اس پر دیکھ کر معلوم ہوا کہ فتویٰ نہیں ہے۔ بلکہ  
 بخاری شریف کی ایک حدیث کے متعلق اشکال ہے۔ اس پر بھی اول تو یہ ہی  
 خیال رہا کہ رسالہ اور گرامی نامہ دونوں واپس کر دوں، اسلئے کہ اول تو یہ ناکارہ اس  
 میدانِ کارزار میں کودنے کی اہلیت نہیں رکھتا، دوسرے کئی ماہ سے آنکھوں میں  
 تکلیف ہے۔ حکیم ڈاکٹر نزول آب بتاتے ہیں۔ نومبر سے ڈاک بھی عموماً دوسرے  
 ہی لکھ رہے ہیں۔ اسلئے مراجعت کتب کی ان حالات میں ہمت بھی نہیں ہے۔  
 پھر اس خیال سے کہ مشہور حدیث ہے۔ بخاری شریف پڑھانے میں ۱۳۲۶ھ سے  
 اس حدیث پاک پر کم و بیش کلام کرنا ہی پڑتا ہے اسلئے مراجعت کتب کی ضرورت  
 بھی نہیں۔

اسلئے جو ذہن میں سوالات کے متعلق حاضر ہے وہ لکھواتا ہوں، کوئی بات سمجھ میں آئے قبول فرمائیں، کوئی بات بھی قابل قبول نہ ہو تو کالاسے بدبریش خاوند، اس پر صبر چاک فرمادیں، رد و قدح، مناظرہ اور جواب الجواب سے بندہ کو معذور خیال فرمادیں کہ یہ ناکارہ اس میدان میں کودنے کو آمادہ نہیں ہے۔

بندہ کے نزدیک عوام میں ایسے امور کا پھیلا نادری حیثیت سے مضر ہے کہ وہ حدود دین میں نہیں رہتے، کسی ایک جانب کو جو باہمی الہامی میں ان کی سمجھ میں آجائے نہایت شد و مد سے لیکر دوسری جانب افراط و تفریط شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا مختصر عرض ہے کہ۔

(۱) بندہ کے نزدیک معفو ز لہر سے مغفرت اولیٰ ہی مراد ہے، جس سے دخول جنت اولیٰ ہی مراد ہے، اسکے باوجود ابن التین وغیرہ کو جو مشکلات پیش آئیں وہ آئندہ عرض کروں گا، اور اگر دخول غیر اولیٰ ہی مراد ہو تب بھی کوئی مانع نہیں۔ اس صورت میں تبشیر کا مقصد ان کی موت علی الایمان کی بشارت ہے کہ اس صورت میں مشتملی کے اعتبار سے دخول جنت مراد ہے اور تبشیر عدم خلود فی النار کی ہے۔

(۲) اس کا جواب بھی معلوم ہو گیا کہ یہ یقیناً خاص حالات میں مخصوص تبشیر ہے اور اس حدیث پاک کا مقتضی یہی ہے کہ ان جملہ شرکار جلیش کی جن میں یزید بھی ہے مغفرت کی بشارت ہے۔

(۳) یہ تو ظاہر ہے کہ تبشیرات شرائط کے ساتھ مقید ہو ا کرتی ہیں، اسکی نظیرو آپ نے خود ہی اپنے سوال نمبر نو میں لکھی، اسکے علاوہ بھی کتب فضائل اعمال میں بہت سی نظیریں ملیں گی جو کتب حدیث کی معمولی درق گردانی سے بکثرت مل سکتی ہیں

فضائل وضو، فضائل نماز، فضائل جہاد، روزہ، حج وغیرہ کے فضائل میں بکثرت تبشیرات ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ سب مقید بقیود ہیں، کیا عقل میں آتا ہے کہ آدمی ہزاروں گناہ کرتا رہے اور وضو سب کو ساتھ ساتھ دھوئی رہے۔

(۴) یہ تو ظاہر ہے کہ جو شرط اس حدیث مغفور لہم میں مانی جائے گی وہ سب ہی جگہ ملحوظ ہوگی اور آپ نے تو نمبر پانچ میں خود ہی تسلیم کر لیا کہ ابن التین جو شرط لگاتے ہیں وہ بات صحیح اور تسلیم تو ہے۔

(۵) آپ کا یہ ارشاد کہ یہ بات صحیح تو ہے مگر اس کا طرز بیان شرطہ جزا سے ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ دونوں طرح کے سیاق کثرت سے احادیث میں ملیں گے اسی حجۃ الوداع کے قصہ میں مشکوٰۃ کے اسی باب میں جس سے آپ نے حدیث مندرجہ سوال نمبر نقل کی ہے۔ حضرت جابر کی حدیث میں اللہ تعالیٰ شانہ کا پاک ارشاد اشہد کمافی عفرت لہم ہے۔

اس ناکارہ کے رسالہ فضائل رمضان میں متعدد روایات بغیر شرطہ و جزا کے آپ کو ملیں گی مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت یغفر لہم فی آخرۃ اور حضرت انس کی روایت اذاکان یوم عیدہم یا ہی جہم ملہ سکتہ فقال یا ملائکتی ماجزاء اجیرونی عملہ، قالوا ربنا جزاؤہ ان یوفی اجرہ قال ملائکتی عبیدی وامائی تضرعان ینضتی علیہم ثم یرجوا یعبون الی الدعاء وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاع مکانی لاجیبینہم فیقول ارجعوا فقد عفرت لکم وابدلت سیاکم حسنات قال

لہ فضائل رمضان صفحہ ۴۰

فیرجعون مغفور الہم، کیا آپ اس حدیث کے جو موکد بالا حلاف بھی ہے  
مغفور الہم اور حدیث قسطنطنیہ کے مغفور الہم میں کوئی فرق کریں گے؟ جب کہ  
یہاں بھی شرط جزا نہیں ہے، یا اس حدیث کی بنا پر جملہ صائمین کو دخول اولیٰ  
بخشیں گے، چاہے کتنے ہی فسق و فجور کے مرتکب ہوں اور کتنے ہی قتل عمداً  
ہذب و غارۃ کے مرتکب یہ صائمین ہوں، اس نوع کی بکثرت روایات آپ کو ملیں گی  
(۶) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں احادیث صحیحہ سے ثابت  
ہوں گی چاہے وہ افراد کی ہوں جیسا کہ عشرہ مبشرہ وغیرہ یا جماعت کی ہوں ان سے  
دخول اولیٰ ہی مراد ہے، لیکن ناوکب شرط سب جگہ مجبوراً ماننا پڑے گا ورنہ  
نصوص قطعہ قرآن و حدیث جن میں کبار تریہ و عیدیں آئی ہیں وہ سب غلط کہنا  
پڑیں گی، اسکے بعد جہاں کوئی معارض نہ ہوگا جیسا کہ عشرہ مبشرہ وغیرہ کی روایات  
ہیں وہ اپنے ظاہر پر نہیں گی اور جہاں بھی روایات بمشیر دوسری نصوص بالخصوص  
نصوص قطعہ سے معارض ہو جائیں گی وہاں مجبوراً تاویل کرنی پڑے گی، جیسا کہ  
ہمیشہ اختلاف روایات کے موقع پر کرنا پڑتا ہے، یہی مجبوری ان سب حضرات  
اکابر کو سلفاً خلفاً پیش آئی جس کی وجہ سے حدیث قسطنطنیہ کی تاویلات کی ضرورت  
پیش آئی اور مختلف تاویلات اکابر سے نقل کی گئیں۔

(۷) جب کہ ان حضرات کو بخاری شریف کی حدیث کی مجبوراً توجیہ کرنی پڑی،  
توجیہ القوائد کی روایت (مکسیر بلین طلولا) سے مرعوب ہونا تو مشکل ہے اور ظاہر ہے  
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کے بعد کسی غوث، قطب کو کیا حق ہو سکتا ہے

لہ جمع القوائد صفحہ ۲۱۸ جلد دوم، مطبوعہ مطبعہ خیر یہ میرٹھ

کہ خلاف شرع کچھ کہہ سکے جب کہ خود سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ کدنت  
 ترکن الیہم شياً قليلاً پر لاذقنک ضعف الحیات وضعف الممات  
 کا ارشاد عالی وارد ہو گیا۔ لیکن جب یہ روایات ومن یقتل مؤمناً متعمداً  
 فجزائہ جہنم خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ (الآیۃ) کی  
 وعیدات قطعہ کے خلاف ہو جائیں تو غوث قطب نہیں بلکہ عام مومن بھی روایت  
 کی تاویل و توجیہ کی طرف دوڑے گا۔

یہ امر آخر ہے کہ یزید اس آیت کا مصداق ہے یا نہیں، لیکن جن کے نزدیک  
 اس آیت کے مصداق میں داخل ہے وہ ایک بخاری یا جمع الفوائد کیا نص قطعی  
 کے مقابلہ میں سب اخبار آحاد کو رد کرینگے یا توجیہ کریں گے۔

(ب) بالفرض سے جو آپ نے لکھا وہ تو نیت سے تعلق رکھتا ہے جس کا  
 اس ناکارہ کو تو علم نہیں کہ کس خیال سے قتل کیا تھا اسلئے یہ ناکارہ تو کوئی حکم  
 نہیں لگانا، مگر ابن السین، تفتازانی وغیرہ متشددین کے نزدیک اگر محض حصول  
 سلطنت اور اپنے وقار کا مخالف اور دنیوی اغراض کے خیال سے قتل کیا ہو تو وہ  
 تو سب کچھ کہیں گے۔

آپ نے حضرت عمرؓ کا ارشاد اتقوا اللہ! کا حوالہ تحریر نہیں فرمایا کہ حدیث  
 کی کوئی کتاب میں ہے اور بندہ اس وقت مراجعت کتب سے معذور ہے مگر  
 جمع الفوائد کے جس باب سے آپ نے ام سلمہ کی حدیث بالانقل فرمائی اس باب  
 میں ابن عمر کی یہ حدیث آپ نے ملاحظہ نہیں فرمائی انظر والی ہذا ایسا لئی  
 عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وفی

روایۃ تسالوناعن قتل الذباب وقد قتلتم ابن بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فی اخری ما اسالہم عن الصغیرۃ واجراہم علی الکبیرۃ (للبخاری) اگر ابن عمر کے نزدیک یہ آپ کی مندرجہ حدیث کے تحت میں تھا اور ان کا قتل مامور پر تھا تو وہ قاتل کو اجراء علی الکبیرہ نہ فرماتے۔

میرے خیال میں حضرت ابن عمر کا ذکر آپ نہ فرماتے تو آپ کیلئے زیادہ مفید ہوتا کیونکہ وہ آپ کے خلاف معلوم ہوتے ہیں کہ وہ قاتلین کو مرگب کبیرہ بتاتے ہیں حدیث اقتلوہ کاٹنا من کان اگر مشہور ہے تو لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق بھی شہرت میں کم نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہی مشہور ہے اور من رأی منکراً فلیغیرہ بیدہ (الحديث) دونوں سے زیادہ مشہور ہے ولتاخذن علی یدی الظالم ولتا طونہ علی الحق اطراً ولتقصرنہ علی الحق قصراً، او لیضربن اللہ قلوب بعضکم علی بعض ثم لیلعنکم كما لعنہم بھی حضور ہی کا ارشاد ہے۔

نیز جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مامور و مرسل امیر کے متعلق مامور کے خلاف کرنے کی صورت میں معزول نہ کرنے پر ناراضی کا اظہار فرماتے ہیں جیسا کہ ابوداؤد شریف کی حدیث ہے۔

لورایت ما لامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اعجزتم

اذ بعثت رجلاً منکم فلم یبض لامری ان تجعلوا مکافہ من یبضی لامری۔

تو اگر امام حسین اپنے کو اس سے عاجز نہیں سمجھتے اور اس ارشاد کی تعمیل کی

لے جمع الفوائد ص ۱۸۱ جلد دوم مے مشکوٰۃ۔ مطبوعہ رشیدیہ دہلی اسے ابوداؤد شریف۔

سستی فرماتے ہیں تو وہ کیسے وعیداتِ بلا میں داخل ہوں گے اور جو حضرات عواض یا عدم قوت کی وجہ سے یا فتنہ کے خوف سے اپنے کو عاجز سمجھتے ہیں ان کو یقیناً روکنا ہی چاہیے تھا، اسلئے جن حضرات صحابہ کرام نے شرکت سے روکا ان پر بھی اشکال نہیں اور جنہوں نے منکر کو روکنے کی سعی فرمائی ان پر بھی ملامت نہیں۔

(۸) یقیناً یہ وحی بھی ہے، بشارت بھی ہے، دخولِ اولیٰ بھی ہے اور جو آپ فرمانا چاہیں وہ سب کچھ ہے لیکن خبر واحد ہے قطعی نہیں ہے، اسلئے جب اُن نصوصِ قطعیہ کے خلاف ہوگی جن میں کبائر اور قتلِ عمد وغیرہ پر وعیدیں ہیں تو لامحالہ کوئی توجیہ کرنی پڑے گی، اسی لئے اکابر سلفاً خلفاً توجیہات فرماتے رہے۔

(۹) یہ نمبر بالکل سمجھ میں نہیں آیا، میرے خیال میں تو اس نمبر میں آپ نے سابقہ دلائل کا سب کا خود ہی رد کر دیا۔ سلم و سلامتی والا اسلام اور شانِ رحمت للعالمین اور مالک کی غفاریت اور رحمانیت کی روح اپنی جگہ لیکن وہی سلم و سلامتی والا سلام حدود و قصاص پر کتنا زور دیتا ہے۔ وہی رحمت للعالمین جن کی شانِ رافت اور رحمت للعالمین ہونا نصِ قطعی ہے لیکن ان ہی کی صفات میں اذا انتہک من محارم اللہ تعالیٰ شیئاً کان من اشدھم فی ذلک غضباً بھی ہے وہ فتحِ مکہ کے عفو عام میں سے چند کو یہ کہہ کر مستثنیٰ بھی فرما دیتا ہے کہ لا اومنہم فی حل ولا حرم، اور ان خطل کے تعلق باسار الکعبہ کے باوجود آفتلہ کا حکم فرماتا ہے مالک اور ارحم الراحمین اپنی ساری رحمت کے باوجود قرآن پاک میں ان ابّ الذین یشترون بجمہد اللہ وایمانہم ثمنا قلبیلاً اولئک لا ینالون

لہ شمائلِ ترمذی، باب ماجاء فی خلقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

فی الآخرة ولا ینظر الیہم یوم القیامة ولا ینزک الیہم ولہم  
عذاب الیم۔ بھی فرماتا ہے۔ وہ انزلنا علی الذین ظلموا جزا من السماء  
بما كانوا یفسقون۔ بھی فرماتا ہے، جو سید الکونین کو بھی ولئن اتبعت اہواکم  
من بعد ما جاءک من العلم انک اذ المن الظالمین ارشاد فرماتا ہے۔  
جو من لم یر حکم بما انزل اللہ فارلک ہم الظالمون فرماتا ہے جو شر  
قیل للذین ظلموا اذ قوا عذاب الخلد بھی فرماتا ہے، جو انا اعتدنا  
للظالمین ناراً احاط بہم سرادقہا بھی فرماتا ہے جو قد خاب من حمل  
ظلمنا بھی فرماتا ہے، جو الذین ظلموا من ہؤلاء سیمیبہم سیات  
ما کسبوا فرماتا ہے۔ جو لایرد باسنا عن القوم المجرمین فرماتا ہے۔ جو  
انا من المجرمین منتقمون فرماتا ہے وہ وامتازوا الیوم انہا الجرمون  
بھی فرماتا ہے، ان المجرمین فی عذاب جہنم خلدون بھی فرماتا ہے۔  
ان المجرمین فی ضلال وسعر۔ یوم نسیعبرن فی المار علی وجوہہم  
ذروا متس سفر بھی فرماتا ہے۔ ومن یکتسب خطیئة او اثماً ثم یرم  
بہ بریئاً فقد اخطم بہتانا واثماً مبیناً بھی فرماتا ہے، وکفی بر ربک  
بذنوب عبادہ خبیراً بصیراً بھی فرماتا ہے، والذین کسبوا السیات  
اور الذین فسقوا فمنا واهم النار بھی فرماتا ہے

کہاں تک نقل کروں، قرآن پاک کی سیکڑوں آیات ان مضامین و عید پر  
مشتمل ہیں، آپ خود غور کریں کہ جن لوگوں کی تحقیق میں زید ظلم تعدی فسق و فجور  
کی آیات میں داخل ہو۔ اسکو بخاری شریف کی ایک روایت معفوز تہم میں داخل



ہونا کیسے بچا سکتا ہے۔

یہ امر آخر ہے کہ وہ ان میں داخل ہے یا نہیں؟ لیکن اگر داخل ہو تو آپ ہی بتائیں کہ آپ کیا کہیں گے آپ خود مجبور ہوں گے اسی کے کہنے پر جو تفتازانی وغیرہ نے کہا۔

آپ نے اس موقع پر عرفہ والی روایت مغفرت عامہ کی اپنی تائید میں لکھی مجھے حیرت ہے کہ یہ حدیث آپ نے کیوں لکھی یہ حجہ کلم ہے یا حجہ بلیکلم، اس نے تو آپ کی ساری تحریر کا خود ہی جواب بتا دیا، کیا اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ سال بھر تک قتل و غارت کرتے رہیں، خوب لوٹ مار کریں، مسلمانوں کا قتل عام کریں، ان کے مالوں کو لوٹیں، نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں، کوئی معروف نہ کریں، کوئی منکر نہ چھوڑیں، عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کر لیں پھر عمر بھر کو ان کی چھٹی ہے، جو جو مظالم چاہیں کرتے رہیں وہ سب باری عزاسمہ کے ذمہ اور حقوق اللہ اور اسکے محارم کا انتہاک سب معاف۔ میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا کہ آپ نے یہ حدیث کیوں لکھی جس کے متعلق بلا علی قاری نے ضعفہ غیر واحد من الحفاظ لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ ظاہر الحدیث عموم المغفرة وشمولها حق الله وحق العباد الا انه قابل للتقيد بمن كان معه صلى الله عليه وسلم في تلك السنة او بمن تيل حجه

بان لعيرنث وليرفسق. ومن جملة الفسق الاصرار على المعصية وعدم التوبة ومن شرطها اداء حقوق الله الفائتة وقضاء حقوق العباد اور بحث کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ اذا تأملت ذلك كله عملت انه ليس

فی هذه الاحادیث ما یصلح متمسکا لمن زعم ان الحج یکفر التبعات لان الحدیث ضعیف بل ذهب ابن الجزری الی انه موضوع — اور یہ بھی لکھا ہے قال البیهقی فلا ینبغی لمسلم ان ینتفی بنفسه بان الحج یکفر التبعات۔ فان المعصیۃ شؤم وخلاف الجبار فی اوامرہ ونواہیہ عظیم واحد نا لا یمبر علی حمی یوم او وجع ساعة فکیف یمبر علی عقاب شدید، وعذاب الیم۔ لہ

اس ناکارہ کی شرح موطا وجز المسالک میں بھی اس مسئلہ پر مختصر بحث ہے جس میں قاضی عیاض کا یہ قول بھی نقل کیا ہے اجمع اهل السنة ان الکبائر لا یکفرها الا التوبة ولا قائل بسقوط الדיن ولو حقا لله کدین صلوة و زکوة — اور اسی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے من اعتقد ان الحج یسقط ما رجب علیه من الحقوق یتتاب والاقبل ولا یسقط حق الادمی بحج اجماعا۔ ۱۵۱۔ لہ حالانکہ مختلف طاعات کے مکفر سیئات ہونے کے بارہ میں بہت کثرت سے روایات وارد ہوئی ہیں۔ لیکن نصوص قطعہ کے خلاف کی وجہ سے اکابر ائمتہ کو سلفا خلفا ان کی توجیہات مختلف کرنے کی ضرورت پیش آئی، اس صورت میں اگر بخاری شریف کی ایک حدیث کے مغفور لہم کی توجیہات کرنی پڑیں تو کیا استحالہ ہے۔

در حقیقت آپ نے عباس بن مرداس والی حدیث لکھ کر علماء کو اس طرف متوجہ کیا کہ وہ ابن اثین کے فیصلہ کو آپ کے فیصلہ پر ترجیح دیں۔

لہ مرقات شرح مشکوٰۃ ج ۲۱، جلد ثالث، ۱۵۱۔ وجز المسالک جلد ثالث

آپ نے لکھا کہ ابن استین ذرا دیکھیں کہ اس حدیث میں بھی اسی مغفرت کا ذکر ہے جس کے ایک صیغہ مغفور لہم نے ان کو بدحواس اور تاویلات پر آمادہ کر دیا۔ لیکن آپ ہی اپنے اقرار کی رو سے دیکھیں کہ عباس بن مرداس کی حدیث میں بھی وہی صیغہ ہے جو قسطنطنیہ والی حدیث میں ہے تو کیا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام و تقدیس اور انعام خداوندی کی خاطر یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ سارے مسلمان خوب قتل و غارت، حرام کاری، زنا کاری وغیرہ ہر منکر کرتے رہیں، کسی معروف کے پاس نہ پھٹکیں، کسی منکر سے ذرا بھی نہ بچیں البتہ عمر بھر میں ایک حج کر لیں، پھر مرنے ہی مرنے ہیں۔

اس میں ذرا تصنع نہیں کہ میری عقل بالکل حیران ہے کہ یہ عرفہ والی حدیث آپ نے کیا سوچ کر لکھی، ابن استین کے حامیوں کی خود ہی رہنمائی کی کہ بخاری شریف کی حدیث مغفور لہم قابل تاویل ہے، اس لئے کہ عرفہ والی حدیث کے بھی بقول آپ کے وہی لفظ ہیں اور وہ قطعاً ماول ہیں، وہ اپنے ظاہر پر اگر رہیں تو آخرت میں جو ہوگا، سو ہوگا، دنیا میں بھی ظہر الفساد فی البر والبحر قائم ہو جائے گا، نہ معلوم ابن استین کی مخالفت میں آپ خود کہاں پہنچ گئے۔

(۱۰) بندہ کے خیال میں نمبر نو کے بعد اس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے۔  
اس میں آپ نے کوئی نئی بات نہیں لکھی بلکہ اسی کا دوسرے الفاظ میں اعادہ کر دیا۔  
میں ابن استین کی طرف سے آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ جب عرفہ والی حدیث اور قسطنطنیہ والی حدیث کے الفاظ بقول آپ کے ایک ہی ہیں اور اس جہاد میں مرتکبین کبار قاتل مسلم امر بالقتل وغیرہ سب ہی ہوں گے جیسا کہ مغفور لہم سے معلوم

ہوتا ہے اور سب کے جملہ معاصی و مظالم معاف جنت کا دخول اولیٰ ان کیلئے طے شدہ ہے تو پھر ساری دنیا کے بد معاش، لٹیروں، زانی، شرابی، بے نمازی، روزہ خور، سود خوار کیوں حج سے مغفوز الہم نہیں بنیں گے۔

کسی حاجی کا چاہے وہ حج سے قبل اور بعد کتنا ہی بدکار قاتل مسلمین کیوں نہ رہا ہو، جنت میں دخول اولیٰ طے ہے اور ایک حج ہی کیا فضائل اعمال کی احادیث میں تکفیر السیئات اس کثرت سے وارد ہیں کہ لا تعد ولا تحصى، لیکن اسکے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ المفلس من امتی من یاتی یوم القیامۃ بصلوٰۃ وبصیام وزکوٰۃ ویاتی قد شتم هذا وقد ف هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا فیعطی هذا من حسناتہ وهذا من حسناتہ (الی اخر الحدیث رواہ مسلم) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد آپ کے زعم باطل کے مطابق ضرور سچا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ شانہ کا پاک ارشاد ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزائہ جہنم خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنه واعدلہ عذاباً عظیماً۔ بلا سے غلط ہو جاتے۔

آپ نے آخر میں حدیث قدر کو بھی پیش کیا۔ بندہ اپنے قلت ہم کی وجہ سے اس استدلال کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ اسلئے کہ بندہ کو علم نہیں کہ علام الغیوب نے یزید کی تقدیر میں کیا لکھا تھا، آپ کے علم میں اگر ہے تو یقیناً حدیث سے استدلال کر لیں، اس ناکارہ نے تو قرآن پاک میں قد ما کنتم بد عامن الرسل وما ادری ما یفعل بی وذلکم بڑھا ہے اور بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد دیکھا ہے ان اناسا کانوا یرخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم وان الوحي قد انقطع وانما نأخذكم الان بما ظهر لنا من  
اعمالكم فمن اظهر لنا خيراً اماناً وقرباناً وليس اليما من سريرته  
شيئاً الله محاسبه في سريرته - ومن اظهر لنا سوءاً لم نأمنه  
ولم نصدقه وان قال ان سريرته حسنة بل اسلئے ہم لوگ تو ظاہر حال ہی  
کے موافق حکم لگا سکتے ہیں باطن احوال یا مقدرات کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے،  
اسلئے جن کا ظاہر فسق و فجور میں مبتلا ہو اسکو عشرہ مبشرہ کی لائن میں شمار کرنا  
مشکل ہی ہے۔

یہ سب تو آپ کے استفسارات کے متعلق ہے، خود یہ ناکارہ اس مسئلہ میں  
حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سترہ کا مشع ہے۔ ایک طویل سوال کے ذیل میں حضرت  
قدس سترہ کا جواب یہ نقل کیا گیا ہے۔

”اس قدر طویل سوال میں بے فائدہ کی ہے، حدیث صحیح ہے کہ جب  
کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے اگر وہ شخص قابل لعن کا ہے تو لعنت اسپر  
پڑتی ہے، ورنہ لعنت کرنے والے پر رجوع کرتی ہے۔ پس جب تک  
کسی کا کفر پر مرنامحقق نہ ہو جائے اسپر لعنت کرنا نہیں چاہیے کہ اپنے  
اد پر عود لعنت کا اندیشہ ہے، لہذا بیزید کے وہ افعال ناشائستہ ہر چند  
موجب لعن کے ہیں مگر جن کو محقق اخبار سے اور قرآن سے معلوم ہو گیا  
کہ وہ ان مفاسد سے راضی و خوش تھا اور ان کو مستحسن اور جائز جانتا  
تھا اور بدون توبہ کے مر گیا تو وہ لعن کے جواز کے قائل ہیں اور مسئلہ  
یونہی ہے اور جو علماء اسمیں تردد رکھتے ہیں کہ اول میں وہ مومن تھا

اسکے بعد ان افعال کا وہ مسئلہ تھا یا نہ تھا اور ثابت ہو یا نہ ہوا، تحقیق نہیں ہوا۔ پس بدوں تحقیق اس امر کے لعن جائز نہیں، لہذا وہ فریق علماء کا بوجہ حدیث منع لعن مسلم کے لعنت سے منع کرتا ہے اور یہ مسئلہ بھی حق ہے۔ پس جواز لعن و عدم جواز کا مدار تاریخ پر ہے۔ اور ہم مقلدین کو احتیاط سکوت میں ہے، کیونکہ اگر لعن جائز ہے تو لعن نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، لعن نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت نہ مستحب محض مباح ہے اور جو وہ عمل نہیں ہے تو خود مبتلا ہونا مصیبت کا اچھا نہیں، فقط واللہ اعلم رشید احمد لکھنؤ

پس یہی اس ناکارہ کا مسلک ہے۔ رہی یہ بات کہ اسکے فتن و فحور کی روایات سب کیسے غلط ہیں (یہ دعویٰ) مشکل ہے جب کہ تاریخی روایات اتنی کثرت سے ہیں کہ ان کو رد کرنا جو مجید تو از تقریباً پنج گئی ہوں تاریخ سے کلیتہً اعتماد اٹھاتا ہے، اور اگر یہ سب روایات اپنی کثرت کے باوجود رد کی جاسکتی ہیں تو پھر یہی کونسا نص قطعی ہے کہ یزید اس لشکر میں شریک تھا، یہ بھی تاریخ ہی کی روایات ہیں، مخالف کو حق ہے کہ وہ اس کی ہی تغلیط کر دے کہ یزید اس لشکر میں شریک تھا۔

آخر میں اس ناکارہ کی یہ بھی درخواست ہے کہ مسلمانوں کو اس اہم موقع پر دین کے اہم کاموں میں مشغول ہونا چاہیے۔ یہ بے فائدہ بحث ہے جس کا اس وقت عمل سے کوئی تعلق نہیں، ہم لوگوں کے ذمہ اس مقدمہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ عوام کی عقول ان دلائل کی باریکیوں تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ دلائل ہر فریق کے پاس انہوں سے بکثرت ہیں۔ ایسی حالت میں ایسی فضول بحثوں سے عوام میں انتشار پھیلانا اس

ناکارہ کے نزدیک ہرگز مناسب نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مشہور مقولہ جس کو انہوں نے مشاجرات صحابہ کے متعلق سوال پر فرمایا تھا۔ تلك دماء طهر الله ايدينا فلانوث الاستنا بها۔ آب زر سے لکھنے اور اسوہ بنانے کے قابل ہے اس کو یہ ناکارہ اپنے رسالہ الاعتدال میں تفصیل سے لکھ چکا ہے جی چاہے تو ملاحظہ کر لیں۔

لہذا یزید نے جو کچھ کیا وہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت میں داخل ہے۔  
 کہاں تک روئے گا اور جینے والے مرنے والے کو  
 کچھ اپنی فکر کر تجھ کو پرانے غم سے کیا مطلب  
 اس وقت مسلمانان عالم الحاد و دہریت میں اور اس سے بڑھ کر بھارتی مسلمان  
 ارتداد کے دروازہ پر ہیں مساعی جمیلہ کو ان کے نچینے مسلمان بنانے میں صرف کریں  
 جس میں نہ کسی کا اختلاف نہ کوئی آخرت کی جو اب دہی کا خطرہ و فتنی اللہ وایاکم  
 لہا یحب ویرحمی ۔

زکریا، مظاہر علوم (سہارنپور)  
 ۱۱، سوال نمبر ۱۳۵

## کتاب "خلافت معاویہ و یزید" پر ایک طائرانہ نظر

مولانا عزیز احمد صاحب بی۔ اے قاسمی ناظم شعبہ دستار بندی دارالعلوم دیوبند

ناظر ہیں !

کتاب "خلافت معاویہ و یزید" کے مصنف جناب محمود احمد عباسی نے حوالجات میں بیجا تصرف اور تلبیس کر کے صحافتی دیانت کو مجروح فرمایا ہے، کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے پہلے ایک نظریہ قائم کر لیا کہ نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خسرو فرج کیا اور یزید نہایت مستحق اور پرہیزگار تھا۔ پھر اس نظریہ کے ماتحت کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور کتابوں میں جہاں کہیں یزید کی تعریف میں کوئی جملہ نظر آیا اُسے لے لیا، اور اسی عبارت میں جو جملے یزید یا عمر بن سعد کے نقائص میں تھے اُن کو حذف کر دیا۔ حالانکہ ایک تحقیقی مضمون میں جو پرہیزگاروں کی ریسرچ کا نتیجہ ہو، یہی ہونا چاہیے کہ مناقب و معایب دونوں چیزوں کو اُجاگر کر کے پیش کیا جائے، نہ یہ کہ مناقب اُچھالے جائیں یا بغیر نقل کے ان کی غلط توجیہ کی جائے اور معایب پر پردے ڈالے جائیں، ذیل کے مضمون میں جناب محمود احمد صاحب عباسی نے جہاں جہاں دیدہ و دانستہ حوالجات اور ان کے تراجم میں تصرف کیا ہے ان میں سے چند بطور نمونہ پیش کئے جا رہے ہیں۔ اس سے موصوف کی ریسرچ کا اندازہ ہو جائے گا۔

① منجملہ ان کے شیخ عبدالمغیث بن زہیر الحرّبی تھے، جن کے متعلق علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں "کان من صلحاء الحنابلة وکان یزار" (البدایة والنہایة ج ۱۲ ص ۳۲۸) یعنی وہ حبلی صالحین میں سے اور مرجع عوام تھے، انھوں نے امیر یزید کے حسن سیرت اور اوصاف پر مستقل تصنیف کی، "ولہ مصنف فی فضل یزید بن معاویة اتی فیہ بالغرائب والعجائب" (البدایة والنہایة ج ۱۲ ص ۳۲۸)

ترجمہ: اور ان (شیخ عبدالمغیث) کی تصنیف سے فضل یزید بن معاویہ پر ایک کتاب ہے جس میں بہت سے غریب و عجیب حالات بیان کئے ہیں۔

واوین کے درمیان جو عبارت ہے وہ کتاب "خلافت معاویہ و یزید" کے صفحہ ۵۵، ۵۶ کی کج اب اصل کتاب کی عبارت ملاحظہ ہو، الشیخ عبدالمغیث بن زہیر الحرّبی کان من



صلحاء الخنا بله وكان يزار وله مصنف في فضل يزيد بن معاوية اتفق فيه بالغرائب  
والعجائب وقد رده عليه ابو الفرج ابن الجوزي فاجاد واصلا۔ (البدایة والنہایة ج ۱۲ ص ۳۲۸)  
توجہ: شیخ عبد المغیث بن زبیر الحربی صلحاء حنابلہ میں سے تھے لوگ ان کی زیارت  
کو آتے تھے، اور ان (شیخ عبد المغیث) کی یزید بن معاویہ کی خوبیوں کے بارے میں ایک  
تصنیف ہے جس میں انھوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ اس تصنیف کا  
رد علامہ ابو الفرج ابن الجوزی نے کیا ہے۔ پس انھوں نے اچھا اور صحیح رد کیا۔

ابو الفرج ابن الجوزی کی کتاب کا نام ہے۔ ”الرد علی المتنصب العنبد المانع عن ذم یزیداً  
اولاً توجنا ب محمود احمد عباسی کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے کہ اتی فیہ بالغرائب والعجائب کا  
ترجمہ موصوف نے یہ کیا ہے کہ ”بہت سے عجیب و غریب حالات بیان کئے ہیں“ جس سے  
ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ یزید کے حالات ایسے عمدہ تھے کہ ان کو سن کر تعجب ہوتا ہے  
حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ ایسے مواقع پر ”غرائب عجائب“ کا استعمال اچھے معنی میں نہیں  
ہوتا ہے، بلکہ غیر مستند ہونے کے معنی میں ہوتا ہے، چنانچہ اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ  
علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد المغیث نے جو کتاب یزید بن معاویہ کی فضیلت  
میں لکھی ہے اس میں غیر مستند باتیں لکھی ہیں۔ اب غور کیجئے کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اس  
کتاب کی مدح کر رہے ہیں یا اس کا ضعیف ہونا ثابت کر رہے ہیں۔

دوسرے فاضل مصنف نے اتی فیہ بالغرائب والعجائب کے فوراً بعد جو عبارت تھی  
اسے دانستہ چھوڑ دیا۔ حالانکہ وہ عبارت اسی کتاب کے بارے میں تھی جو شیخ عبد المغیث  
نے یزید کی فضیلت کے بارے میں لکھی تھی اور اس عبارت میں شیخ عبد المغیث کی کتاب  
کے بارے میں خود علامہ ابن کثیر کی رائے ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ جو عبارت مجمل درج کی  
گئی ہے اس میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”ابو الفرج ابن الجوزی نے شیخ عبد المغیث  
کی اس کتاب کا رد لکھا ہے جو یزید کی فضیلت میں تھی۔“ اس کے بعد علامہ ابن کثیر  
ابو الفرج ابن الجوزی کی کتاب کے بارے میں اپنی رائے لکھتے ہیں کہ انھوں نے بہت  
عمدہ اور بہت صحیح رد کیا ہے، اب غور کیجئے کہ بات کہاں سے کہاں جا پہنچی، اس سے  
یزید کی منقذ ظاہر ہوتی ہے یا تنقیص؟

جناب محمود احمد عباسی نے علامہ ابن کثیر کی عبارتوں کو توڑ مروڑ کر ان پر کیسا

بتان باندھا ہے۔ حافظ حدیث محدث ابن الجوزی اپنی کتاب مذکور میں فرماتے ہیں: وقد اجاز العلماء الودعون لعنه (حاشیہ نبراس ص ۵۵۳)

ترجمہ: اور پرہیزگار علماء نے اس (یزید) پر لعنت کو جائز قرار دیا ہے، شیخ عبد المغیث اور علامہ ابن الجوزی دونوں حنبلی ہیں۔

۲) ایک دوسری عبارت ”خلافت معاویہ ویزید“ کی ملاحظہ ہو، خلیفہ ناصح نے امیر یزید کے بارے میں شیخ سے جو سوال کیا اور جو جواب انھوں نے دیا، علامہ موصوف کے الفاظ میں سنئے:

فسأله الخليفة ايلعن ام لا؟ فقال لا اسوغ لعنه لاني لوفتحت هذا الباب لافضي الناس الى لعن خليفتنا فقال الخليفة ولع؟ قال لانه يفعل اشياء منكسة كثيرة منها كذا وكذا ثم سأل يعدد على الخليفة افعاله الصبيحة مما يقع منه المنكر، (البدایة والنهاية ج ۱۲ ص ۳۲۸)

ترجمہ: خلیفہ نے (شیخ عبد المغیث سے) سوال کیا کہ یزید پر لعن کیا جائے یا نہیں؟ انھوں نے جواب دیا کہ لعن کرنا ہرگز جائز نہیں، اور لعن کا دروازہ کھول دیا جائے تو لوگ ہمارے موجودہ خلیفہ پر لعن کرنے لگ جائیں گے۔ خلیفہ نے پوچھا وہ کیوں؟ شیخ نے کہا کہ وہ بہت سے منکرات پر عمل پیرا ہوئے ہیں جن میں سے یہ اور یہ امور ہیں، انھوں نے خلیفہ کے بڑے افعال گناہ شروع کئے جو جو منکرات سرزد ہوئے تھے (خلافت معاویہ ویزید ص ۵۶) مذکورہ بالا ترجمہ جناب محمود احمد عباسی نے کیا ہے۔ اب علامہ ابن کثیر کی عربی عبارت کا صحیح ترجمہ دیکھئے۔ ”خلیفہ نے (شیخ عبد المغیث سے) سوال کیا کہ یزید پر لعن کیا جائے یا نہیں؟ انھوں نے جواب دیا کہ میں اس (یزید) پر لعن کرنے کی اجازت نہیں دوں گا کیونکہ اگر میں (اجازت دے دوں اور) یہ (لعنت کا) دروازہ کھول دوں تو لوگ ہمارے خلیفہ پر لعنت کرنے لگیں گے۔ خلیفہ نے پوچھا وہ کیوں؟ شیخ نے کہا اس لئے کہ وہ (خلیفہ) بہت سے منکرات پر عمل کرتا ہے مثلاً یہ اور یہ امور۔ پھر شیخ نے خلیفہ کے سامنے ان منکرات کو گناہ شروع کر دیا جو خلیفہ سے سرزد ہوئے تھے۔“

جناب محمود احمد صاحب عباسی کے ترجمے کا اور اس ترجمہ کا مقابلہ کیجئے تو حسب ذیل باتیں ملیں گی۔

لا اسوغ لعنة کا ترجمہ محمود احمد عباسی نے یہ کیا ہے کہ ”لعن کرنا ہرگز جائز نہیں“ حالانکہ ایک معمولی درجہ کا عربی داں بھی جانتا ہے کہ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے۔ اصل ترجمہ یہ ہے کہ ”میں اس پر لعن کرنے کی اجازت نہیں دوں گا“ اور اس اجازت نہ دینے کی وجہ شیخ نے یہ بیان فرمائی کہ ”اگر میں یزید پر لعنت کا دروازہ کھول دوں تو لوگ ہمارے خلیفہ (ناصر) پر لعنت کرنے لگیں گے اور اس سے بغاوت کا چشمہ پھوٹ پڑے گا“۔ پھر خلیفہ نے سوال کیا کہ وہ کیوں؟ تو شیخ نے فرمایا ”اس لئے کہ خلیفہ فلاں فلاں منکرات پر عمل کرتا ہے۔“ اس کے صاف معنی یہ ہوئے کہ یزید جن منکرات پر عمل کرتا تھا خلیفہ ناصر بھی ان ہی منکرات پر عمل کرتا ہے اس لئے اگر ان منکرات کی وجہ سے جن پر یزید عمل کرتا تھا میں یزید پر لعنت کرنے کی اجازت دیدوں تو لوگ خلیفہ ناصر پر بھی لعنت کرنے لگیں گے۔ اب یہ امر غور طلب ہے کہ آیا اس سے اس کی تعریف نکلتی ہے یا اس کی تنقیص؟ اس سے تو زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید پر لعنت نہ کرنی چاہئے، مگر اس سے یہ بات کیسے ثابت ہوئی کہ یزید منکرات پر عمل نہ کرتا تھا یا مستحق لعنت نہیں تھا اور بہت پاکباز تھا، بلکہ اس کے خلاف یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ منکرات پر یقیناً عمل کرتا تھا، اس لئے جن امور کی وجہ سے خلیفہ ناصر یزید کو اپنے ذہن میں مستحق لعنت سمجھتے تھے (جیسا کہ ان کے سوال کرنے سے معلوم ہوتا ہے) وہ خود خلیفہ ناصر میں موجود تھے اسی بنا پر شیخ عبدالمغیث رحمہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔

(۳) جناب محمود احمد عباسی نے کتاب ”خلافتِ معاویہ یزید“ میں یزید کو ثقہ راوی ثابت کرنے کے لئے حسب ذیل حوالہ نقل فرمایا ہے۔

تہذیب التہذیب میں امام ابن حجر عسقلانی نے امیر موصوف کا ذکر رواۃ حدیث میں کرتے ہوئے محدث یحییٰ بن عبد الملک بن عقبہ الکوئی المتوفی سنہ ۱۸۸ھ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ امیر یزید کو بحکم النقطۃ یعنی ثقہ راوی حدیث میں شمار کرتے تھے، مراسیل ابوداؤد میں ان کی مرویات ہیں (خلافت معاویہ و یزید ص ۲۵)

تہذیب التہذیب کا یہ حوالہ نقل کر کے محمود احمد عباسی نے یزید کو ثقہ راوی ثابت کرنے کی جو سعی کی ہے اس میں لوگوں کو بہت زبردست دھوکہ دیا ہے۔ ذیل میں تہذیب التہذیب کی بلوری عبارت نقل کی جاتی ہے جس میں سے یہ ٹکڑا لیا گیا ہے۔

(یزید) بن معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس  
ابو خالد ولد فی خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعہد لہ ابوہ بالخلافتہ فیویع  
سنۃ ستین وای البیعتہ عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ولا ذمکۃ والحسین  
ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ونهض الی الکوفۃ وارسل ابن عمہ مسام بن عقیل بن  
ابی طالب لیبایع لہ ہا فقتلہ عبید اللہ بن زیاد وارسل الجیوش الی الحسین  
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقتلہ کما تقدم فی ترجمتہ سنۃ احدى وستین ثم خرج اهلک للملئیۃ  
علی یزید وخلعوه فی سنۃ ثلاث وستین فارسل لہم مسلم بن عقبۃ المری وامرہ  
ان یستیح المدینۃ ثلاثۃ ایام وان یبایعہم علی انہم خول وعبید لیزید فاذا  
فرغ منها نهض الی مکۃ لحرب ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ففعل ہما مسلم  
الافاعیل القبیجۃ وقتل ہا خلقا من الصحابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وابنائہم وخیل  
التابعین رحمہم اللہ تعالیٰ واوحشل لقصیۃ الی الغایۃ، ثم توجه الی مکۃ فاخذہ  
اللہ تعالیٰ قبل وصولہ واستخلف علی الجیش حصین بن نمیر السکونی فحاصروا  
ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ونصبوا علی الکعبۃ المنجنيق فادی ذلک الی  
وہی اركانها ووهی بناہا ثم احرقت وفي اثناء افعالہم القبیجۃ فجأہم الخبر بھلاك  
یزید بن معاویۃ فرجعوا وكفى اللہ المؤمنین القتال، وكان ہلاكہ فی نصف  
ربیع الاول سنۃ اربع وستین ولم یكمل الاربعین واخبارہ مستوفیۃ فی تاریخ دمشق  
لابن عساکر فلیست لہ روایۃ تعطل وقال یحییٰ بن عبد الملک بن ابی غنیۃ احد  
الثقات حدثننا نوفل بن ابی عقرب ثقۃ قال كنت عند عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ  
تعالیٰ فلذاکر رجل یزید بن معاویۃ فقال قال امیر المؤمنین یزید فقال عمر  
رحمہ اللہ تعالیٰ تقول امیر المؤمنین یزید وامرہ فضرب عشرین سوطا ذکرہ  
للتمیز بینہ وبين النخعی۔ ثم وجدت لہ روایۃ فی راسیل ابی داؤد وقد بہت  
علیہا فی الاستدراك علی الاطراف لھذیب التھذیب للحافظ ابن حجر عسقلانی  
۶۹۹ صفحہ ۳۶۰ و ۳۶۱ ج ۱۱) یہ پوری عبارت یزید کے بیان میں ہے کوئی لفظ کم و  
بیش نہیں ہے۔

ترجمہ : یزید بن معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس

یزید کی کنیت ابو خالد ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انھیں خلافت کا ولیعہد بنایا، سنہ ۶۰ھ میں یزید کی بیعت کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بیعت سے انکار کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ میں پناہ گزیں ہو گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فہ کے لئے چل کھڑے ہوئے اور اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل بن ابی طالب کو پہلے ہی روانہ کر دیا تاکہ کو فہ میں لوگوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بیعت لیں، ان کو عبید اللہ بن زیاد نے قتل کر دیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے فوجیں روانہ کیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنہ ۶۱ھ میں شہید کر دیئے گئے جیسا کہ ان کے حالات میں ذکر کیا جا چکا ہے پھر سنہ ۶۱ھ میں اہل مدینہ نے یزید پر خروج کیا اور اس کی بیعت کو توڑ دیا تو یزید نے مسلم بن عقبہ المرئی کی سرکردگی میں اہل مدینہ پر فوج کشی کرائی اور حکم دیا کہ تین دن تک مدینہ کو لشکر کی لوگ (ہر طرح) مباح سمجھیں اور حکم دیا کہ اہل مدینہ سے یزید کے واسطے خادم اور غلام بننے کے لئے بیعت لے، اور جب اس سے فایز ہو جائے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جنگ کرنے کے لئے مکہ مکرمہ روانہ ہو، چنانچہ حسب حکم مسلم بن عقبہ المرئی نے مدینہ میں افعال قبیحہ کئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کی اولاد اور خیار تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی جماعت کو تہ تیغ کر ڈالا اور اس واقعہ کو انتہائی بُرائی تک پہنچایا (چنانچہ مسند دارمی میں ہے کہ قتل و غارت گری اور عصمت درمی وغیرہ سب کچھ مدینہ منورہ میں ہوا۔ تین روز تک مسجد نبوی میں نماز تک نہ ہوئی۔ تنہا سعید بن مسیب مسجد نبوی میں دیوانہ بن کر پڑے رہے۔ ان ایام میں مزار مبارک سے اذان و تکبیر کی آواز آتی تھی، اسی آواز پر وہ تنہا نماز ادا کیا کرتے تھے ورنہ مسجد نبوی میں نہ کوئی اذان دینے والا تھا اور نہ کوئی دو سر نماز پڑھنے والا) پھر مکہ کی طرف روانہ ہوا مگر مکہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آکر ہلاک ہو گیا اور حصین بن نمیر سکونی کو قائم مقام بنا گیا، اس لشکر نے مکہ میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ پر (پتھر برسائے کے لئے) منجنیق (بڑے قسم کے گوپے جن سے پتھر پھینکے جاتے ہیں) نصب کر دی اور خوب پتھر برسائے جس کی وجہ سے بیت اللہ کے ستون اور عمارت کمزور ہو گئی، پھر

(خانہ کعبہ) جلاد یا گیا۔ انہی کرتوتوں کے دوران میں اچانک یزید بن معاویہ کے ہلاک ہو جانے کی اطلاع پہنچی (خبر سنتے ہی) لشکر واپس ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مؤمنین کو قتال سے بچالیا اور یزید کی ہلاکت سنہ ۶۴ ہجری میں ماہ ربیع الاول کے نصف میں ہوئی، وہ عمر کے چالیس سال بھی پورے نہ کر سکا۔ ابن عساکر کی تاریخ دمشق میں اس کے پورے واقعات مذکور ہیں، یزید کی کوئی روایت حدیث قابل اعتماد نہیں ہے۔ یحییٰ بن عبد الملک بن ابی غنیمہ نے جو ثقہ راویوں میں سے ایک ہیں بیان کیا کہ ہم سے نوفل بن ابی عقرب نے بیان کیا جو ثقہ ہیں کہ میں امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر تھا، ایک شخص نے یزید بن معاویہ کا ذکر کیا اور کہا کہ ”امیر المؤمنین یزید نے یہ کہا“ خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”تو یزید کو امیر المؤمنین کہتا ہے؟ اور اس شخص کے لئے سبیل کوڑے مارنے کا حکم فرمایا، چنانچہ اس کے مبین کوڑے مارے گئے۔ (حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) میں نے اس (یزید) کا ذکر یزید بن معاویہ النخعی سے امتیاز پیدا کرنے کے لئے یہاں کیا ہے (ورنہ یہ صحاح ستہ کے راویوں میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کتاب میں ذکر کئے جانے کے قابل نہیں ہے) مراسیل ابی داؤد میں صرف ایک مرسل روایت یزید کی ملی ہے اور میں نے اطراف پر اس تراک میں اس مرسل روایت پر تنبیہ کی ہے۔

اس عبارت کا مقابلہ اس عبارت سے کیجئے جو جناب محمود احمد صاحب عباسی نے پیش فرمائی ہے وہی کتاب ہے وہی صفحہ ہے مگر دیکھئے کس طرح قطع و برید کر کے یزید کو ثقہ راویوں میں شمار کرنے کی کوشش فرمائی ہے، دونوں عبارتوں کا مقابلہ کرنے کے بعد جناب عباسی صاحب کی حسب ذیل غلطیاں منظر عام پر آجاتی ہیں۔

(الف) تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے جس میں حافظ صاحب موصوف نے صرف ان رجال (راویوں) کا تذکرہ فرمایا ہے جو صحاح ستہ کے راوی ہیں، لیکن جہاں کہیں دو ناموں میں اشتباہ ہوتا ہے، وہاں اشتباہ دور کرنے کے لئے دوسرے آدمی کا ذکر بھی کر دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ صحاح کے راویوں میں سے نہ بھی ہو۔ چنانچہ تہذیب التہذیب میں یزید کا جو ذکر ہے وہ اس لئے نہیں ہے کہ یزید صحاح ستہ کے راویوں میں سے ہے بلکہ

خود حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبانی سنئے کہ یزید کا ذکر انھوں نے تہذیب التہذیب میں کیوں کیا؟ وہ فرماتے ہیں، ذکرہ للتمییز بینہ وبين النخعی، یعنی میں نے یزید بن معاویہ اموی کا ذکر اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں یزید بن معاویہ النخعی سے امتیاز پیدا کرنے کے لئے کیا ہے۔

اب غور فرمائیے کہ جناب محمود احمد عباسی نے حقیقت کو کس طرح چھپایا اور تہذیب التہذیب میں یزید کا نام آجانے کی وجہ سے اسے رواد حدیث میں شمار کر کے لوگوں کو فریب میں مبتلا کر دیا۔ یہاں نسیان نہیں ہے بلکہ دیدہ و دانستہ ایسا کیا گیا۔

(ب) جناب محمود احمد عباسی نے اسی حوالے میں محدث یحییٰ بن عبد الملک بن عتبۃ الکوئی کا ایک قول نقل کیا ہے اور دعویٰ یہ کیا ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ قول تہذیب التہذیب میں نقل کیا ہے۔

یہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہے یحییٰ بن عبد الملک بن عتبۃ الکوئی کا نام سے سے تہذیب التہذیب میں ہے ہی نہیں۔ البتہ یحییٰ بن عبد الملک بن ابی غنیۃ الخزاعی ابو زکریا الکوئی کا ذکر بے شک تہذیب التہذیب میں ہے۔ غدر کیا جاسکتا ہے کہ یہ کتابت و طباعت کی غلطی ہے۔

(ج) جناب عباسی صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ تہذیب التہذیب میں امام ابن حجر عسقلانی نے امیر موصوف کا ذکر رواد حدیث میں کرتے ہوئے محدث یحییٰ بن عبد الملک بن عتبۃ الکوئی متوفی سنہ ۱۸۸ھ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ امیر یزید کو احد الثقات یعنی ثقہ راویان حدیث میں شمار کرتے تھے۔

یہ حافظ ابن حجر عسقلانی اور محدث یحییٰ بن عبد الملک بن ابی غنیۃ رحمہما اللہ تعالیٰ دونوں پر خالص افتراء ہے کہ انھوں نے یزید کو ثقہ کہا ہے۔ بلکہ جو صحیح ترجمہ پیش کیا گیا ہے اس میں ملاحظہ فرمائیے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن عبد الملک بن ابی غنیۃ کی سند سے ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے خود یحییٰ بن عبد الملک کو احد الثقات (ثقہ راویوں میں سے ایک) کہا ہے اور ان کے شیخ نوفل بن ابی عقرب کو بھی ثقہ کہا ہے تاکہ سند کی صحت میں شبہ نہ رہے اور ان کی





کمزور ہو گئیں اور پھر خانہ کعبہ جلا دیا گیا۔ ان امور کے علاوہ کوئی نلفظ بھی یزید کی منقبت میں ذکر نہیں کیا "تہذیب" کی عبارت کو اہل علم پھر غور سے پڑھیں، نیز حافظ ذہبی نے یزید کے بارے میں جو تحریر فرمایا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیے، (یزید بن معاویہ) ابن ابی سفیان الاموی راوی عن ابیہ وعند ابنہ خالد وعبد الملک بن مروان۔ مقدوم فی عدالتہ لیس باہل ان یروی عنہ وقال احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ لا ینبغی ان یروی عنہ (میزان الاعتدال ص ۲۴۳ ج ۳)

ترجمہ: یزید بن معاویہ بن ابی سفیان الاموی نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔ اور خود اس سے اس کے بیٹے خالد اور عبد الملک بن مروان نے روایت کی ہے، اور اس کا عادل ہونا مجروح ہے یہ اس کا اہل نہیں کہ اس سے روایت کی جائے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے روایت کرنا جائز نہیں ہے۔

(۴) عباسی صاحب یزید کی فضیلت بیان کرتے ہوئے "البدایۃ والنہایۃ" کی عبارت حسب ذیل پیش فرماتے ہیں:

وکان (ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فی حبشۃ یزید بن معاویۃ والیہ اوصی وهو الذی صلی علیہ (البدایۃ والنہایۃ ص ۵۸ ج ۸)

ترجمہ: ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید بن معاویہ کے لشکر میں شامل تھے انہوں نے اسی (یزید) کو وصیت کی اور اسی (یزید) نے ان کے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ (خلافت معاویہ و یزید ص ۲۷)

اور پھر تحریر فرماتے ہیں "ظاہر ہے کہ تمام مسلمانوں نے جو امیر یزید کے لشکر میں شامل تھے بشمول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ کی نماز میں باامت امیر یزید شرکت کی۔

(خلافت معاویہ و یزید ص ۲۷)

"البدایۃ والنہایۃ" کی مذکورہ بالا عبارت ہی کے آخر میں حسب ذیل عبارت بھی ہے جسے عباسی صاحب نے دیدہ و دانستہ ترک کر دیا تاکہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں۔

قال احمد حدثنا اسحق بن عیسیٰ قال حدثنی محمد بن قیس قاضی عمر بن عبد العزیز عن ابی حمزۃ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه قال حسین حضرتہ الوفاتہ قد کنت کتبت عنکم شیئاً سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعتہ

يقول لولا انكم تذايبون لخلق الله قومًا يذنبون فيغفر لهم، وعندى ان هذلنا  
الحدیث والذی قبلہ حملے یزید بن معاویہ علی طرفے من الارجاء ودرکے بسببہ  
افعال کثیرة انکرت علیہ کما سند کسح فی ترجمتہ واللہ اعلم (البدایة والنہایة ص ۵۹ ج ۸)  
ترجمہ: حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سند سے حضرت ابو ایوب  
انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں (ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ  
عنہ) نے اپنی وفات کے وقت فرمایا کہ میں تم سے ایک حدیث چھپائے ہوئے تھا جو میں  
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے  
سنا کہ اگر تم لوگ گناہ والے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ضرور ایک ایسی قوم پیدا کرتا جو گناہ والی  
ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں بخشتا اور (حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) میرے نزدیک  
اس حدیث نے اور اس سے قبل والی حدیث (من مات لا یشراک باللہ شیئاً جعلہ اللہ  
فی الجنة، بسند امام احمد) نے ہی یزید بن معاویہ کو جری کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے اس  
(یزید) نے بہت سے افعال قبیحہ کا ارتکاب کیا جیسا کہ عنقریب ہم اس کے ترجمہ میں  
ذکر کریں گے۔

آپ بتائیے کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس پوری عبارت سے یزید کی فضیلت  
ظاہر ہوتی ہے یا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے قبیح افعال کا ارتکاب کیا، یزید نے جو جنازہ  
کی نماز پڑھائی وہ بحیثیت امیر شکر ہونے کے پڑھائی جو قانون اسلامی ہے، اس صورت  
میں فاضل و مفضول کا سوال پیدا نہیں ہوتا، چنانچہ اس کے نظائر تاریخ اسلامی میں موجود ہیں  
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتہ میں اپنے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر شکر  
مقرر فرمایا تھا اور ان کی ماتحتی میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ  
تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لشکر کا سردار  
بنا کر روانگی کا حکم فرمایا تھا اور ان کی ماتحتی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ موجود تھے  
(۵) عباسی صاحب موصوف نے یزید کے محاسن ثابت کرنے کے لئے ”البدایة والنہایة“  
کی حسب ذیل عبارت بھی پیش فرمائی ہے: وقد کان یزید فیہ خصال محمودة من الکرامة  
والحلم والفصاحة والشعر الشجاعة وحسن الرأی فی الملک وکان ذاجال حسن المعاشرة،  
(البدایة والنہایة ص ۲۳۰ ج ۸)

ترجمہ: اور زید کی ذات میں قابل ستائش صفات، حلم و کرم و فصاحت و شعر گوئی و شجاعت و بہادری کی تھیں، نیز معاملاتِ حکومت میں عمدہ رائے رکھتے تھے اور معاشرت کی خوبی و عمدگی بھی ان میں تھی (خلافتِ معاویہ و زید ص ۴۹)

مگر اس عبارت کے فوراً بعد ہی حسب ذیل عبارت تھی جسے عباسی صاحب نے لیرج کا پورا حق ادا کرنے کے لئے چھوڑ دیا، وکان فیہ ایضا اقبال علی الشہوانے و ترک بعض الصلوات فی بعض الاوقات و اما تہا فی غالب الاوقات (البدایۃ والنہایۃ ص ۲۳ ج ۸)

ترجمہ: اور نیز اس (زید) میں شہواتِ نفسانیہ میں انہماک اور بعض اوقات بعض نمازوں کا ترک کرنا پایا جاتا ہے، اور نمازوں کو بے وقت پڑھنا تو اکثر اوقات رہتا تھا۔

غور کیجئے کہ عباسی صاحب نے عبارت میں قطع و برید کر کے کس طرح دھوکہ دیا ہے، البدایۃ والنہایۃ کی اس عبارت کے موجود ہوتے ہوئے ان اوصاف جنہیں عباسی صاحب نے ذکر کیا ہے۔ مثلاً حلم و کرم، فصاحت و شعر گوئی، شجاعت و بہادری وغیرہ سے زید کے متقی پرہیزگار و ثقہ ہونے پر کیسے روشنی پڑ سکتی ہے؟ جس کے لئے عباسی صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور روزِ روشن میں لوگوں کی آنکھوں میں خاک جھونک دی اور ڈھنڈورایہ پٹیا جاتا ہے کہ حقیقت پر جو پردے پڑے ہوئے تھے انہیں اس لیرج نے چاک کر دیا۔

⑥ جناب عباسی صاحب نے عمر بن سعد کے بارے میں تہذیب التہذیب کی حسبِ نبل عبارت نقل کر کے یہ ثابت کرنے کی سعی کی ہے کہ عمر بن سعد کا کردار ویسا ہی بدیخ ثابت ہو چکا ہے جیسا ان جیسے ثقہ و بلند پایہ تابعی کے حالات سے توقع کی جاسکتی ہے، (خلافتِ معاویہ و زید ص ۲۱۴)

عمر بن سعد بن ابی وقاص الزہری ابو حفص المدنی من کلوفہ روی عن ابیہ و ابی سعید الخدری و عن ابنہ ابراہیم و ابن ابی بکر بن حفص و ابو اسحق السبیعی و العیزار بن حریت و زید بن ابی مریم وقتادۃ الزہری و زید بن ابی حمید و غیر ہم وقال العجلی کان یروی عن ابیہ احادیث و روی عنہ الناس و ہوتا العجلی ثقہ (تہذیب التہذیب ص ۴۵۰ ج ۷)

ترجمہ: عمر بن سعد بن ابی وقاص الزہری ابو حفص المدنی کوفہ میں ہے، انہوں نے اپنے والد سے اور ابو سعید خدری سے حدیث کی روایت کی ہے اور ان سے ان کے فرزند ابراہیم اور ان کے پوتے ابو بکر بن حفص اور ابو اسحق السبیعی اور عیزار بن حریت و زید بن ابی مریم وقتادہ زہری و زید بن حمید وغیرہ نے روایت کی ہے، اور محدث العجلی فرماتے ہیں کہ عمر بن سعد نے

اپنے والد سے احادیث کی روایت کی ہے اور ان سے بہت سے لوگوں نے روایت کی ہے اور خود ثقہ تابعی تھے (خلافت معاویہ و یزید ص ۲۱۴، ص ۲۱۵)

تہذیب ہی میں مذکورہ بالا عبارت کے فوراً بعد یہ عبارت ہے جسے جناب عباسی نے نہایت دیر دیری سے نظر انداز کر دیا، وهو الذی قتل الحسین، یعنی یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا، ظاہر عبارت سے صاف ثابت ہے کہ یہ قول وهو الذی قتل الحسین، محدث العجلی کا ہے جس کو عباسی صاحب نے نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ زبردست ریسرچ،

اس کے آگے کی عبارت ہے، و ذکر ابن ابی خنیثۃ بسند لہ ان ابن زیاد بعث عمر بن سعد علی جلیش لقتال الحسین و بعث شمر بن ذی الجوشن و قال لہ اذہب معہ فان قتلہ والا فاقتلہ وانٹ علی الناس و قال ابن ابی خنیثۃ عن ابن معین کیف یکون من قتل الحسین ثقہ قال عمر بن علی سمعت یحییٰ بن سعید یقول ثنا اسمعیل ثنا العیاض عن عمر بن سعد فقال لہ موسیٰ رجل من بنی ضبیعۃ یا ایا سعید اھذا قاتل الحسین فسکت فقال لہ عن قاتل الحسین تحد ثنا فسکت و روی ابن خراش عن عمرو بن علی نحو ذلک، فقال لہ رجل اما تحب ان تروى عن عمر بن سعد فبکی و قال لا اعود،

(تھذیب التھذیب ص ۷۴۵)

ترجمہ: ابن ابی خنیثہ نے اپنی سند سے بیان کیا کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک لشکر کی قیادت سپرد کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کے لئے بھیجا اور شمر بن ذی الجوشن سے کہا تم بھی ان کے ساتھ جاؤ، اگر یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کریں تو دفرما، ورنہ تم ان کو قتل کر دینا اور تم لوگوں پر امیر ہو گے، اور ابن ابی خنیثہ نے ابن معین سے روایت کی ہے کہ ابن معین نے فرمایا کہ وہ شخص کیسے ثقہ ہو سکتا ہے جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ عمرو بن علی نے کہا کہ میں نے یحییٰ بن سعید کو کہتے سنا کہ ہم سے اسمعیل نے بیان کیا، انھوں نے کہا کہ ہم سے عیاض نے عمر بن سعد سے روایت کی (اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ) ان سے بنی ضبیعہ قبیلے کے ایک شخص موسیٰ نے کہا کہ اے ابو سعید یہ تو قاتل حسین ہیں، پس وہ خاموش ہو گئے، پھر ان سے کہا کہ تم ہم سے قاتل حسین کی روایت کرتے ہو پھر بھی وہ خاموش ہی رہے، اور ابن خراش نے بھی عمرو بن علی سے اس

جیسی روایت کی ہے اور یہ بھی بیان کیا کہ اس شخص نے کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ عمر ابن سعد سے روایت کرتے ہوئے اس پر وہ رو پڑے، اور فرمایا کہ میں اب دوبارہ ان (عمر ابن سعد) سے روایت نہ کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یحییٰ بن معین اور سعید بن القطان ابن ابی خثیمہ اور قبیلہ بنی ضبیعہ کے موسیٰ وغیرہ جو ائمہ رجال حدیث ہیں عمر بن سعد کو ثقہ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے مقابلہ میں تنہا عجلی کے قول کو نقل کر دینا رسیرج کے پردہ کو چاک کر دیتا ہے۔ یحییٰ بن معین جیسے امام الجرح والتعدیل کے مقابلہ میں محدث عجلی کا قول کوئی زیادہ وزن نہیں رکھتا۔ عیزار بن حریش وہی شخص ہے جن کو "تمذیب" میں عمر بن سعد کے شاگردوں میں ذکر کیا ہے، جس کی تصریح خود عباسی صاحب نے کی ہے، ان ہی عیزار سے "تمذیب" کے اسی صفحہ میں محدث موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے سامنے روایت بیان کرتے ہو جس پر عیزار بن حریش نے معذرت کی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا اور یہی روایت بواسطہ شعب بن ابی اسحق عن العیزار کی سند سے میزان الاعتدال ص ۲۵۸ جلد ۲ میں موجود ہے۔ فقط (ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، جنوری سنہ ۱۹۶۰ء)

۳۶۸

www.ziaraat.com

مزید

اکابر علماء اہل سنت دیوبند کی نظر میں

تتبع حواشی

قاری محمد ضیاء الحق

## فہرست عنوانات

۲	عرض ناشر
۵	مقدمہ از مرتب
۷	حجۃ الاسلام حضرت نانوتویؒ کی تصریحات
۹	فقیر النفس حضرت گنگوہیؒ کی تصریحات
۱۲	حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ کی تصریحات
۲۳	مفتی اعظم ہند کے فتاویٰ
۲۸	امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری کی تصریح
۲۹	”مکتوبات شیخ الاسلام“ سے اقتباسات
۳۱	سند العلماء حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن کافوتی
۳۲	مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد تفتیح کی تصریحات
۳۶	حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب ہبتم دارالعلوم دیوبند کی تصریحات
۳۹	محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوریؒ کی تصریحات
۴۳	محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمیؒ کی تصریحات
۴۴	تمتہ - از مرتب



# عرضِ ناشر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا وَّمَسْلِمًا - اَمَا بَعْدُ

اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہلسنت والجماعت کے نظریات و عقائد کو کماحقہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔

امت مسلمہ کو غلو فی الدین اور تفریق بین المسلمین جیسے فتنوں سے بچانے کی غرض سے مکتبہ اہل سنت و جماعت کا قیام سزاوارتہ میں آیا تھا۔ اس مکتبہ کے قیام کا بنیاد مقصد صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے مقام کا تحفظ ہے۔ چنانچہ اس سے قبل اس مکتبہ سے چند کتابیں ”شہدائے کربلا پر انتراز“، ”اکابر صحابہؓ پر بہتان“ اور ”یزید کی شخصیت اہل سنت کی نظر میں“ شائع ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کتابوں کو کماحقہ پذیرائی حاصل ہوئی اور یہ کتا بہن ہاتھوں ہاتھ نکل گئیں۔ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے حضرات نے ان کتابوں سے بخوبی استفادہ کیا۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء

انہی مطبوعات میں سے ایک رسالہ ”یزید کا بر علماء اہل سنت دیوبند کی نظر میں“ بھی ہے جس میں اکابرین دیوبند کے فتاویٰ اور تصریحات یکجا کر دی گئی ہیں تاکہ علماء دیوبند کا نام لے کر یزید کی حمایت کرنے والوں پر اتمام حجت ہو جائے

اہل سنت عوام الناس بھی اس رسالے سے بخوبی اندازہ لگا سکیں گے کہ علماء دیوبند کے افکار و خیالات موجودہ دور کے نواصب کے نظریات سے کس حد تک مماثلت رکھتے ہیں۔

ہمارے اسلاف اکابر علماء دیوبند کا طرہ امتیاز ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ انہوں نے ہر مسئلے میں اعتدال اور میاندہ روی کو اختیار فرمایا ہے انہوں نے

افراط و تفریط کی راہ کبھی اختیار نہیں کی، غلو اور انتہا پسندی سے یہ حضرات کوسوں دور تھے، علم و فضل، تقویٰ و طہارت، اخلاص و للہیت میں یہ حضرات اپنی مثال آپ تھے۔

علماء دیوبند میں سے ہر ایک نے امت کی اصلاح کے لئے ایسے عظیم کارنامے انجام دیئے کہ بڑی بڑی جماعتیں اور انجمنیں بھی اس انداز پر کام نہ کر سکیں۔ انہوں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے بندوں کو نورِ ایمان میں رنگ دیا۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج ان اکابرِ دیوبند کے نام لیوا حضرات مسلکِ اعتدال سے ہٹ چکے ہیں۔ افراط و تفریط کی وجہ سے زینج و ضلال کا شکار ہیں۔ اور اگر کالج، یونیورسٹی کے اساتذہ و طلبہ کی حد تک یہ خرابی رونما ہوتی تو شاید اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا کہ علومِ دینیہ پڑھنے پڑھانے والوں کو دیکھ کر اور ان کی تحریریں پڑھ کر افسوس ہوتا ہے جو بقول حضرت نانوتویؒ "بزرگ کلمہ پڑھ رہے ہیں مسلکِ دیوبند کی مساجد میں بھی بعض ائمہ و خطباء کا یہی حال ہے فِیَآلِی اللہ المَشْتٰکِی" یہ رسالہ ہم اسی غرض سے طبع کر رہے ہیں تاکہ کم از کم دیوبندی مسلک کی فکر رکھنے والے حضرات اہل علم اور تمام سنی مسلمان خرید کے فضائل و مناقب کا علم اٹھانے کے بجائے کم از کم توقف اور میانہ روی کا راستہ ضرور اختیار کریں۔ منبر و محراب سے یزید کے مدحیہ قصیدے نہ پڑھے جائیں۔ رفض اور شیعیت کی تردید کے لئے علاج بالصدقہ کا راستہ اختیار نہ کیا جائے بلکہ اکابر علماء دیوبند اہل حق نے جو طرزِ اختیار کیا اسی انداز سے روافض کا رد کیا جائے۔ علمی و تاریخی تحقیق کی روشنی میں ہر ایک ذمہ دار شخص ذاتی حد تک یہ جان لے کہ علماء اسلام سلفاً و خلفاً یزید کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ نیز یہ کہ دورِ جدید کے نا صبیہوں نے جو یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ علماء دیوبند تاریخ دان نہیں تھے اگر وہ تاریخ کا بنظرِ غائر مطالعہ کرتے تو ضرور یزید کو اچھا کہتے۔ ان کے اس دجل اور تلبیس کی پول بھی کھل جائے اور علماء دیوبند کے ساتھ علمی نسبت اور عقیدت و محبت رکھنے والے کسی تلبیس اور دھوکہ کا شکار

نہ ہوں۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ  
 ناظرین سے ہماری بس اتنی استدعا ہے کہ جو کتاب بھی ہم شائع کریں اس کا  
 ٹھنڈے دل سے مکرر سہ کر رہنمائی مطالعہ کر کے فیصلہ کریں کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ  
 حق ہے یا نہیں، اور پھر اگر مطالعہ کے بعد آپ کا دل خود اس امر کی گواہی دے کہ یہ  
 حق کی دعوت ہے تو اس دعوت کو عام کرنے میں ہمارا ہاتھ بٹائیں، کتاب کو خود خریدیں  
 استطاعت ہو تو اس کے مزید نسخے خرید کر دوست احباب کو ہدیہ کریں۔ خاص طور پر  
 اپنی مسجد کے خلیفہ اور امام صاحب کو اس کا نسخہ پیش کریں ورنہ خود پڑھیں اور دوسروں  
 کو اس کے پڑھنے کی دعوت دیں

مکتبہ کے وسائل محدود ہونے کی بنا پر عرصہ نورا سے یہ رسالہ معرض التواہین تھا  
 حال ہی میں ہم نے اس پر توکل کرتے ہوئے اس کی طبعیت کا فیصلہ کیا۔ کاغذ و کتابت  
 اور طباعت کے مصارف بہت بڑھ گئے ہیں اس کے باوجود ہم نے کتاب کی قیمت  
 نہایت ہی مناسب رکھی ہے تاکہ ہر آدمی اس کو خرید کر پڑھ سکے۔

آخر میں اللہ رب العزت کی جناب میں عرض ہے کہ اپنی بارگاہ میں اس کے مرتب  
 ذنا شر اور ان کے والدین کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم  
 کی شفاعت نصیب ملتے آمین ثم آمین۔ وما توفیقی الا باللہ

۲۵ محرم الحرام ۱۴۱۵ھ یوم الجمعہ  
 ۱۶ جولائی ۱۹۹۳ء  
 ناچیز مظفر لطیف عفی عنہ  
 ابن محمد عبدالرحیم خاطر رحمہ اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ  
 وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیْدِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ  
 وَصَحْبِهِ وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الْمُسْتَطْفِیْنِ الصَّالِحِیْنَ اِجْمَعِیْنَ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ  
 اِمَّا بَعْدُ اِسْ دَوْرِیْنَ جِسْ طَرَحِ رَفِضِ كَافِتِ نَزْجِلِ رِبَاہِ اِسْیْ طَرَحِ اِسْ كِ  
 بِالْمَقَابِلِ نَاصِبِیْتِ بَحْمِیْ فَرُغِ پَارِہِیْ ہِیْ، اَوْرَ اَفْسُوسِ یَہِ ہِیْ كَرَفِضِ كِ مَقَابِلِیْنَ بَجَاہِیْ  
 اِسْ كِ كَرَأْنِ اَصُوْلِیْ مَبَاحِثِیْنَ كُفْتِ كُوْ كِ جَاتِیْ كَرَجْنِیْنَ اِہْلِ سُنْتِ اَوْرِ شِیْعُوْنَ كَا بِنِیَادِیْ  
 اِخْتِلَافِہِیْ، جِیْسَ اِیْمَانِ بِالْقُرْآنِ كَا مَسْئَلِہِ، عَصْمِیَّتِ اَمِّہِ كِیْ بَحْثِ، اَثْبَاتِ تَقْدِیْرِ اَوْرِ رُوْیْتِ  
 بَارِیْ كِ مَسْأَلِ اَوْرِ حَضْرَتِ خُلَفَاؤِ ثَلَاثَہِ رَضْوَانِ اللّٰہِ عَلَیْہِمُ اِجْمَعِیْنَ پَرِ مَطَاعِنِ كِ رَدِّ كِ بَجَاہِیْ  
 اَبْ جَبْ سَہِ مَحْمُودِ اِحْمَدِ عَبَّاسِیْ كِیْ كِتَابِ خِلَافَتِ مَعَادِیہِ وِیْزِیْدِ چَہُپْ كَرَأْنِیْ ہِیْ بَحْثِ اِسْ پَرِ  
 ہُوْتِیْ ہِیْ كِ یَزِیْدِ جَنَّتِیْ تَہَا یَا نَہِیْنَ، مِرْوَانَ صَحَابِیْ تَہَا یَا نَہِیْنَ، حَضْرَتِ مَعَادِیہِ حَضْرَتِ عَسْكَرِیْ  
 كِ مَقَابِلِیْ مِیْنِ حَقِّ پَرِ تَہِیْ یَا نَہِیْنَ۔ نَالَا نَكِہِ یَہِ مَسْأَلِ اِہْلِ سُنْتِ اَوْرِ شِیْعُوْنَ كِ دَرِیَانِ  
 اِہْمِ نَزَاعِیْ مَسْأَلِیْ ہِیْنَ۔

اہل سنت یزید کو کبھی اچھا نہیں کہتے، علماء حق کی تصریح کے مطابق وہ فاسق  
 تھا، اس کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ علماء اسلام میں اس کے بارے میں یہ  
 اختلاف ہے کہ آیا یزید اپنے بڑے کرتوتوں کی وجہ سے اسلام پر مرابا کفر پر، اور اس  
 پر لعنت کرنا واسعہ یا نہیں؟

اکابر علماء دیوبند کا جو معتدل اور محتاط فیصلہ یزید کے بارے میں ہے، ہم  
 ناظرین کی معلومات کے لئے اس کو منظر عام پر لانا مناسب خیال کرتے ہیں تاکہ لوگ  
 اس کے بارے میں افراط اور تفریط سے بچیں۔ اور ان نواصب پر اتمام حجت ہو جائے جو

حضرات اکابر علمائے دیوبند کا نام لے کر نہ صرف یزید کی براہت کا اظہار کرتے ہیں بلکہ اس کے خود ساختہ فضائل اور مناقب پر بھی اپنا زورِ قلم خرچ کرتے ہیں۔ اس رسالہ میں ہم نے ایسے تمام نام نہاد معتقدین اکابر علماء دیوبند کی نگلیں کا پردہ چاک کیا ہے جو اپنی عقیدت کا اظہار کر کے اکابر و اسلاف پر کھلم کھلا الزام تراشیاں کر رہے ہیں، معزز ناظرین کو اس رسالہ کے مطالعہ سے بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ اکابر دیوبند کے فتاویٰ اور ان کی تحریریں کس حد تک یزید کے ساتھ ہیں

وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

محمد ضیاء الحق

۲۵ رجب المرجب ۱۴۱۹ھ یوم الجمعہ

۳ مارچ ۱۹۹۹ء

## حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد زقلم نانوتوی رحمہ اللہ کی تصریحات

اقتباسات از مکتوبات قاسمیؒ

پس ممکن کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کو اپنی جگہ خلافت کے لائق دیکھا جیسا کہ ذکر آئے گا اور یزید کے برے افعال کی انہیں کچھ خبر نہ ہو، اور دوسروں نے اس کو خلافت کے قابل نہ پایا اور بعد ازاں اس کی حالت بدل گئی ہو اس وجہ سے انہوں نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہو۔ اھ

زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں ہے کہ ان پوشیدہ خرابیوں کے باعث کہ یزید رکھنا تھا۔ منافقوں کی طرح جو بیعت رضوان میں شریک تھے اور نفاق کی وجہ سے ان کو اللہ کی رضا نصیب نہ ہوتی اسی طرح یزید بھی اس بشارت کی فیصلیوں سے محروم رہا۔ اھ

ہاں ان کے انتقال کے بعد یزید نے پر پرز نکالنے شروع کیے اور دل کو خواہش نفس اور ہاتھ کو جام شراب پر لے گیا کھلم کھلا فتی کرنے لگا اور نماز چھوڑ دی، بعض سابقہ تمہیدوں کی بنا پر محزون کرنے کے لائق ہو گیا، اور یزید کے اس قسم کے حالات کی تندہی بیان کرتا آیا ہوں کیونکہ ممکن ہے محال نہیں

پس ممکن کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید را لائق تملافت خود، چنانکہ مذکور خواهد شد، دیدند و بر خبت افعال او مطلع نشدہ باشند و دیگران اور قابل خلافت ندیدند یا دیدند و باز حال او متبدل شد۔ ازین وجہ از بیعتش انکار کردند ص ۳۵ و ص ۳۶

غایۃ مافی الباب بسبب خرابیہائی پنهانی کہ داشت بچونانفاق کہ در بیعت رضوان شریک بودند و بوجہ نفاق رضوان اللہ نصیب اوشان نشد، یزید ہم از فضائل این بشارت محروم شد۔ ص ۳۸

ہاں پس انتقال اوشان یزید پای خود از شکم بر آورد و دل بکام و دست بجام سپرد۔ اعلانِ فتح نمود و ترکِ صلوة داد بچکم بعض مقدمات سابقہ قابلِ عزل گردید و این قسم تحول احوال گفتہ آمدہ ام کہ ممکن است محال نیست۔ ص ۳۹ و ص ۴۰

تاہم بیچ صعوبتی بر اصول اہل سنت نیست۔ چر زید مذہب میں صورت یا فاسق معلن بود، تارکِ صلوٰۃ وغیرہ یا مبتدع بود چہ از رو سائی نواصب است باین ہمہ عموم مغلغلتش غیر مسلم

تاہم اہل سنت کے اصول پر کوئی دشواری باقی نہیں رہی ہے کیونکہ زید اس صورت میں یا گھلم گھلا فاسق تھا نماز کا ترک کرنے والا وغیرہ یا بدعت کا مرتکب تھا، کیونکہ وہ نواصب کے شراروں میں سے تھا، ان سب پہلوؤں کے پیش نظر اس کی عام خلافت کا منقذ ہونا مسلم نہیں۔ ۱۵

### ” ہدیۃ الشیعہ“ سے اقتباسات

چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سید الشہداء کی جان نازنین پر جو کچھ گزرا وہ سب جانتے ہیں، باعث اس کا فقط حق گوئی تھا ورنہ زید کا کلمہ کہہ دیتے تو جان کی جان بچتی اور اسی مال و دولت اور اعزاز و اکرام ہوتا۔ ۱۴

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ زید پلید سے خلافتِ معصومہ کے طالب ہوئے یہاں تک کہ نوبت شہادت کو پہنچی۔ ۲۸

### ” اجوبۃ الربعین“ سے اقتباس

اوروں کی بیعت سے زید کی بیعت اُن کے ذمہ لازم نہ ہوتی تھی جو کوئی عقل کا پورا جس کو دھتورے کے پینے کی حاجت نہیں بوجہ بیعت اہل شام جو زید پلید کے ہاتھ پر رکھتے تھے، حضرت امام ہمام پر اعتراض کرے، یا مذہبِ اہل سنت پر آوازہ پھینکے۔

جلداول ۳

یزید کے بارے میں استاذ الاساتذہ، منبع العلوم والحکم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کی ان تصریحات سے مندرجہ ذیل امور مستفاد ہوئے۔

- ۱۔ یزید فاسق معلن یعنی کھلا فاسق تھا اور مبتدع۔
- ۲۔ اس لئے اس کی خلافت ناقابلِ تسلیم تھی، اور اس کو معزول ہو جانا چاہئے تھا۔
- ۳۔ یزید کو پلید کہنے میں کوئی قباحت نہیں۔
- ۴۔ وہ مے نوش بھی تھا اور تارکِ صلوٰۃ بھی۔
- ۵۔ یزید کے بڑے کزنوں کی اس کے والد کو اطلاع نہ ہو سکی

## قطب العالم فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد صاحب گوہی کی تصریحات فتاویٰ رشیدیہ سے اقتباسات

### یزید کو کافر کہنا

سوال : یزید کہ جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے وہ یزید آپ کی رائے شریف میں کافر ہے یا فاسق ؟

جواب : کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں، یزید تو من تھا بسبب قتل کے فاسق ہوا کفر کا حال دریافت نہیں کافر کہنا جائز نہیں کہ وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے۔ ص ۲۲۵  
(کتاب ایمان اور کفر کے مسائل)

### یزید پر لعنت کرنا

سوال : یزید کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا وہ قابل لعن ہے یا نہیں گو کہ لعن کرنے میں احتیاط کرے، بہت سے اکابر دین درباب لعن یزید تحریر فرما چکے ہیں چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ شب شہادت کو میں نے ایک آواز غیبی سنی کہ کوئی کہتا تھا۔ شعر

ایہا القاتلون جہلاً حیناً بشروا بالعداب والتذلیل  
قد لعنتم علی لسان ابن داود وموسیٰ وحامل الانجیل  
(کذا فی تحریر الشہادتین وصواعق محرقہ)

اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں تحریر فرماتے ہیں :  
قال صلی اللہ علیہ وسلم "من اخاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "جس نے

سہ ترجمہ : اے وہ لوگو جنہوں نے حسین کو جہالت سے قتل کیا، عذاب اور ذلت کی خوشخبری حاصل کرو، تم ابن داؤد کی زبان پر لعنت کئے گئے ہو اور موسیٰ اور صاحب انجیل کی زبان پر  
تحریر الشہادتین میں اسی طرح لکھا ہے



اهل المدينة أخافه الله وعليه  
لعنة الله والملائكة والناس  
أجمعين (رواه مسلم) وكات  
سبب خلع اهل المدينة  
أن يزيد أسرف في المعاصي

اہل مدینہ کو ڈرایا اللہ تعالیٰ اس کو ڈرائے گا  
اور اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں  
کی لعنت ہوگی (اس کو مسلم نے روایت کیا ہے)  
اور اہل مدینہ نے بیعت کو اس لئے توڑ دیا کہ یزید نے  
گناہوں میں بے حد زیادتی کر دی تھی

اور دوسری جگہ فرماتے ہیں :

وقتل وجیئ برأسه فی  
طست حتی وضع بین یدی  
ابن زیاد لعن الله قاتله  
وابن زیاد معه ویزید  
ایضاً

پس حسین قتل کئے گئے اور ان کا سر طست میں لایا  
گیا حتیٰ کہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اللہ تعالیٰ اس  
پر اور قاتل حسینؑ اور اس کے ساتھ یزید پر لعنت  
کرے۔

اور بعض محققین مثل امام جوزی اور سلاسل الدین تفتازانی وغیرہ جمع اللہ بحی لعن  
قاتل ہیں۔ چنانچہ مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب یانی تہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں :

وجہ قول جواز لعن آنت کہ ابن جوزی  
روایت کردہ کہ قاضی ابو یعلیٰ در کتاب  
خود "معتبر الاصول" بسند خود از  
صلح بن احمد بن حنبل روایت کردہ کہ  
گفتم پدر خود را کہ اے پدر مردم گمان  
می برند کہ ما مردم یزید را دوست  
می داریم، اہر گفت کہ اے پسر کسے کہ  
ایمان بخدا و رسول داشتہ باشد اورا  
دستی یزید چگونہ روا باشد و چو لعنت  
نکرده شود بر کسیک خدا بروے در کتاب خود

لعنت کے جواز کا قول اس بنا پر ہے کہ ابن جوزی نے  
روایت کی ہے کہ قاضی ابو یعلیٰ اپنی کتاب "معتبر الاصول"  
میں اپنی سند کے ساتھ صالح بن احمد بن حنبل سے روایت  
کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ اے باپ  
لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم یزید کے لوگوں کو دوست  
رکھتے ہیں، احمد نے فرمایا کہ اے بیٹے جو شخص کہ خدا  
و رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کی دوستی یزید کے ساتھ  
کس طرح جائز ہو سکتی ہے اور کیوں نہ لعنت  
کی جائے اس شخص پر جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب  
میں لعنت فرمائی ہو، میں نے کہا قرآن میں یزید پر

لعنت کردہ، گفتم درمتراں کجا بریزید لعنت کردہ است ،  
 لعنت کہاں ہے تو امام احمد نے فرمایا فَهَلْ  
 عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا تَكْفُرًا  
 کنارہ کش ہو تو آیات کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم دنیا میں  
 فساد مچا دو اور آپس میں قطع قربت کر دو۔  
 (سورہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پارہ ۲۶)

اور نیز مکتوبات مثلاً میں ہے :

غرض کہ کفر بریزید از روایت معتبرہ ، غرض کہ کفر بریزید پر کفر معتبر روایات سے ثابت ہوتا ہے  
 ثابت می شود پس او مستحق لعن است پس وہ مستحق لعنت ہے اگرچہ لعنت کرنے میں  
 اگرچہ در لعن گفتن فائدہ نیست لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اللہ کے لئے محبت اور  
 الحب في الله والبغض في الله مقتضى اللہ کے لئے دشمنی کا مقتضی یہی ہے ، واللہ اعلم  
 آنست۔ واللہ اعلم

ان عبارات مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حضرات کفر کے بھی قائل تھے اور بعض  
 حضرات اکابر دین لعن کو جائز نہیں فرماتے ہیں۔ اس واسطے کہ یزید کے کفر کا حال متحقق  
 نہیں، پس وہ قابل لعن نہیں، لہذا یزید کو کافر کہنا اور لعن کرنا جائز ہے یا نہیں مدلل  
 ارقام فرمائیں۔

جواب : حدیث صحیح ہے کہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے، اگر وہ شخص قابل  
 لعن کا ہے تو لعن اس پر پڑتی ہے ورنہ لعنت کرنے والے پر رجوع کرتی ہے، پس جب تک  
 کسی کا کفر پر مرنا متحقق نہ ہو جائے اس پر لعنت کرنا نہیں چاہئے کہ اپنے اوپر عود لعنت کا  
 اندیشہ ہے، لہذا یزید کے وہ افعال ناشائستہ ہر چند موجب لعن کے ہیں مگر جس کو  
 محقق اخبار اور قرآن سے معلوم ہو گیا کہ وہ ان مفاسد سے راضی و خوش تھا اور ان کو مستحسن  
 اور جائز جانتا تھا اور بدون توبہ کے مر گیا تو وہ لعن کے جواز کے قائل ہیں اور مستدل یوں ہی  
 ہے۔ اور جو علماء اس میں تردد رکھتے ہیں کہ ادل میں وہ مؤمن تھا اس کے بعد ان افعال کا  
 وہ مستحق تھا یا نہ تھا اور ثابت ہوا یا نہ ہوا، تحقیق نہیں ہوا، پس بدون تحقیق اس امر کے

لعن جائز نہیں، لہذا وہ فریق علماء کا بوجہ حدیث منع لعنِ مسلم کے لعن سے منع کرتے ہیں اور یہ مسئلہ بھی حق ہے۔ پس جوازِ لعن اور عدم جواز کا مدار تاریخ پر ہے اور ہم مقلدین کو احتیاط سکوت میں ہے کیونکہ اگر لعن جائز ہے تو لعن نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لعن نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت نہ مستحب محض مباح ہے اور وجود محل نہیں تو خود مبتلا ہونا معصیت کا اچھا نہیں فقط واللہ تعالیٰ اعلم  
(فتاویٰ رشیدیہ، کتاب ایمان اور کفر کے مسائل ص ۳۳۸ تا ۳۵۰)

### حضرت معاویہ کا یزید کو خلیفہ بنانا

**سوال :** حضرت معاویہ نے اپنے رو بہ یزید پلید کو ولی عہد کیا ہے یا نہیں ؟  
**جواب :** حضرت معاویہ نے یزید کو خلیفہ کیا تھا اس وقت یزید اچھی صلاحیت میں تھا۔ فقط واللہ اعلم۔

### حضرت معاویہ کا وعدہ حسین سے

**سوال :** جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اقرار نامہ لکھا تھا کہ تا زندگی یزید پلید کو ولی عہد نہ کروں گا پھر حضرت معاویہ اپنے قول سے کیوں پھر گئے اور یزید پلید کو کیوں ولی عہد کیا، صحابی سے اقرار توڑنا بعید معلوم ہوتا ہے۔ قار باز اور شرا بخور یزید پہلے ہی سے تھا یا ولی عہد ہی کے وقت نہ تھا مفصل صحیح کس طور پر ہے ؟  
**جواب :** حضرت معاویہ نے کوئی وعدہ عہد یزید کے خلیفہ کرنے کا نہیں کیا یہ واہیات و قاتح ہیں فقط یزید اول صالح تھا بعد خلافت کے خراب ہوا تھا۔

### کیا شمر حافظِ قرآن تھا ؟

**سوال :** وعظ میں سنا ہے کہ شمر قاتلِ امام حسین علیہ السلام بڑا حافظِ قرآن تھا بروقت قتل کرنے امام ہام کے نوں سیارہ ذرا دیر میں پڑھ لیے تھے یہ سچ ہے یا غلط ؟  
**جواب :** یہ قصہ ڈھکوسلا جہال و اعظین کا ہے (فتاویٰ رشیدیہ، مسائل مشہورہ ص ۵۵۲)

### ہدایۃ الشیعہ سے اقتباس

یزید کی امانت اجماعی نہ تھی، خواص نے رد کیا عوام کا اعتبار نہیں۔

مگر جیسا اجماع پانچ پہلوں پر ہوا تھا یزید پر کون سا اجماع اہل حق ہوا تھا وہ تو متغلب بزور ہو گیا تھا، اور اجماع عوام کچھ معتبر نہیں، اس کو اس پر قیاس کرنا کمالِ بلاوت ہے۔ اس اجماع (اہل حق) کو حضرت امیرؓ نے جہاں رکھا اس کو حضرت حسینؓ اور عبداللہ بن زبیرؓ نے رد کیا۔ کجا زمین کجا آسمان، ہوش درکار ہے۔ (بدایہ الشیعہ ص ۹۵)

اب حقیقت خلفاءِ خمسہ (حضرات ابو بکر و عمر و عثمان و علی و حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کی اور تغلبِ یزید پلید مثل آفتاب روشن ہو گیا اگر کور اہل بن نہ سمجھے تو کسی کیا قصور؟

گر نہ بیند بروز شپہ چشمِ چشمہ آفتاب را چہ گناہ  
(ہدایۃ الشیعہ ایضاً ص)

### یزید کو کافر کہنے میں احتیاط ہے

السلام علیکم۔ آپ کا یہ پرچہ آیا بعض ائمہ نے جو یزید کی نسبت کفر سے کف لسان کیا ہے وہ احتیاط ہے، کیونکہ قتل حسینؓ کو حلال جانا کفر ہے، مگر یہ امر کہ یزید قتل کو حلال جانا تھا محقق نہیں ہے لہذا کافر کہنے سے احتیاط رکھے، مگر فاسق بے شک تھا، علیؓ لہذا دیکھ کر قتلہ حسینؓ کا حال ہے۔ اور جس شخص کو تحقیق ہو گیا ہے کہ اس نے اس فعل کو کرا جان کر کیا اور توبہ نہیں کی وہ کافر نہیں کہتے احتیاطاً۔ مگر فاسق پر لعن کرنے کو جائز کہتے ہیں سو یہ مسئلہ تاریخِ دالی سے تعلق رکھتا ہے مسئلہ میں سب کو اتفاق ہے۔ فقط والسلام

رشید احمد عفی عنہ ۲۰۰۲ء حرمِ بروج  
بنام رفیع اللہ صاحب شاہجا پوری  
(فتاویٰ رشیدیہ ص ۴۹)

حضرت گنگوہیؒ کی تصریحات سے حسب ذیل امور واضح ہوئے:

(۱) یزید فاسق تھا (۲) اس کے افعال موجب لعن تھے (۳) تغلبِ یزید پلید مثل آفتاب روشن ہے (۴) یزید پہلے مومن تھا بسبب قتل حسینؓ کے فاسق ہوا کفر کا حال دریاخت نہیں (۵) اس پر جہاں لعن کی معقول وجہ ہو سکتی ہے مگر ہم مقلدین کو احتیاطاً سکوت میں ہے کیونکہ لعن نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم

لہ یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم  
لہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ

## حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی تصریحات رفع شبہہ در شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ

### امداد الفتاویٰ سے اقتباسات

امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محض تقلید اللشیعہ حضرات اہل سنت والجماعہ مانتے ہیں یا اس پر کوئی دلیل شرعی بھی ہے، میرے خیال ناقص میں تو اس پر کوئی دلیل شرعی نہیں اور محض شیعوں کی تقلید سے یہ بات مانی جاتی ہے کیونکہ صرف جان دینا شہادت نہیں بلکہ جان دینا واسطے اعلان کلمۃ اللہ کے شہادت ہے، کہا قال علیہ الصلوٰۃ والسلام من قاتل فی سبیل اللہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا۔

اور اگر بلا کے معرکے میں یہ بات کہاں پائی جاتی ہے وہاں تو صرف یہ بات تھی کہ یزید کے لشکر نے مجھ یزید یہ چاہا کہ آپ یزید کی سلطنت میں داخل ہو جائیں اور یزید کو بادشاہ وقت تسلیم کر لیں مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کو بادشاہ وقتی تسلیم نہیں کیا اور صاف انکار کر کے یہ فرمایا کہ ما عندی لہذا جواب، پس ایسی صورت میں یزید کے لشکر اگر سیاست سے کام نہیں لیتے تو کیا کرتے کیونکہ اسلام میں بھی تو سیاسی احکام موجود ہیں اور سیاست کا اقتدار تو یہی ہے کہ جو کوئی بادشاہ وقتی کی سلطنت سے انکار کرے اور بادشاہ کا مد مقابل بننا چاہے تو افس کو مار ڈالو چنانچہ صحاح ستہ میں تقریباً انہی الفاظ کی حدیث موجود ہے یعنی جبکہ امر سلطنت کسی ایک پر مجتمع ہو اور سلطنت کی باگ ڈور کسی ایک کے قبضہ میں آوے اور اس کے بعد کوئی دوسرا شخص مد مقابل بننا چاہے تو اس کی گردن مار دو اور اس میں شک نہیں کہ احکام شریعت نام ہیں، اہل بیت وغیرہ سب اس میں یکساں شامل ہیں۔ پس اگر یزید کے لشکر نے اس حدیث پر عمل کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوان کے

مد مقابل بننا چاہتے تھے تو انہوں نے جو کیا بے جا کیا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ سے اسی خیال پر گئے تھے کہ تخت نصیب ہوگا، باوجودیکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ تجربہ کار اصحاب ان کو منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اہل کوفہ وغیرہ کے خطوط پر اعتماد نہ کیجئے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں مانا اور اہل کوفہ نے جو متعدد خطوط انہیں لکھے تھے کہ آپ آئیے جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم سب تمہارے ساتھ ہو جائیں گے اور یزید یوں کونکال کر آپ کو تخت سلطنت پر بٹھائیں گے۔ چنانچہ آپ نے ان کے خطوط پر بھروسہ کیا اور گئے مگر اہل کوفہ نے دفتانہیں کی اور کسی نے ساتھ نہیں دیا اور اس لئے کوفی لائیو فی مشہور ہے چونکہ یزید یوں کو خیر لگی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مد مقابل بننے کے لئے آئے ہیں اس لئے انہوں نے یہ چالاک کی کر آپ کو کوفہ میں آتے ہی نہ دیا بلکہ راہ میں رو دفرات کے اس پار آپ کو روک رکھا، طرح طرح کی کوشش کی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کو بادشاہ وقت تسلیم کر لیں اور قتال کی نوبت نہ آئے چنانچہ پانی بند کیا اور قسم قسم کی تکالیف دیں تاکہ امام صاحب کسی طرح مان جائیں اور قتال کا موقعہ درمیان میں نہ آئے جب یزیدی مجبور ہوئے تو انہوں نے عملاً بالحدیث المذکورہ سیاست سے کام لیا، پس شہادت کیوں ہوئی؟ اور یہ بھی نہیں کہا جاسکتا ہے کہ یزید کو بادشاہ وقت تسلیم کرنا ناجائز تھا اس لئے امام حسین نے تسلیم نہیں کیا اور جان دیدی کیونکہ یزید کو بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بادشاہ وقت مان لیا تھا، اور ان میں بہت سے ایسے بھی تھے جو مرتبے میں حکم قرآن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے۔ قال اللہ تعالیٰ:

لَا يَسْتَوْفِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ. یعنی فتح مکہ سے قبل جنہوں نے جہادِ مالی و نفسی کیا ہے ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہادِ مالی و نفسی کیے ہیں۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین و امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جہادِ مالی و نفسی قبل فتح مکہ نہیں کیے کیونکہ یہ دونوں حضرات تو قبل فتح مکہ کے کم سن

بچے تھے، پس وہ اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہوں نے قبل فتح مکہ کے جہادِ مالی و نفسی کیے ہیں بحکم قرآن مرتبے میں بڑھے ہوئے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان حضراتِ صحابہؓ میں سے بہت سے یزید کی سلطنت میں شامل تھے اور اس کو بادشاہِ وقت تسلیم کر لیا تھا اس لیے یہ کہنا بھی غیر ممکن ہے کہ یزید کو بادشاہِ وقت ماننا گناہِ کبیرہ تھا اور اس حدیث پر ”لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ“ امام حسینؓ نے عمل کیا اور جان دیدی کیونکہ ایسا جانا جائے گا تو ان صحابہؓ پر فسق کا الزام عائد ہوگا جس کو کوئی سنی کہہ نہیں سکتا۔ پس معلوم ہوا کہ یزید کو بادشاہِ وقت تسلیم نہ کرنا گناہ نہ تھا کیونکہ دو حالتوں سے خالی نہیں یا تو ناسق مسلمان مانا جائے گا یا کافر مانا جائے گا اگر کافر مانا جائے گا تو کافر کی اطاعت بھی فی غیر حصۃ اللہ در وقتِ مجبوری جائز ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ

قال الله تعالى: لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ  
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ  
الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ  
تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا الْقُرْآنَ

نہ بناویں مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کو  
چھوڑ کر اور جو کوئی یہ کام کرے تو نہیں اس کو اللہ سے  
کوئی تعلق مگر اس حالت میں کہ کرنا چاہو تم ان  
سے بجاؤ (آل عمران آیت ۲۸)

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعہ کربلا میں یزید کے غلبہ کو دیکھ کر ضرور یہ کہنا صحیح ہے کہ امام حسینؓ کو اس آیت پر عمل کرنا جائز تھا مگر انہوں نے کیوں عمل نہ کیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کی شان میں وارد ہے سید شباب اہل الجنتہ کیونکہ اس سے اور شہادت سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ حدیث بھی بر تقدیرِ صحت کے بطورِ عموم کے قابل نہیں کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بہت سے شباب ہوں گے جو من انفق من قبل الفتح میں داخل ہیں پس ان کا مرتبہ یقیناً امام حسینؓ سے بڑھ ہے، اور یہ بھی نہیں کہ شہادت پر اجماع ہے کیونکہ اجماع کے لئے سند درکار ہے (واین ہو)۔ یہ البتہ ممکن ہے کہ کہا جائے کہ امام حسینؓ سے اجتہادِ غلطی ہوتی ہے اس لیے انہوں نے جان دیدی مگر اس میں میرا کلام نہیں، میرا کلام تو اس میں ہے کہ ہم لوگ کس دلیل کی بنا پر

ان کو شہید سمجھیں گے کیونکہ مجتہد کی غلطی صرف اس کے حق میں کام آنے والی ہے کہ کم از کم ایک اجر ان کو ملا، غیروں کے لئے حجت نہیں ہو سکتی۔ فقط  
جناب کی عادت شریفہ یہ ہے کہ ضرور جواب دیتے ہیں، مگر نہ معلوم کس وجہ سے  
آپ مجھے جواب نہیں دیتے۔ بہر حال ملتس ہوں کہ جواب سے ارشاد فرمائیے (بیرنگ  
ارسال فرمادیں) جو تفصیلی ہوتا کہ دوبارہ تکلیف دینے کی ضرورت نہ پڑے۔  
جواب: میں بعض مصلحتوں سے بیرنگ خط بھیجتا نہیں، جب آپ کو جواب منگانا  
ہو ملٹ بھیج دیا کیجئے۔

یزید فاسق تھا اور فاسق کی ولایت مختلف فیہ ہے، دوسرے صحابہ نے جائز سمجھا  
حضرت امام نے ناجائز سمجھا اور گواہوں میں انفرادی جائز تھا مگر واجب نہ تھا اور متمسک  
بالکتاب ہونے کے سبب یہ مظلوم تھے اور مقتول مظلوم شہید ہوتا ہے۔ شہادت غزوہ کے  
ساتھ مخصوص نہیں۔ بس ہم اسی بنائے مظلومیت کی بنا پر ان کو شہید مانیں گے،  
باقی یزید کو اس قتال میں اس لئے مظلوم نہیں کہہ سکتے کہ وہ مجتہد سے اپنی تقلید کیوں کرتا  
تھا۔ خصوصاً جبکہ حضرت امام آخر میں فرمانے بھی لگے تھے کہ میں کچھ نہیں کہتا، اس کو تو  
عداوت ہی تھی۔ چنانچہ حضرت امام حسنؑ کے قتل کی بنا یہی تھی۔ (مسائل ششٹی)

جیسا کہ حضرت تھانوی قدس سرہ العزیز نے خود ہشتی زیور حصہ آٹھ ص ۲۷ پر  
بڑی عورتوں کے تذکرے میں جمعہ بنت اشعب کے تذکرے کے ذیل میں لکھا ہے:  
”یہ حضرت امام حسنؑ کی بیوی ہے یہ ایسی ڈوبنی کہ یزید جو حضرت امام حسنؑ کا  
دشمن تھا اس کے بہکانے سے اپنے ایسے پیارے مقبول خاوند کو زہر دیا۔ یزید کم بخت نے  
اس بد بخت کو یہ چقمہ دیا تھا کہ تجھ سے نکاح کر لوں گا اور ایک لاکھ درہم دوں گا (حسن کی  
قیمت قریب تیس ہزار روپے کے ہوتی ہے) جب زہر دیا گیا اس کی تیزی سے حضرت امام  
حسنؑ کی آستین اور کلیجہ کٹ کٹ کر دستوں کی راہ نکل گیا اور چالیس روز پہی تکلیف  
اٹھا کر انتقال فرمایا۔ اس وقت اس عورت نے یزید کو کہلا بھیجا کہ اب وعدہ پورا کرو،  
اُس نے صاف جواب دیا کہ میں تجھ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ غرض بد نصیب کو گناہ کا گناہ  
ہوا اور دنیا کی مراد بھی پوری نہ ہوئی“

۱۔ ملاحظہ فرمائیں اصلی، مدلل و مستدل ہشتی یزید سے ہشتی کو بزرگ طبع کتب خانہ اسلامی ہشتی زیور ناظم آباد لکھنؤ  
۲۰۰۱ء



اور مسلط کی اطاعت کا جواز الگ بات ہے۔ مگر مسلط ہونا کب جائز ہے،  
 خصوصاً ناپل کو اس پر خود واجب تھا کہ معزول ہو جاتا، پھر اہل حق و عقد کسی اہل کفر و خلیفہ  
 بناتے (۲۵۱ جاری الادبی ۱۳۳۶ھ تتمہ خامسہ ص ۵)

ازاداد الفتاویٰ جلد چہارم ص ۲۶۳ تا ۲۶۵

**سوال:** یزید کو لعنت بھیجنا چاہئے یا نہیں، اگر بھیجنا چاہئے تو کس وجہ سے، اور اگر نہ  
 بھیجنا چاہئے تو کس وجہ سے؟ بتنوا توجروا۔

**جواب:** یزید کے بارے میں علماء قدیمین و حدیثاً مختلف رہے ہیں بعض نے تو اس کو  
 مغفور کہا ہے بدلیل حدیث صحیح بخاری:

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم  
 اول جيش من امتي يغزون  
 مدينة قيصر مغفور لهم  
 مختصراً من حديث الطويل برواية  
 ام حرام -  
 پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ  
 میری امت میں پہلا وہ لشکر جو مدینہ قیصر (روم)  
 پر لشکر کشی کرے گا بخشا ہوا ہوگا۔  
 (یہ حضرت ام حرام کی روایت کردہ طویل حدیث  
 کا اختصار ہے)

قال القسطلانی کان اول  
 من غزا مدینة قيصر یزید  
 بن معاویة ومع جماعة  
 من سادات الصحابة کان عمر  
 وابن عباس وابن الزبیر والجب  
 ابن الحنظلی توفی بھا ابوابہ مفتحة  
 اثنتین وخمسين من الحجرة .  
 چنانچہ قسطلانی (شایخ بخاری) فرماتے ہیں کہ مدینہ قیصر  
 پر پہلا لشکر کشی کرنے والا یزید بن معاویہ  
 ہے اور اس کے ساتھ کبار صحابہ کی جماعت تھی  
 جیسے ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر اور  
 حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہم۔  
 اور حضرت ابویوب انصاری کا تو اس مقام پر بیٹھنا  
 میں وصال ہوا۔

کذا قاله في خير الجاری -  
 وفي الفتح قال المهلب  
 اسی طرح خیر جاری میں ہے۔  
 اور فتح الباری میں ہے مہلب کہتے ہیں کہ اس

فہذا الحدیث منقبة لمعاویة  
لأنه أول من غزا البحر ومنقبة  
لولده لأنه أول من غزا  
مدینة قیصر۔ اھ

اور بعضوں نے اس کو ملعون لکھا ہے (بقولہ تعالیٰ) کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے  
فَبَلَّغْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا  
فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ اُولَئِكَ  
الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ  
وَاعَمَّى اَبْصَارَهُمْ (الآیہ)

فی التفسیر المظہری قال ابن  
الجوزی انه روی العاصی ابو یعلی فی  
کتابہ (معمد الاصول) بسندہ عن  
صالح بن احمد بن حنبل انه قال قلت لابی  
یا ایت یزعم بعض الناس انا نخت  
یزید بن معاویة فقال احمد یا ایت  
هل یسوغ لمن یؤمن بالله ان یحبت  
یزید و لعل لا یلعن رجل لعنه  
الله فی کتابہ قلت یا ایت  
ابن لحن الله یزید فی کتابہ  
قال حیث قال فہل عَسَيْتُمْ  
لایت اھ

حدیث میں حضرت معاویہؓ کی منقبت ہے  
کیونکہ وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے بحری جنگ  
کی اور ان کے بیٹے کی بھی منقبت ہے اس لئے  
کہ وہی ہے جس نے پہلے پہل مدینہ قیصر پر لشکر کشی کی۔

پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت  
مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو  
اپنی قرابتیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر لعنت کی  
اللہ نے پھر کر دیا ان کو بہرا اور اندھی کر دیں  
ان کی آنکھیں (پارہ ۲ سورہ محمد، آیت ۲۳)

چنانچہ تفسیر مظہری میں ہے کہ ابن جوزیؒ  
نے فرمایا کہ قاضی ابو یعلیٰ نے اپنی کتاب "معمد الاصول"  
میں اپنی سند کے ساتھ جو صالح بن احمد بن حنبل  
سے ہے، روایت کیا ہے کہ میں نے اپنے والد  
سے عرض کیا کہ اباجان بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں  
کہ ہم یزید بن معاویہ سے محبت کرتے ہیں،  
امام احمدؒ نے فرمایا کہ بیٹے جو اللہ پر ایمان  
رکھتا ہے اس کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ یزید  
بن معاویہ سے دوستی رکھے اور ایسے  
شخص پر کہیں کہ لعنت نہ کی جائے جس پر خود  
حق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لعنت فرمائی ہے  
میں نے کہا اباجان! اللہ نے اپنی کتاب میں  
یزید پر کہاں لعنت کی ہے، فرمایا اُس  
موقع پر جہاں یہ ارشاد ہے فہل عَسَيْتُمْ

مگر تحقیق یہ ہے کہ چونکہ معنی لعنت کے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونا اور یہ ایک امرِ غیبی ہے جب کہ شارع بیان نہ فرمائے کہ فلاں قسم کے لوگ یا فلاں شخص خدا کی رحمت سے دور ہے، کیونکہ معلوم ہو سکتا ہے۔ اور نتیجہ کلام شایع سے معلوم ہو کہ نوع ظالمین و قاتلین پر تو لعنت وارد ہوئی ہے کما قال تعالیٰ :

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ      سن لو پھٹکار ہے اللہ کی ناانصاف لوگوں پر  
(ہود پ ۱)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّعْتَدًا      (اور فرمایا) جو کوئی قتل کرے کسی مسلمان کو جا کر  
فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَ      اس کی سزا دوزخ ہے، پُرار ہے گا اسی میں اور  
غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ      اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو لعنت کی او  
عَذَابًا عَظِيمًا (النساء پ ۵)      اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب

پس اس کی توہم کو بھی اجازت ہے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کورس نوع میں داخل ہے اور کون خارج اور خاص یزید کے باب میں کوئی اجازت منصوصہ ہی نہیں پس بلا دلیل اگر دعویٰ کریں کہ وہ خدا کی رحمت سے دور ہے اس میں خطر عظیم ہے۔ البتہ اگر نص ہوتی تو مثل منوعون، بلمان وقارون وغیرہم کے لعنت جائز ہوتی، واذلیس فلیس (جب نص نہیں تو لعنت نہیں) اگر کوئی کہے کہ جیسے کسی شخص معین کا ملعون ہونا معلوم نہیں تو کسی خاص شخص کا مرحوم ہونا بھی تو معلوم نہیں، پس صلحاء، مظلومین کے واسطے رحمت اللہ علیہ کہنا کیسے جائز ہوگا کہ یہ بھی اخبار عن الغیب بلا دلیل ہے۔

جواب یہ ہے کہ رحمت اللہ علیہ سے اخبار مقصود نہیں بلکہ دعا مقصود ہے اور دعا کا مسلمانوں کے لئے حکم ہے۔ اور لعن اللہ میں یہ نہیں کہہ سکتے اس واسطے کہ وہ بد دعا ہے اور اس کی اجازت نہیں۔ فافہم

اور آیت مذکورہ میں نوع مفسدین و قاتلین پر لعنت آئی ہے اس سے یزید پر کیسے استدلال ہو سکتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے جو استدلال فرمایا

اس میں تاویل کی جائے گی یعنی ان کا منہم (اگر یزید ان میں سے ہو) یا مثل اس کے  
 لحسن الظن بالجتهد - العتبیوں کہہ سکتے ہیں کہ قاتل و آمر و راضی بقتل حسین  
 پر وہ لعنت بھی مطلق نہیں بلکہ ایک قید کے ساتھ یعنی اگر بلا توبہ مرا ہو، اس لیے  
 کہ ممکن ہے ان سب لوگوں کا تصور قیامت میں معاف ہو جائے، کیونکہ ان لوگوں نے  
 کچھ حقوق اللہ تعالیٰ کے ضائع کئے اور کچھ ان بندگانِ مقبول کے - اللہ تعالیٰ تو تو اب  
 اور رحیم ہے ہی۔ یہ لوگ بھی بڑے اہل ہمت اور اولوالعزم تھے، کیا عجب کہ بالکل معاف  
 کر دیں بقول شہور ع "صد شکر کہ ہستم میان دو کریم" پس جب یہ احتمال قائم  
 ہے تو ایک خطر عظیم میں پڑنا کیا ضرور۔ اھ

اسی طرح اس کو مغفور کہنا بھی سخت نادانی ہے کیوں کہ اس  
 میں بھی کوئی نص صریح نہیں

رہا استدلال حدیث مذکور سے تو وہ بالکل ضعیف ہے کیونکہ وہ مشروط  
 ہے بشرط وفات علی الایمان کے ساتھ اور وہ امر مجہول ہے۔ چنانچہ قسطلانی میں  
 بعد نقل قول مہلب کے لکھا ہے :

و تعقبہ ابن التین وابن المنیر	اور ابن التین اور ابن المنیر نے مہلب کے بیان پر
بما حاصلہ انہ لایلزم من	اعتراض کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس
دخولہ فی ذلک العموم ان لا یخرج	حدیث کے عموم میں داخل ہونے سے یہ لازم
بدلیل خاص اذ لا یختلف اهل	نہیں آتا کہ کسی خاص دلیل کی بنا پر وہ اس عموم
العلم ان قوله علیہ السلام	سے خارج نہ ہو۔ اب اہل علم کا اس امر میں کوئی
مغفور لہم مشروط بأن یكونوا	اخلاق نہیں کہ حدیث پاک میں جو مغفرت کا وعدہ
من اهل المغفرة حتى لو ارتد	ہے وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ یہ لوگ
واحد ممن غزاها بعد ذلك	مغفرت کے اہل بھی ہوں چنانچہ ظاہر ہے کہ اس
لم یدخل فی ذلک	غزوہ میں شریک ہونے والا اگر کوئی شخص اس کے
العموم اتفاقاً فدل علی	بعد مرتد ہو گیا تو وہ بالاتفاق اس مغفرت کے عموم

ان المراد مغفور لہم لمن وجد شرط میں داخل نہ ہوگا، جس سے معلوم ہوا کہ مغفرت  
المغفرة فيہ منهم کی شرط موجود ہو (اور جس میں یہ شرط مغفود ہو

(حاشیہ بخاری ج ۱ ص ۱۸۱ مطبوعہ دار احیاء)

پس تو سوا اس میں یہ ہے کہ اس کے حال کو مقوض بعلم الہی کرے اور خود اپنی زبان  
سے کچھ نہ کہے لان فیہ خطر الا کیونکہ اس میں خطرہ ہے) اور کوئی اس کی نسبت کچھ کہے  
تو اس سے کچھ تعرض نہ کرے لان فیہ نصراً (کیونکہ اس میں بیزید کی حمایت ہے)۔

اس واسطے خلاصہ میں لکھا ہے :

انہ لا ینبغی اللعن علیہ ولا علی یزید اور حجاج پر لعنت مناسب نہیں کیونکہ حضور  
الحجاج لأن النبی علیہ السلام نہی عن علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نمازیوں اور اہل قبلہ  
لعن المصلین ومن کان من اہل پر لعن کرنے سے روکا ہے، اور جو نبی علیہ السلام  
القبلة وما نقل من النبی علیہ السلام بعض اہل قبلہ پر لعن منقول ہے وہ تو محض اس وجہ سے  
من اللعن لبعض من اہل القبلة ہے کہ آپ لوگوں کے حالات کے ایسے جاننے والے  
فلما انہ یعلم من احوال الناس مالا تھے جو دوسرے نہیں جانتے۔ اھ

یعلمہ غیرہ۔ اھ

اور احیاء العلوم ج ۳ ثالث باب آفة اللسان ثامنہ میں لعنت کی خوب تحقیق لکھی  
ہے، خوف تطویل سے عبارت نقل نہیں کی گئی۔ من شاء فلیراجع الیہ

اللہم ارحمنا ومن مات ومن یموت علی الایمان واحفظنا

من آفات القلب واللسان یا رحیم یا رحمن

(امداد الفتاویٰ جلد ۱ ص ۲۲۵ تا ۲۲۷)

حضرت تھانویؒ کی ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ :

(۱) یزید فاسق تھا

(۲) اس کو اہل بیت سے عداوت تھی چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو

زہر دے کر قتل کرنے کی بنا بھی یہی تھی۔

- (۳) اس پر واجب تھا کہ خود معزول ہو جاتا تاکہ اہل حق و عقد اس کی جگہ کسی اہل کو غیفہ بناتے
- (۴) حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید مظلوم تھے
- (۵) اس کو مغفور کہنا سخت زیادتی ہے کیونکہ اس میں کوئی نص صریح نہیں۔
- (۶) توسط اس میں یہ ہے کہ اس کے حال کو مغضوب بسم اللہ ہی کرے اور خود اپنی زبان سے کچھ نہ کہے کیونکہ اس میں خطرہ ہے اور کوئی اس کی نسبت کچھ کہے تو اس سے تعرض نہ کرے کیونکہ اس میں یزید کی حمایت ہے۔

## مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ کی تصریحات

کفایت المفتی سے اقتباسات

**سوال :** کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعد میرے بارہ خلیفہ ہوں گے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو ان کے نام تحریر فرمادیں۔ دوسرے یہ کہ یزید بن معاویہ کو کافر یا ملعون کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں؟

المستفتی ۲۴۰۷ عبد الغفار مالیر کوٹلہ

۵ رجب ۱۳۵۷ھ یکم ستمبر ۱۹۳۸ء

**جواب :** بارہ خلیفوں والی روایات صحیح ہیں مگر ان کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ خلیفوں تک اسلام کی قوت و شوکت قائم رہنے کی خبر دی ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ بارہ خلیفہ خلفائے راشدین ہوں گے، خلافت راشدہ یا خلافت نبوت کی مدت تو تیس سال تک بیان فرمائی ہے۔

یزید بن معاویہ کو کافر و ملعون کہنے والے خاطمی ہیں ان کو کافر کہنا بھی نہیں

چاہئے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ۔ دہلی

(کفایت المفتی، کتاب العقائد ص ۱۳۲)

**سوال :** حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی نسبت غضب خلافت کا الزام، نیز یزید کو آپ کا ولی عہد سلطنت باوجود اس کے فسق و فجور کے بنانا جس کو بعض سنی بھی کہتے ہیں

کس حد تک صحیح و درست ہے۔ - المستفتی سید غلیل حیدر۔ کانپور

۵ صفحہ ۲۵۶

**جواب :** حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی اور اس کے بعد وہ جائز طور پر خلافت کے حامل تھے۔ انہوں نے یزید کے لئے بیعت لینے میں غلطی کی کیونکہ یزید سے بہتر اور اولیٰ و افضل افراد موجود تھے، لیکن اس غلطی کے باوجود یزید کے اعمال و افعال کی ذمہ داری ان پر عائد نہ ہوگی کیونکہ اسلام اور قرآن پاک کا اصول ہے **لَا تَوْرُ وَاِزْرَ وَاِزْرَ وَاِزْرَ اٰخِرٰی**۔ اس لئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی اور دشمنی نہیں کرنا چاہیے۔

محمد کفایت اللہ کان اللہ۔ دہلی

(کفایت المفتی ص ۲۲۸ ج ۱)

**سوال :** جنگ کر بلا جہاد تھا یا کوئی سیاسی جنگ تھی ؟

**جواب :** جنگ کر بلا یزید کی طرف سے محض سیاسی تھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی سیاست حقہ کا پابند غائب تھا، مسلمانوں اور کافروں کی جنگ نہ تھی مسلمانوں مسلمانوں ہی کی باہمی لڑائی تھی۔ ایک فریق باطل پر تھا اور اس کی طرف سے انتہائی ظلم و فساد اور خونخواری کا مظاہرہ ہوا اور امام مظلوم کی طرف سے حقیقتاً مظلومیت اور صبر و رصنا کا انتہائی درجہ ظہور میں آیا۔

محمد کفایت اللہ کان اللہ۔ دہلی

(کفایت المفتی ص ۲۸۷)

**سوال :** قاتلان حسین اور یزید پلپ کو گالیاں دینا جائز ہے یا نہیں ؟

**جواب :** قاتلان حسین کے متعلق اتنا کہنا تو جائز ہے کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ اور ظلم کیا مگر گالیاں دینا درست نہیں اور لعنت کرنا جائز نہیں۔ المؤمن لا یكون لعنا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ۔ دہلی

کفایت المفتی ص ۲۸۸ ج ۱

سوال: ایک روز چند اشخاص اہل السنہ والجماعہ کے ایک جگہ بیٹھے تھے اس میں تذکرہ مذہب کا تھا تفضیل الشیعین پر فریعتیں متفق ہیں

(۱) احمد کا دعویٰ ہے کہ اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ ہے محمود کا دعویٰ ہے کہ صحابہ کی شان اہل بیت الہمار سے بڑھی ہوئی ہے، اور یہ کہ صحابہ کی شان میں حدیث آتی ہے کہ جو کوئی ان کی پیروی کرے گا ہدایت پائے گا اس کے علاوہ قرآن کی آیت سے بھی ان کی شان و مرتبہ کا پتہ چلتا ہے۔ احمد نے کہا کہ اہل بیت کی شان میں بھی حدیثیں آئی ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”میں دو چیزیں اپنے بعد موجب نجات اپنی امت میں چھوڑے جاتا ہوں، ان میں سے ایک قرآن پاک اور دوسری اہل بیت ہے جو ان دونوں کو اختیار کرے گا نجات پائے گا، محمود نے کہا کہ وہ حدیث جو صحابہ کی شان میں ہے اس کے مقابل میں اہل بیت کی شان کی حدیث نہیں ہے۔

(۲) اسی مجلس میں ذکر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا آیا، اس پر محمود نے کہا کہ وہ عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ احمد نے کہا کہ مجھے عشرہ مبشرہ کی تو تحقیق نہیں، لیکن آپ صحابی ضرور ہیں۔ مگر آپ سے کچھ غلطی ہوئی، چنانچہ مولانا شاہ عبدالغفر صاحب نے تحفہ اشعار عشریہ میں لکھا ہے کہ ان سے خطا ضرور ہوئی۔ محمود نے کہا کچھ بھی ہو لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا درجہ حضرت سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام یعنی اہل بیت سے بڑھا ہوا ہے براہ کرم اپنی رائے سے مطلع فرمائیں۔

(۳) بقرہ ایک مولوی صاحب نے فرمایا کہ ایسا اعتراض حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایمان پر بھی ہے کیونکہ وہ نابالغی کی حالت میں ایمان لائے تھے نابالغی کے ایمان اور فعل کا اعتبار نہیں ہے۔

(۴) حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر کن کن صحابہ کی کفایت ہے؟



(۵) ایک بار تذکرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا آیا تو کسی نے کہا کہ ان کی شہادت تو مروان کے فعل سے ہوئی جیسا کہ مشہور ہے کہ فاقبلوا کی جگہ فاقتلوا لکھ دیا جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خبر ملی کہ دشمنوں نے حضرت خلیفۃ سوم کے مکان کو گھیر لیا ہے اور حملہ آور ہیں تو اپنے دونوں صاحبزادوں کو مسلح کر کے بھیجا اور سمجھا دیا کہ حضرت عثمان کو دشمنوں کے آزار سے بچانا، اس پر محمود نے کہا کہ یہ کام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا صرف دکھانے کا تھا حقیقتاً ان کو حضرت عثمان کی صفات منظور نہ تھی۔

حضرات علماء کرام سے دریافت کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ظاہر کچھ تھا اور باطن کچھ؟

المستفتی شیخ شفیق احمد ضلع مونگر

۲۲ ربیع الثانی ۱۴۲۴ھ - ۹ جولائی ۱۹۳۵ء

جواب: صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان بھی رفیع اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی شان بھی بہت بلند ہے، اہل بیت میں داخل ہونے کا شرف جدا ہے، اور فضیلت صحبت جدا ہے۔ دونوں کے متعلق صحیح حدیثیں موجود ہیں، جن لوگوں کو دونوں شرف حاصل ہوئے یعنی وہ اہل بیت میں بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں جیسے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما ان کی فضیلت دونوں جہت سے ثابت ہے، اور جو اہل بیت میں شامل ہیں مگر صحابی نہیں ہیں ان کو ایک شرف حاصل ہے دوسرا نہیں۔ جو صحابی ہیں مگر اہل بیت میں شامل نہیں ان کو بھی ایک شرف حاصل ہے دوسرا نہیں۔ اس کے بعد سلم و تقویٰ اور دیگر صفات کی وجہ سے فضیلت کے مراتب کم و بیش ہوتے ہیں اس لئے اس بارے میں اسی قدر اعتقاد پر اکتفا کرنا اسلم ہے۔ شیخین کی فضیلت کلیہ باوجود اہل بیت میں داخل نہ ہونے کے صرف صحابی ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ ان کے اوصاف کاملہ، علم و تقویٰ اور خدمات دینیہ کی بنا پر ہے جن میں وہ خاص امتیازی شان رکھتے ہیں۔

(۲) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں داخل نہیں ہیں اور یہ کہنا بھی درست نہیں کہ وہ حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں ان کے لئے وہ مناقب جو احادیث میں آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبِ وحی تھے اور حضور نے ان کو اپنا گزرتہ مرحمت فرمایا تھا اور عادی تھی، اور ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے (آگے کچھ عبارت رجسٹر میں منقول نہیں)

(۳) یہ اعتراض مہمل اور لغو ہے یہ تو حضرت علی کی فطری اور طبعی صلاحیت کی دلیل ہے کہ بچپن میں ہی ان کو معرفتِ حق اور قبولِ صداقت کی توفیق مبدیاً فیاض سے عطا ہوئی تھی۔

(۴) ترتیبِ فضیلت ترتیبِ خلافت کے موافق ہے یعنی حضرت ابو بکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ، ذوالنورینؓ، حضرت علیؓ سے افضل ہیں، ان تینوں کے بعد حضرت علیؓ باقی صحابہ سے افضل ہیں۔

(۵) یہ خیال کہ حضرت علیؓ نے صرف دکھاوے کے لئے حضرت حسن و حسین (رضی اللہ عنہما) کو بھیجا تھا حفاظتِ منظورہ تھی بدگمانی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے ایسی بدگمانی کرنا مناسب نہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ۔ دہلی

کفایت المصنف ج ۲ ص ۱۳۰ تا ۱۳۲

حضرت مفتی اعظم کی تفسیر حیات سے حسب ذیل امور واضح ہوئے۔

- (۱) یزید خلیفہ راشد نہ تھا مگر اس کو کافر نہیں کہنا چاہئے اور نہ ملعون۔
- (۲) حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کے لئے بیعت لینے میں غلطی کی کیونکہ یزید بہتر و اولیٰ و افضل افراد موجود تھے۔ بایں ہجران کی شان میں گستاخی سے پرہیز لازم ہے
- (۳) جنگ کر بلا یزید کی طرف سے محض سیاسی تھی۔

(۴) قاتلانِ حسینؓ نے بہت بڑا گناہ اور ظلم کیا۔

(۵) حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی رسول بھی ہیں۔

(۶) حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ کہنا درست نہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم

## امام العصر خاتم الحیثین والمفسرین، زبیدۃ الفقہاء و المتکلمین مولانا السید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی تصریح

قوله عمرو بن سعید الخ  
لا یتمتک بقوله هذا فإنه  
عامل یزید و یزید فاسق  
بلا ریب و فی شرح الفقه الاکبر  
لملا علی القاری روی عن  
احمد بن حنبل ان یزید کافر  
و کان عمرو بن سعید جمع العساکر  
لیکون علی ابن الزبیر معاونا  
لیزید علی عبد الله بن الزبیر

عمرو بن سعید الخ۔ اس کے قول سے احتجاج  
درست نہیں کیونکہ یہ شخص یزید کا عامل تھا  
اور یزید بلاشبہ فاسق تھا۔ اور شرح فقہ  
اکبر مصنف ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ میں  
ہے کہ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے  
کہ "یزید کافر ہے"  
اور عمرو بن سعید نے تمام لشکروں کو جمع  
کیا تاکہ یزید کی طرفداری میں عبد اللہ بن زبیر  
پر لشکر کشی کرے۔ الخ

عرف الشذی علی جامع الترمذی

باب ماجاء فی حرمة مکة ص ۳۳ (مطبع قاسمیہ دیوبند)

حضرت شاہ کشمیری قدس سرہ و برہد مضحکہ کی تصریح سے معلوم ہوا کہ عمرو  
بن سعید کے اس قول سے محض اس لئے احتجاج درست نہیں کہ وہ یزید جیسے شخص کا  
مقرر کردہ عامل تھا جس کے فسق میں ذرا بھی شک نہیں۔  
گو یا حضرت شیخ اجل کے نزدیک بھی فسق یزید ناقابل تردید ہے۔

## شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد دینی رحمہ اللہ کی تصریحات

مکتوباتِ شیخ الاسلام سے اقتباسات

علا اس کے فسق و فجور کا علانیہ ظہور ان کے سامنے نہ ہوا تھا اور خفیہ جو بد اعمالیاں وہ کرتا تھا اس کی اطلاع ان کو نہ تھی۔ ص ۲۵ ج اول، مکتبہ دینیہ دیوبند ضلع سہارنپور۔

علا پھر زید کا بعد از ظہور فسق و فجور وہ حال ہی نہیں رہا تھا جو ابتداء میں تھا یعنی اس کے اعمالِ شنیعہ درجہ کفر کو اگر پہنچ گئے تھے جیسا کہ امام احمد اور ایک جماعت کی رائے ہے تب تو وہ یقیناً معزول عن الخلافتہ ہو ہی گیا تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کا ارادہ جنگ خروج ہی نہیں شمار ہو سکتا، اور اس کی حرکاتِ ناشائستہ درجہ کفر کو پہنچی تھیں (جیسا کہ جمہور کا قول ہے) تو اول یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے۔ ممکن ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی رائے یہی ہو جو کہ حضرت امام احمد اور ان کے موافقین کی ہے علاوہ ازیں فاسق ہونے کے بعد خلیفہ معزول ہو جاتا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ اس وقت تک مجمع علیہ نہیں ہوا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے متبعین کی رائے یہ تھی کہ وہ معزول ہو گیا اور اس بنا پر اصلاح امت کی غرض سے انہوں نے جہاد کا ارادہ فرمایا۔ پھر باوجود اس کے خلع کا مسئلہ تو آج بھی متفق علیہ ہے۔ یعنی اگر خلیفہ نے انکارِ فسق کیا تو اصحاب قدرت پر اس کو عزل کر دینا اور کسی عادل متقی کو خلیفہ کرنا لازم ہو جاتا ہے بشرطیکہ اس کے عزل اور خلع سے مفاسد مصالح سے زائد نہ ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے اتباع کی رائے میں مفاسد زیادہ نظر آئے، وہ اپنی بیعت پر قائم رہے، اور اہل مدینہ نے عموماً بعد از بیعت اور واپسی وفدِ ارضام ایسا محسوس نہیں کیا اور سبھوں نے خلع کیا جس کی بنا پر وہ قیامت خیز واقعہ حرہ نمودار ہوا، جس سے مدینہ منورہ اور مسجد نبوی اور حرمِ محترم کی انتہائی بے حرمتی اور تذلیل ہوئی۔ کیا مقتولینِ حرہ کو شہید نہیں کہا جائے گا۔

پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اہل کوفہ کے مواعید پر مطمئن ہوئے بالخصوص

حضرت مسلم و عقیل رحمۃ اللہ علیہما کے خطوط کے بعد جن میں پورا الطینان اہل کوفہ کی طرف سے دلیا گیا تھا، اس لئے اُن کا ارادہ جہاد یقیناً صحیح تھا اور خلع کرنے اور خروج کرنے میں کسی طرح باغی قرار نہیں دیئے جاسکتے، ان کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اس حالت میں مفساد کا قلع قمع ہو جائے گا اور خلل بہت کم ہوگا۔ اپنی ظفر مندی کے لئے متیقن تھے۔ پھر آپ اس کو بھی نظر انداز نہ فرمائیں کہ اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ میدانِ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ اہل کوفہ نے غدر کیا ہے اور سلم و عقیل رحمہما اللہ تعالیٰ شہید کر دیئے گئے۔ اور یزید کی فوج یہاں آپہنچی ہے تو یہ کہلا بھیجا کہ میں کوفہ نہیں جاتا اور نہ تم سے لڑنا چاہتا ہوں مجھ کو مکہ معظمہ واپس جانے دو، دشمن اس پر راضی نہ ہوا اور اصرار کیا کہ اس کے ہاتھ پر یزید کے لئے بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مکہ معظمہ واپس نہیں جانے دیتے تو مجھ کو چھوڑ دو کسی دوسری طرف چلا جاؤں گا، وہ اس پر راضی نہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے یزید کے پاس لے چلو میں خود اس سے گفتگو کر لوں گا، وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا اور جنگ یا بیعت پر مصر رہا، یہ تاریخی واقعہ بتلاتا ہے کہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ ہر طرح مجبور و مظلوم قتل کئے گئے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی شہادت میں کلام کیا جائے تو تعجب خیز نہیں تو کیا ہے۔ اھ ۲۶۸ و ۲۶۹

حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ کی تقریحات سے

مندرجہ ذیل امور واضح ہوئے

- (۱) یزید کا فسق ظاہر ہونے کے بعد پہلے جیسا حال نہ رہا۔
- (۲) حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید مظلوم ہیں۔
- (۳) حضرت شیخ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے موقف کی وضاحت انتہائی جامعیت اور اختصار سے فرمادی ہے کہ کوئی منصف مزاج جو ذرا بھی بعیرت رکھتا ہو مزید اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ امام احمد بن حنبلؒ وغیرہ کا برکے قول کے مطابق اگر یزید کا فسق و فجور درجہ کفر تک پہنچ گیا تھا تو پھر وہ معزول

ہو گیا جس کی بنا پر اس کے خلاف قتال کرنا جائز تھا بصورت دیگر اگر اس کے کثرت درجہ کفر تک نہیں پہنچے تھے تو اس صورت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اجتہادی رائے یہ تھی کہ وہ اس صورت میں بھی قابل عزل ہے جس کے بعد قتال جائز ہے  
 ایک تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ بوجہ فسق کے اس کو معزول کرنا اور خلع بیعت ضروری تھا لیکن یہ مشروط ہے فتنہ و فساد نہ ہونے کے ساتھ ایسی صورت میں جبکہ اتنی پیچیدگیاں موجود تھیں صحابہ کرام کے اجتہاد میں اختلاف ہونا ناگزیر تھا۔ حضرت امام مظلوم رضی اللہ عنہ اپنے خاص موقف کی بنا پر شہید ہوئے تھے۔

علمائے اہل سنت کے اقوال میں جو اختلاف نظر آتا ہے وہ درحقیقت عینی ہے صحابہ کرام کے مابین اجتہادی اختلاف پر لیکن یہاں بات واضح طور پر ذہن میں رہنی چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجماع کا اختلاف اس بنا پر نہیں ہوا تھا کہ ان میں سے بعض یزید کو صالح اور عادل سمجھتے تھے اور بعض فاسق و فاجر، وجہ یہ ہے کہ جن صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کے خلاف جنگ سے روکا تھا انہوں نے یہ کہہ کر نہیں روکا تھا کہ چونکہ یزید ایک صالح اور عادل شخص ہے لہذا آپ اس کی مخالفت ترک کر دیں بلکہ انہوں نے تقریباً بین المسلمین کے اندیشے سے منع کیا یا اہل کوفہ پر بوجہ کوفی لایونی کے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا اس لئے ان کو روکنا چاہتے تھے تاکہ نقصان نہ اٹھائیں۔ واللہ اعلم۔

سند العلماء مفتی اعظم ہند و صدر مفتی دارالعلوم دیوبند  
 حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن رحمہ اللہ کا فتویٰ

حکم لعنت یزید

سوال : گروہی گوید کہ یزید  
 حاکم و والی مسلمین بہ بیعت اکثر  
 اہل اسلام مقرر شد و اگرچہ  
 فسق و فجوری معروف بہت لیکن الی افسق  
 ایک گروہ کہتا ہے کہ یزید حاکم اور والی مسلمانان  
 اکثر اہل اسلام کی بیعت سے مقرر ہوا تھا،  
 اگرچہ اس کا فسق و فجور معروف ہے لیکن  
 حاکم فسق سے معزول نہیں ہوتا۔

معزول نمی شود۔ وگروہے دیگر می گوید کہ اگر در اول امر ولایت و امارت و تسلیم ہم کرده شود تا ہم چون عامر مسلمین از طاعت و بے برآمدند و خلع بیعت او کردند او والی ایشان نمازد و بوجہ آن افعال شنیعہ کہ از و صادر شدہ اند لعنت برو جا نزت است پس فیصلہ شہاد درین باب چیست ؟

اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اگرچہ شروع شروع میں اس کی ولایت و امارت تسلیم کر لی گئی تھی تا ہم چونکہ عامر مسلمانوں نے اس کی اطاعت سے عدول کیا تھا اور خلع بیعت کردی تو وہ ان کا والی نہ رہا اور اس وجہ سے کبرے افعال اُس سے صادر ہوئے اس پر لعنت کرنا جائز ہے لہذا آپ لوگوں کا فیصلہ اس بارے میں کیا ہے ؟

جواب : راجع عند اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک راجع عدم تکفیر اور عدم لعن ہے اگرچہ اس کے ظلم و جور اور تعدی و فسق میں کوئی کلام نہیں ہے لیکن یہ امور موجب کفر و ارتداد نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ امور موجب کفر و ارتداد بھی ہو جائیں تو جب تک اس کا یقین نہ ہو جائے تکفیر نہیں کرنی چاہئے۔ اور جو کچھ ابن امیر الحاج نے کہا بالکل حق ہے اور شرح فقہ اکبر میں نقل کیا کہ حق بات تو یہ ہے کہ اس بارے میں توقف کیا جائے اور اس کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اور یہ توقف بھی عدم تکفیر اور عدم لعن کا حکم کرتا ہے اور خلافت کا قصہ دوسرا ہے کہ خلیفہ فسق سے معزول نہیں ہوتا، اور بعض کے نزدیک معزول ہو جاتا ہے۔ لہذا ان جیسے مختلف فیہ مسائل میں جنگ و جدال

جواب : راجع عند اہل السنۃ والجماعۃ عدم تکفیر و عدم لعن زیاد است، اگرچہ در ظلم و جور و تعدی و فسق او کلام نیست لیکن این امور موجب کفر و ارتداد او نمی تواند شد، و اگر بات تا وقتیکہ یقین او حاصل نہ شود تکفیر نباید کرد۔

والحق ما قالہ ابن الحاج و نقل عنہ فی شرح الفقہ الاکبر و حقیقۃ الامر التوقف فیہ و مرجع امرہ الی اللہ سبحانہ

و این توقف ہم حکم عدم تکفیر و عدم لعن می کند و قصہ خلافت دیگر است خلیفہ از فسق معزول نمی شود۔

پس درین چنین مسائل مختلف فیہا نزاع و جدال مناسب شان علماء

نیست و سکوت بہتر است۔  
 علماء کی شان کے مناسب نہیں بلکہ سکوت  
 فقط بندہ عزیز الرحمن بہتر ہے۔ اھ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ص ۱۳۸)  
 مفتی دارالعلوم دیوبند طبع کتب خانہ عزازیہ دیوبند۔  
 حضرت مفتی عزیز الرحمن رحمہ اللہ کے فتویٰ سے مندرجہ ذیل امور واضح ہوئے :  
 (۱) یزید کے ظلم، جور و تعدی و فسق میں کوئی کلام نہیں بائیں ہمہ توقف بہتر ہے  
 (۲) اس قسم کے مختلف فیہ مسائل میں جنگ و جدال علماء کی شان کے مناسب نہیں۔  
 احتیاط سکوت میں ہے۔ نہ یزید کی حمایت میں سرگرم ہونا چاہئے اور نہ ہی  
 اس کی مخالفت اور طعن و تشنیع کو اپنا شعار بنانا چاہئے۔ (ضیاء)



## فاسق اور یزید کے الفاظ

یزید کا فاسق ہونا اہل سنت والجماعت کے مسلک میں متفق علیہ ہے۔

اکابر اسلام مثلاً حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی اور فخر المتکلمین حضرت مولانا حیدر علی صاحب فیض آبادی (مصنف "منتہی الکلام وازالۃ الخین وغیرہ) نے یزید کو بعض جگہ فاسق اور بعض جگہ پلید لکھا ہے۔ لفظ پلید پر حامیان یزید زیادہ برا فروخت ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ فاسق اور پلید کا ایک ہی مطلب ہے، چنانچہ فسق اور فسوق کے لٹوی معنی یہ ہیں :- نافرمانی، بدکاری، کی زندگی، اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور بدی۔ نیک نختی کی راستے سے دوری۔ اور فاسق کے معنی بدکار، نافرمان، گنہگار، پاپی، سرکش، زناکار (المعجم الاعظم جلد ۴)۔

فسق کے درجات ہیں اور عموماً فسق بمعنی نافرمانی اور گناہ استعمال ہوتا ہے۔ یزید پر حضرت عبداللہ بن خلفہ وغیرہ اصحاب مدینہ نے شرب پینے اور نماز ترک کرنے کا حکم کھلا الزام لگایا تھا جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ جلد ۸ ص ۴۳۲ میں لکھا ہے۔ توجیب اصحاب مدینہ نے یزید کو پلید کہہ دیا تو اگر حضرت نانوتوی وغیرہ اکابر امت یزید کو پلید کہیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ افسوس ہے کہ جو لوگ اکابر دیوبند کی گردن کو بچھ نہیں پہنچ سکتے وہ دیوبندی کہہ لو اگر بھی ان حضرات پر جرح کرتے ہیں۔

ما خود از "خارجی فتنہ" بتفیر لیسر ۶۵-۶۵

## مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع صاحب رحمۃ اللہ کی تصریحات

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ اپنی تصنیف "لطیف" "شہید کربلا" میں تحریر فرماتے ہیں

تنبیہ: یزید کی یہ زود پشیمانی اور بقیعہ اہل بیت کے ساتھ بظاہر اکرام کا معاملہ تھیں اپنی بدنامی کا داغ مٹانے کے لئے تھا یا حقیقت میں کچھ خدا کا خوف اور آخرت کا خیال آگیا یہ تو علیم وخبیر ہی جانتا ہے، مگر یزید کے اعمال اور کارنامے اس کے بعد بھی سیاہ کاریوں

ہی سے لبریز ہیں، مرتے مرتے بھی مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لئے لشکر بھیجے ہیں۔ اسی حال میں مرا ہے۔ حاملہ اللہ بامہراہلہ (مولف) ۱۵-۹۵ (طبع دارالاشاعت کراچی)

### ہلاکتِ یزید

شہادتِ حسین کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا، تمام اسلامی ممالک میں خونِ شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں، اس کی زندگی اس کے بعد دو سال آٹھ ماہ اور ایک روایت میں تین سال آٹھ ماہ سے زائد نہیں رہی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہوا (ص ۱۳)

قَاتِلَانِ حُسَيْنٍ كَايَ عِبْرَتٍ نَاكِلٍ نَجَامٍ مَحْلُومٍ كَرَكَبِ سَاخْتِ يَهْ آيَتِ زَبَانٍ پَر آتِي هِي  
كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ عَذَابٌ اِيْسَابِي هُوْتَا هِي اُوْر اَخْرَتِ كَا عَذَابٌ اِسْ سِي  
اَكْبَرٌ لُو كَا نُوْا يَعْلَمُوْنَ (القلم) بڑا ہے کاش وہ سمجھ لیتے۔ ۱۵ ص  
آگے فرماتے ہیں: "حضرت ابو ہریرہؓ کو شاید اس فتنہ کا علم ہو گیا تھا وہ آخر عمر میں یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ساٹھویں سال اور نو عمروں کی امارت سے ہجرت کے ساٹھویں سال ہی یزید جیسے نو عمر کی خلافت کا قضیہ چلا اور یہ فتنہ ہمیش آیا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ (ص ۱۴)

حضرت مفتی صاحب کی عبارات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یزید اپنے انصافِ ناشائستہ کی بنا پر اس لائق نہیں کہ اس کی تعریف و توصیف کی جائے، جیسا کہ نواصب اپنے جلسوں اور تقاریر میں "امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ" زندہ باد کے نعرے لگواتے ہیں اور اس طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو مزید اذیت پہنچانے کا ساما کرتے ہیں ایسے لوگ بنص قرآنی اپنے کو لعنتِ خداوندی کا مستوجب بنا رہے ہیں۔ ارشادِ ربانی ہے:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ  
لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَالْاَسْبَابُ وَالْآخِرَةُ  
وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا -  
بیشک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر خدا کی پھونکار ہے دینا اور آخرت میں اور ان کے لئے رسوا کن عذاب تیار کیا ہوگا (الاحزاب پ ۲۲)

## حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمان مہتمم دارالعلوم دیوبند کی تصدیقات

(۱) امام احمد کے نزدیک قتل حسین میں یزید کا ہاتھ بلاشبہ کارفرما تھا کیونکہ امام احمد نے فسادِ عظیم فرما کر یزید کو اس پر سختی لعنت فرما رہے ہیں جس کے معنی یزید کے قاتل حسین ہونے کے صاف نکلتے ہیں خواہ امر قتل سے وہ قاتل ہے یا رضاً بالقتل سے قاتل ٹھہرے اسے بھی غمگنا قاتل ہی کہا جائے گا۔ ۱۴۴ھ

(۲) امام احمد بن حنبل نے تو قرآن کریم کی ایک پوری آیت ہی اس پر منطبق کر کے اس کے عموم سے بدالالت قرآنی یزید کو مورد لعنت قرار دیا ۱۴۵ھ

(۳) ان کا منشا صرف یزید کو ان غیر معمولی ناشائستگیوں کی وجہ سے سختی لعنت قرار دینا یا زیادہ سے زیادہ لعنت کا جواز ثابت کرنا ہے لعنت کو واجب نہ ملنا نہیں اور ایضاً (۴) خلاصہ یہ کہ جنہوں نے لعنت کا جواز ثابت کیا ہے وہ یزید پر لعنت کرنے کو

لے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں، ہم نے رسلے کے آغاز میں جس کتاب کا ذکر کیا تھا وہ "خلافت معاویہ و یزید" نامی کتاب ہے جس کے مصنف محمود عباسی صاحب ہیں۔ اس کتاب میں عباسی صاحب نے حتی الاسکان اپنا زور مسلم یزید کے مناقب و فضائل کے بیان پر صرف کر دیا ہے بقول ان کے یہ ان کی ایک تاریخی ریسرچ ہے کہ یزید کو صرف خلیفہ برحق بلکہ عمر ثانی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، یزید کا ذاتی و سیاسی کردار بے عیب ظاہر کیا جائے جس کا لازمی اثر یہ ظاہر ہوا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا ذاتی کردار مشکوک ہو گیا۔ چنانچہ موجودہ دور کے نواسے سرخیل عباسی صاحب نے اہل بیت رسول کی توہین، ان کی تحویل و تجسیل میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا یہاں تک کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی صحابیت سے بھی انکار کر بیٹھے اور یزید کو حضرت امام کے مقابلے پر لاکھڑا کیا۔ عباسی صاحب کے خیال میں انہوں نے دین کی ایک بہت بڑی خدمت انجام دی کہ تحقیق انہی کا ایک نیا باب امت کے سامنے آیا، اب جبکہ اہل علم و فضل (بقیہ اگلے صفحہ) لے حضرت قاری صاحب نے محمود احمد عباسی کی کتاب "خلافت معاویہ و یزید" کے رد میں ایک کتاب بنام "شہید کربلا اور یزید" تالیف فرمائی ہے جس کے چند اہم اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں

ضروری نہیں قرار دیتے اور جنہوں نے لعنت سے روکا ہے وہ ان کے اثباتِ جواز کے منکر نہیں یعنی ایک فریقِ نزید کو سختی لعنت بتلاتا ہے اور دوسرا شغلِ لعنت کو پسند نہیں کرتا، اس لئے نزید پر لعنت سے بچنے والا کسی بھی فریق کا مخالف نہیں کہلایا جاسکتا یہی راستہ ہم اختیار کئے ہوئے ہیں، پھر بھی مثبتینِ لعنت کے اقوال کی یہ پیشکش لوگوں کو نزید کی لعنت پر اُکسانے کے لئے نہیں، بلکہ صرف یہ بتلانے کے لئے ہے کہ ائمہ ہدایت کے ہاں کسی کے بارہ میں لعنت کا جواز بلکہ لعنت کا سوال اٹھ جانا اس کے اچھے کردار کی دلیل نہیں ہو سکتا بلکہ بد کرداری اور فسق ہی کی دلیل ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ لعنت کے اقوال ان ائمہ کی طرف سے بلاشبہ نزید کے فسق کی ایک مستقل دلیل اور زنی شہادت ہے۔ ابو یوسفؒ

(۵) پس جیسے کفر سرزد ہو جلنے پر کوئی نیکی کا رآمد نہیں رہتی اور نہ زبانوں پر آتی ہے

حضرات میں ایسے لوگ کم ہیں جو اسلامی تاریخ پر وسیع نظر رکھتے ہوں تو عوام میں پڑھا لکھا طبقہ اسلامی تاریخ سے کب واقف ہو سکتا ہے خصوصاً بعض پروفیسرز اور لیکچرار حضرات اس سے متاثر ہوتے ہیں نہ رہ سکتے اور اب ایک ذہنی انتشار کی ہی صورت پیدا ہو گئی۔ ایک پڑھا لکھا شخص جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نزید کا نام امیر المومنین کہہ کر لے تو یہ حضرات بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھئے صاحب ہم نے دین کی کتنی بڑی خدمت کی برسہا برس سے امت میں یہ غلط فہمی چلی آرہی تھی جس میں بڑے بڑے محدثین، مفسرین، حکامین حتیٰ کہ بعض مؤرخین بھی مبتلا رہے۔ آج ہم نے اپنی اس تاریخی ریسرچ کے ذریعہ حقائق سے پردہ اٹھا دیا یہ ہماری کتنی بڑی دین کی خدمت ہے حالانکہ تعلیم یافتہ طبقہ چونکہ تاریخ پر سطحی نظر رکھتا ہے اس لئے وہ بہت جلد ان کی تاریخی ریسرچ کو نظر ثانی ریسرچ کا شکار ہو جاتا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ حق کیا ہے۔ ہمارا اسلاف امت کبھی ہم سے غلط بیانی نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ قرآن بعد قرن اور سنہ بعد نسل سب اسی غلطی میں مبتلا ہوتے چلے آئے تا آنکہ عباسی صاحب کا دور نامحسوس آیا اور انہوں نے نزید کی طرف سے وکالت کا صحیح حقیقہ ادا کیا اِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مُحْجَبٌ۔ اس لئے جب ابتداء میں مذکورہ کتاب چھپ کر منظر عام پر آئی تو علماء اور جدید تعلیم یافتہ طبقے میں ایک عجیب، بلبل سی عجیب گنگی پھیل گئی اور یونیورسٹی

ایسے ہی فسق کی بعض حرکتیں یا بے ادبی اور گستاخی کی بعض نوعیں سرزد ہو جانے پر نہ کوئی نیکی بار آور رہتی ہے نہ زبانیں اس کا تکلم گوارا کرتی ہیں اور نہ ہی مقبولیت عند اللہ باقی رہتی ہے

پس تجربہ کر دیم درین دیر کافات یاد رکشان ہر کہ در افتاد بر افتاد  
غرض یہ اصول ہے عقلی بھی، شرعی بھی اور طبعی بھی کوئی جذبہ باقی بات نہیں ایسی یزید  
گر خوار ہوا۔ اس کے ایک ہی فسق (قتل حسین) نے اس کی ساری خوبیوں کو خاک میں ملا دیا۔  
اور کوئی بھی اس جرم کے بعد اس کی کسی بھلی بات سننے کا بھی روادار نہ رہا۔  
(۶) بہر حال یزید کے فسق و فجور پر جب کہ صحابہ کرام سب کے سب ہی متفق ہیں خواہ سب  
ہوں یا مخالفین پھر ائمہ مجتہدین بھی متفق ہیں اور ان کے بعد علمائے راسخین، محدثین، فقہاء  
مثل علامہ قسطلانی، علامہ بدر الدین عینی، علامہ بیہقی، علامہ ابن جوزی، علامہ سعد الدین

سے منسلک وہ پر دینسزاد اور سیکھرا حضرت جو یا تو عربی سے کم واقفیت رکھتے ہیں یا بالکل ہی ناواقف  
ہیں اور شیعہ تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے زبان اردو اس انوکھے انداز بیان سے بڑی حد  
تک تاثر قبول کیا اور اپنے زیر اثر طلبہ حضرات کو عباسی صاحب کی حدید اور مسلمات کے خلاف تحقیقات  
سے روشناس کرایا جس کے فوری اور لازمی نتیجے کے طور پر نوجوان جو شیعہ طلبہ میں جو فکری انقلاب  
پیدا ہونا شروع ہوا وہ حضرت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عموماً اور شہید مظلوم سیدنا  
حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے خصوصاً ایک بُعدا و نفرت کی صورت میں ظاہر ہوا، اس کے برعکس  
یزید سے عقیدت و احترام اور معاذ اللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر یزید کے فضائل و  
مناقب کے بیان پر منتج ہوا۔ فاللہ اعلم بالمستکفی۔

یہ وہ اندھی عقیدت تھی جس کی عباسی صاحب نے آبیاری کی اس کے برگ بار سے اُن تمام  
حضرات نے فائدہ حاصل کیا جو اصل مآخذ و مراجع سے نا آشنا ہونے کے سبب ان کی طرف رجوع  
نہیں کر سکتے یا اگر کر سکتے ہیں تو اتنی زحمت گوارا نہیں کرتے اس لئے جب پکا پکا یا مل جائے تو سر  
دھننے کی کیا ضرورت۔

آنکس کہ نداند و بداند کہ بداند در جہلی مرکب ابدالہ ہر ماند (ضیاء الحق)

تفت زانی، محقق ابن ہمام، حافظ ابن کثیر، علامہ الکلبی الہراسی جیسے محققین یزید کے فسق پر علماء سلف کا اتفاق نقل کر رہے ہیں اور خود بھی اسی کے قائل ہیں پھر بعض ان میں سے اس فسق کے قدر مشترک کو متوازن المعنی بھی کہہ رہے ہیں، جس سے اس کا قطعی ہونا بھی واضح ہے۔ پھر اوپر سے ائمہ اجتہاد میں سے امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام احمدؒ بن حنبل کا یہی مسلک الکلبی الہراسی نقل کر رہے ہیں اور وہ خود شافعی ہیں اور فتویٰ دے رہے ہیں تو ان کی نقل ہی سے یہ مسلک امام شافعیؒ اور فقہ شافعیؒ بھی ثابت ہوتا ہے تو اس سے زیادہ یزید کے فسق کے متفق علیہ مچنے کی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے؟

۱۵۳

## حدیث العصر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کی تصریحاً

حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف معارف السنن شرح ترمذی میں رقمطراز ہیں

عمر بن سعید مدینہ پر یزید بن معاویہ کی طرف سے والی بنا یا گیا تھا، اُس نے یزید بن معاویہ کے حکم سے حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قتال کی تیاری کی، یہ عمرو بن سعید ہذا اور ابن العاصی بن امیہ القرشی الأموی یُعرف بالاشدق و ملقب بلطیم الشیطان مکنی ابی امیہ قتلہ عبد الملک بن مروان بعد ان امنہ سنة سبعین، کما هو مذکور تفصیلاً فی البدایة والنهاية لابن الکثیر فی الجزء الثانی	عمر بن سعید مدینہ پر یزید بن معاویہ کی طرف سے والی بنا یا گیا تھا، اُس نے یزید بن معاویہ کے حکم سے حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قتال کی تیاری کی، یہ عمرو بن سعید بن العاصی بن امیہ قرشی اموی ہے اور اس کو اشدق کے نام سے جانا گیا ہے اس کا لقب لطیم الشیطان ہے اور ابی امیہ اس کی کنیت ہے عبد الملک بن مروان نے شہدہ میں اس کو امان دینے کے بعد قتل کر دیا تھا جیسا کہ اس کی تفصیل البدایہ والنهاية کی جلد ثامن میں موجود ہے، اور
---	--

وقصة قتال عبد الله بن الزبير  
 معروفة وملخصها ان معاوية  
 لما عهد بالخلافة بعده لابنه  
 يزيد فبايعه الناس الاربعة  
 منهم الحسين بن علي وابن الزبير  
 رضی اللہ عنہما ، ثم الامام الحسين  
 رضی اللہ عنہ سار الى الكوفة  
 باصرار أهلها ، فوقع ما وقع واما  
 ابن الزبير فاعتصم بحرم مكة  
 ويسمى عاخذ البيت وغلب علي  
 امر مكة فكان يزيد يأمر  
 ولاته على المدينة ان يجهزوا  
 لقتاله الجيوش الى ان أدى ذلك  
 وأمثاله لخنق اهل المدينة  
 ببسعة يزيد فانتج ذلك وقعة  
 الحرة بالمدينة فقتل فيها  
 مؤمن من الصحابة وابتائهم  
 واقتض فيها الف عذراء على ما  
 يقال ، ووقع شر عظيم وفساد كبير  
 على ما يحدثناه التاريخ فانما  
 لله وانا اليه راجعون ، اه  
 وذلك سنة ثلاث و  
 ستين من الهجرة النبوية على

عبد اللہ بن زبیر سے اس کا قتال معروف  
 ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت  
 معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت  
 کے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا تو لوگوں  
 نے ان سے بیعت کر لی سوائے ان میں چار  
 کے جن میں حسین بن علی اور ابن الزبیر رضی اللہ  
 عنہما شامل ہیں ، پھر امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے  
 گھر والوں کے اصرار پر کوفہ چلے گئے چنانچہ جو کچھ  
 ہونا تھا وہ ہو گیا ، اور حضرت عبد اللہ بن زبیر  
 رضی اللہ عنہ نے حرم مکہ میں پناہ حاصل کی در  
 اسی لئے ان کو "بیت اللہ کے پناہ گزین" نام  
 سے موسوم کیا جاتا ہے اور مکہ کے امور پر ان کو غلبہ  
 حاصل ہو گیا تھا لہذا یزید نے اپنے مدینہ کے ولایت کو  
 کو حکم دیا کہ وہ ان سے قتال کرنے کے لئے لشکر و  
 کو تیار کریں (اور قتال پیش آیا) یہاں تک کہ ان  
 کا روایتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل مدینہ نے یزید کی  
 بیعت کو توڑ ڈالا جس کے صلے میں حرہ کا واقعہ پیش  
 آیا اور اس میں سو صحابہ مع اپنی اولاد کے شہید  
 ہو گئے (اسی میں شمر کاٹے حدیبیہ خستہ ہوئے)  
 اور ایک ہزار دو شیشہ لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی  
 جیسا کہ کہا گیا ہے اور بہت بڑا فساد و فتنہ واقع  
 ہوا جیسا کہ تاریخ کے بیان سے ظاہر ہے ،  
 لانا اللہ وانا الیہ راجعون . اور یہ واقعہ ۳۳ھ

صاحبها الصلوات والتحيّة  
ويزيد لاريب في كونه فاسقا  
ولعلماء السلف في يزيد و  
قتله الامام حسين خلاف في  
اللعن والتوقف، قال ابن  
صلاح في يزيد ثلاث فرق،  
فرقة تحته، وفرقة تسبه  
وتلعنه وفرقة متوسطة  
لاستوالاة ولا تلعنه، قال  
وهذه الفرقة هي المصيبة  
ويقول ابن العماد في الشذرات  
بعد نقله ولا أظن الفرقة  
الاولى توجد اليوم،  
وعلى الجملة فما فقد عن  
قتله الحسين والتعاملين  
عليه يدل على الزندقة  
وتها ونهم بمنصب النبوة  
وما اعظم ذلك، ثم  
كلمه المتفتازاني في شرح  
النسفية من نقد الاتفاق  
على جواز اللعن، وان  
رضا يزيد بقتله و  
استثارة بذلك واھانتھ

میں پیش آیا تھا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ  
یزید فاسق تھا اور علماء سلف میں زہرہ قتل  
حسین یزید پر لعنت کرنے کے بارے میں تسنن  
ہے کہ لعنت کی جائے یا توقف اختیار کیا جائے۔  
چنانچہ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ یزید کے بارے میں  
تین گروہ ہیں۔ ایک وہ جو اس سے خاص لگاؤ  
رکھتے ہیں، دوسرے وہ جو اس کو گالیاں دیتے  
ہیں اور لعنت کرتے ہیں، تیسرے وہ جو اس بارے  
میں متوسط ہیں نہ اُس کو بُرا مانتے ہیں اور نہ ہی  
اُس پر لعنت کرنے کو روا رکھتے ہیں، ابن صلاح  
فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ اعتدال پر ہے۔ اور ابن العماد  
شذرات میں اس کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ میں نہیں  
سمجھتا کہ اول قسم کے لوگ (یزید کو چاہنے والے)  
آج بھی ہوں گے۔ اھ

مجموعی طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل  
اور ان کے قتال پر اُجھارنے والوں میں متعلق جو کچھ  
کتب تاریخ سے معلوم ہوتا ہے اس کا حاصل یہی  
ہے کہ یہ زندقہ ہے اور دراصل اس سے مذہب  
نبوت کی توہین معلوم ہوتی ہے اور اس سے بڑھ  
کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ پھر تفتازانی کی بات  
جو انہوں نے شرح نسفیه میں نقل کی ہے کہ جواز  
لعنت یزید پر اتفاق ہے (جس سے لعنت کے جواز  
پر صاف دلیل معلوم ہوتی ہے) اور یزید کی



اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مساواتر معناہ وان کان تفصیلہ احاداً۔  
 ثمر نقل عن الحافظ ابن عساکر انہ  
 نسب الی یزید قصیدۃ منها :  
 لیت اشیاخی بیدر سہدوا  
 جنج الخزیج من وقع الاسد  
 لعیت ہاشم بالملک فلا  
 ملک جاءہ ولا وحی نزل  
 قال فان صحت عنہ فهو کافر  
 بلاریب<sup>۳</sup> وبعد تفصیل قال :  
 قال الیافی : واما حکم من  
 قتل الحسین او امر بقتلہ  
 عمن استحل ذلك فهو کافر  
 وان لم يستحل فناسق فاجر  
 واللہ اعلم اھ۔

حضرت امام رضی اللہ عنہ کے قتل پر رضامندی اور اس پر اظہارِ مسرت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی توہین کی خبر اگرچہ معنی متواتر ہے مگر واقعے کی تفصیلاً اخبارِ احاد کے درجہ میں ہیں پھر ابن عساکر سے یہ بھی منقول ہے کہ انہوں نے ایک قصیدہ یزید کی طرف منسوب کیا ہے جس کے چند اشعار یہ ہیں

حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ اگر ان اشعار کی نسبت یزید کی طرف درست ہے تو وہ بلاشبہ کافر ہے، اور اسی موقع پر کچھ تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یاغنی کا قول ہے انہوں نے فرمایا کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم دیا یا اس نے قتل کیا اور اس کو جائز اور حلال جانا تو وہ کافر ہے اور اگر حلال اور جائز جان کر ایسا نہ کیا تو وہ فاسق فاجر ہے، واللہ اعلم

۱۔ کاشمیر کے میرے بزرگ بدر کے معرکے میں یزیدوں کی مار پڑنے سے خزیج کی حج و پکار کو دیکھتے ہاشم نے ملک کو برباد کر دیا ندان کے پاس کوئی فرشتہ آیا اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی۔

۲۔ یقول الحافظ ابن کثیر فی البدایۃ والنہایۃ (۸-۲۴۴) فہذا ان قالہ یزید بن معاویۃ فلعنۃ اللہ علیہ ولعنۃ اللہ علیہ وان لم یکن قالہ فلعنۃ اللہ علی من وضعہ علیہ یشنع بہ علیہ اھ منہ

البدایۃ والنہایۃ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ یزید بن معاویہ ہی کا قول ہے تو اس پر اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو اور اگر اس نے یہ نہیں کہا تو اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے اس کو گھڑا ہے اور وہ ایسی بُری بات کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے۔

۳۔ اھ۔

## محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کی تصدیق

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی مدظلہ العالی اپنے ایک مضمون  
 ” حضرت معاویہ کی شان میں سنو ادبی اور اس کا جواب “ میں خواجہ حسن نظامی  
 کے اس الزام کا جواب دیتے ہوئے کہ (حضرت معاویہ نے حضرت امام حسنؑ کو زہر دلوایا  
 تھا) لکھتے ہیں کہ :

” اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون سے جس ناپاک  
 اور خبیث وجود کا ہاتھ رنگین ہے اسی نے حضرت حسنؑ کو بھی زہر دلوایا تھا۔  
 چنانچہ مسلم الثبوت اور مستند مؤرخ و محدث علامہ سیوطی نے اس دردناک  
 داستانِ غم لکھتے ہوئے اس کی صاف تصریح کی ہے کہ جس ننگِ انسانیت نے حضرت  
 امام حسینؑ کے ساتھ یہ ستم روا رکھا تھا وہ یزید علیہ مایسئس حقہ ہے (تاریخ الخلفاء)  
 (” النجم، لکھنؤ۔ جمادی الاولیٰ۔ جمادی الاخریٰ۔ ۱۳۲۹ھ ص ۳۹)

حضرت مولانا اعظمی نے یزید کو ننگِ انسانیت، ناپاک اور خبیث اور قاتل  
 حسین قرار دیا ہے۔

یزید کو ”صالح اور عادل“ اور ”امیر المؤمنین“ لکھنے کی جسارت کرنے والے ذرا اپنے  
 گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور غور کریں کہ کل روزِ محشر میں آقائے نامدار  
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے۔

حضرت مولانا اعظمی نے اپنے اسی مضمون میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع  
 کرتے ہوئے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ پانچویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ  
 کی نسبت یہ مذکور ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان

لے ناخوذاز کشف خادجیت حصہ سوم ۵۳۴ تا ۵۳۹ (بتجیریسیر)

مصنفہ قاضی مظہر حسین صاحب مدظلہ

لے مولانا حبیب الرحمن اعظمی صاحب نے رمضان المبارک ۱۳۲۳ھ داعی اجل کو لبیک کہا۔ انشاء اللہ الیراجون

میں گستاخی کی تھی تین کوڑے لگوائے حالانکہ وہ اپنے زمانہ خلافت میں کسی کو کوڑے مارنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ (تاریخ الخلفاء، ص ۱۶۱، صواعقِ محرقہ ص ۱۳۲)

آگے چل کر حضرت مولانا تحریر فرماتے ہیں: «حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرے شخص کو جس نے یرید کو امیر المؤمنین کے لقب سے یاد کیا تھا بیس کوڑے لگانے کا حکم دیا تھا۔ (تاریخ الخلفاء، صواعقِ محرقہ ص ۱۳۲-۱۳۳)

ماخوذ از الختم ص ۳۵

حضرت مولانا کی تحریر سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ اہل سنت و الجماعہ کے متفقہ فیصلے کے مطابق یرید فاسق تھا، نیز بجائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز یا سچوں خلیفہ راشد ہیں۔



ناظرین کو ذہنی انتشار پرانہ گی اور نواصب کی تلبیسات سے بچانے کے لئے اکابر اہل سنت علماء دیوبند رحمہم اللہ اجمعین کے فتاویٰ و تحقیقات، ان کے افکار و نظریات مدلل طریقے سے پیش کر دیئے گئے ہیں اگرچہ اس موضوع پر متعدد رسائل اور چھوٹی بڑی کتابیں یرید کی حمایت یا مخالفت میں شائع ہو چکی ہیں اور جب تک اس قسم کے فتنے دنیا میں باقی ہیں اس وقت تک یہ بحثیں چلتی رہیں گی۔ ہم نے تو اس سالہ کو محض اس غرض سے مرتب کیا ہے تاکہ جس شخص کو پہلے ہی سے اکابر دیوبند سے عقیدت و احترام کا تعلق ہے وہ ان بزرگوں کی تحریریں کو پڑھے اور پھر خالی الذہن ہو کر اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طالب ہو تو انشاء اللہ اس مسئلہ سے متعلق جو کچھ اقرب الی الحق ہے اللہ جل ذکرہ اس کے قلب پر وارد فرمادیں گے۔ رسالہ مذکورہ میں جن علمائے ربانیین کے رسائل و کتب اس مسئلے سے متعلق آپ نے ملاحظہ کئے ہیں ان کی تحریر و تقریر میں جہاں ٹھوس علمی مواد موجود ہوتا ہے وہاں ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی متلاشی حقیقت ایک مرتبہ ان کی بات پر سنجیدگی سے غور کرے تو بفضل خداوندی اس کی دستگیری غیب سے ہو جاتی ہے۔ آپ کو بے شمار واقعات اس قسم کے مل جائیں گے بلکہ ایسے حضرات بھی اس وقت موجود ہیں کہ جن کو جو کچھ حال ہوا وہ انہی ہستیوں کا فیضان اور انہی کا

مرہون منت ہے۔ پھر دل کی گہرائیوں سے ان بزرگوں کے لئے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ڈروں بلکہ بے شمار رحمتیں ان کی قبروں پر نازل فرمائے اور نور سے منور فرمائے کہ ان کی بدولت ہم کو حقائق کا ادراک ہوا۔ ہاتھ لگن کو آرسی کیا۔ ابھی ابھی آپ نے جو تحریریں پڑھی ہیں ان کو بار بار پڑھیں اور غور کریں تو آپ پر اس مسئلہ میں اعتدال کی راہ واضح ہو جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ کل برس ہر محشر خدا نخواستہ ہمیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صرف اس لئے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے کہ ہم نے دفاع صحابہ، حب صحابہ اور مدح صحابہ کو سپر بنا کر اہل بیت اطہار اور بالخصوص حضرات حسینؑ کی تنقیص اور تحقیر کی اور ان کے ساتھ زیادتیاں کرنے والوں، بالخصوص بزرید علیہ السلام، کو مرتبے کے اعتبار سے ان سے بالاتر کر دیا۔ کیا ایسا تم ڈھانے والے یہ خیال نہیں کرتے کہ تاجدارِ مدینہ آفائے نامدار، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس طرزِ عمل سے کتنی اذیت پہنچتی ہوگی۔ غور فرمائیے کہ اگر روافض حضرات شیخین و دیگر اصحابِ رسول اور ازواجِ طیبات و طہارت بالخصوص عقیقہ کائنات ام المؤمنین والمومنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی جناب میں لب کشائی کی جسارت کریں تو ہر باغیگِ رستی مسلمان کے نزدیک ان کا یہ تبرا اتنا عظیم جرم ہے کہ وہ قابلِ گردن زدنی ہیں۔ کوئی سنی مسلمان خواہ وہ کیسا ہی فاسق اور بے عمل کیونہ ہو ان کی اس حرکت کو برداشت نہیں کر سکتا فی الواقع ہے بھی یہی بات کیونکہ جب ہم اپنے والدین اور خاندان کے بزرگوں کے بارے کوئی لفظ توہین آمیز سننا سنا کر اہل بیت سے تو ازواجِ مطہرات سے بڑھ کر کونسی مائیں اور صحابہ سے بڑھ کر اور کون سے بزرگ ہو سکتے ہیں کہ جن کا حد درجہ احترام اور عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہئے۔ معلوم ہوا کہ درحقیقت بغض صحابہ اور عداوت صحابہ ہی کا دوسرا نام بغض رسول اور عداوت رسول ہے۔ صحابی سے کینہ رکھنے والا محبت رسول ہو ہی نہیں سکتا اور یہ مسئلہ کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، معمولی سمجھ رکھنے والا بھی تھوڑی سی غور و فکر کے بعد اس کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔

جب یہ بات ذہن نشین ہوگئی تو اب یہ معلوم کرنا بھی چنداں دشوار نہ ہوگا کہ روافض کے تمام تہذیبی کارروائیاں بلکہ پورے مذہبِ شیخ کا رکن اعظم ہی ناپاک سوچ ہے جس پر رخص اور شیعیت کی عمارت قائم ہوتی ہے، بالفاظِ دیگر اگر شیعہ کی اصل اربوٹ سے یہ منسک خارج ہو جائے تو چشمِ زدن میں یہ عمارت زمین لوس ہو جائے گی۔ آپ غور فرمائیں تو اس کا حال یہ ہے کہ دین اسلام کے عینی گواہ جو صحابہؓ ہی ہو سکتے ہیں ان کی عدالت و ثقاہت کو امت کی نظر میں مشکوک بنا دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب صحابہ کرام کسی شخص کی نظر میں قابلِ جرح ہو گئے، ان کا کردار دیانت و امانت جتنی کہ ان کا ایمان بھی معاذ اللہ مشکوک ہو گیا تو ساری شریعت اور دین پرستے اعتماد اٹھ ہو گیا۔ وهو المقصود (اور یہی ان کا مقصد بھی ہے)

عرض یہ کہ روافض نے صحابہؓ کی (معاذ اللہ) تکفیر کا راستہ اختیار کیا مگر اہل بیت کی محبت کا سہارا لیا جس سے وہ یثاثر دینا چاہتے ہیں کہ حاکمِ بدین صحابہ نقل مذہب میں عادل نہ تھے اور جو کوئی دین و شریعت کو حاصل کرنا چاہے تو اہل بیت سے حاصل کرے۔ درحقیقت اس فرقہ منفا نے امت

سے وہ چار کتا ہیں جو روافض کے ہاں سب سے زیادہ معتبر اور مستند خیال کی جاتی ہیں جیسے اہل سنت کے اہل صحابہ سے کا درجہ سے

مسلمہ کی بنیاد پر کاری ضرب لگائی۔

روض اور شیعیت سے ملتا جلتا دوسرا فتنہ نامیت کا ہے کہ جس نے روافض کی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت کا سہارا لیا اور رافضیت کے تدارک کے لئے علاج بالصدق کی صورت میں سامنے آیا، جس طرح روافض گمراہ صحابہ پر (معاذ اللہ) کبیر اچھا ل کر اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرتے ہیں اسی طرح اہل بیت کی شان میں ناخوشگوار زبان استعمال کر کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے اپنی بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں اس فرقہ فضائل سے بھی مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا اور ہیخ رہا ہے۔

مذکورہ بالا دونوں قسم کے فتنوں کے رد عمل کے طور پر ایک تیسرے فتنے نے جنم لیا، یہ خارجیت کا نامور ہے جس نے صحابہ و اہل بیت ہر دو کی حرمت کو پامال کیا جس سے امت کو بے حد نقصان ہوا اور مہر رہا ہے۔

آپ نے ابھی جس رسالے کا مطالعہ کیا ہے اس میں مقتدر اور جید علماء دیوبند کے ارشادات جو یزید کی شخصیت سے متعلق ہیں آپ نے لغو بڑھ لئے ہوں گے جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہو گا کہ حاشیاء یزید جس جوش و غروش سے یزید کی حمایت کا علم اٹھاتے پھرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے تئیں اکابرین دیوبند کی روحانی اولاد ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں تو: یزید کی پر زور حمایت کے ساتھ اپنے ان بلند بانگ دعوؤں میں کس حد تک سچے ہیں۔

يَتَوَكَّلُونَ بِالْأَوْحَاءِ هُمْ قَالَتِيسَى فِي قُلُوبِهِمْ

سر دست ہم نے ناصیوں کے تاریخ دان بلکہ (بقول ان کے) مجددین، تاریخ اسلام ریسرچ اسکالروں کی قلمی کھولنے کے لئے علماء و اسخین کی گرانقدر روزنی شہادتوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک صاحب بصیرت انسان کے لئے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ آیا یزید "ایمیر المؤمنین، صالح، متقی اور جنتی تھا" یا گمراہ اور فیصلہ آپ خود کیجئے۔ یزید علیہ مایستحقہ کا ذاتی کردار کچھ بھی رمل ہو ہمیں اس سے کچھ بحث نہیں، بحث تو اس میں ہے کہ کیا یزید اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو نہ صرف اہل بیت اطہار اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہم کے مقابلے پر لایا جائے بلکہ اس کا مقام ان سے بھی بالاتر کر دیا جائے۔

بہیں تفاوت رہ از کجا است تا بہ کجا

اگر حجت صحابہ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا تو حجت اہل بیت کے بغیر بھی ایمان کامل نہیں ہوتا خاص کر وہ اہل بیت جن کو اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ مشرف صحابیت بھی حاصل ہے اس اعتبار سے ان کو دوسری فضیلت حاصل ہے، پھر حجت صحابہ کی آڑ لے کر اہل بیت سے عداوت رکھنا اور یزید سے محبت کرنا بلکہ اس کا دفاع کرنا کس ایمان کے محتملات میں سے ہے۔ مزید برآں مجتہد یزید یہ بھی نہ بھولیں کہ احادیث مبارکہ کی کتب معتبرہ میں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں کہ جس میں کسی ایک صحابی نے بھی یزید کو صالح اور عادل قرار دیا ہو، کیا چودھری

لے یہ لوگ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتیں۔

صدی کے نواصب صحابہ کرامؓ سے زیادہ یزید کو قریب دیکھ رہے ہیں؟ اور کیا یزید سے ان کی شناسائی اصحاب رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بھی زیادہ ہے؟  
 ہو سکتا ہے کوئی گورباطن یہاں بھی منداور مہٹ دھرمی سے یہی کہے کہ اگر (نعوذ باللہ)  
 صحابہ کرامؓ یزید پر ایسی تاریخی ریسرچ کرتے جیسی میں نے کی ہے تو وہ بھی یزیدی مدح و ثنا  
 میں رطب اللسان ہو جاتے، تو یقیناً ایسے بد نصیب شخص کو آپ مسلوب العقول ہی کہیں گے۔  
 اس خیال است و مجال است و جنوں

اللہ رب العزت ہم سب ممانوں کو اس قسم کی ناپاک سوچ سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔  
 بہر حال عرض یہ کرنا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک حب صحابہؓ کی طرح حب اہل بیت بھی ایمان  
 کا جز ہے۔ نیز اہل بیت کی محبت کو حسن خاتمہ میں بہت بڑا دخل ہے، جیسا کہ حضرت محمد الفاضلؑ  
 فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا اپنے والد ماجد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اہل بیت کرامؓ کی محبت کو ایمان کی  
 حفاظت اور حسن خاتمہ میں بڑا دخل ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب والد صاحب کو سکرات شروع ہوئے  
 تو میں نے یہ بات آپ کو یاد دلائی، فسرایا الحمد للہ والمنة کہ میں اس محبت میں سرشار اور اس  
 دریائے احسان میں غرق ہوں۔

الہی بحق بنی فاطمہؑ نہ کہ بقول ایمان کنی خاتمہ (بحوالہ زبیر المقاتل)  
 حضرت محمدؐ علیہ الرحمہ کے والد بزرگوار سکرات کے عالم میں بھی فرما رہے ہیں کہ میں سرکارِ دو عالم  
 صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت و تعاقب کی برکات دم واپسین کے وقت بھی محسوس کر رہا ہوں  
 بطور مفہوم مخالفہ کے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ اہل بیت کی عظمت و محبت دل میں نہیں رکھتے  
 انہیں حسن خاتمہ کی دولت نصیب ہونا مشکل ہے جس کی بنیادی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ایسے  
 لوگوں کا ایمان ہر وقت خطرات کی زد میں ہوتا ہے بہ الفاظ دیگر ان کا ایمان غیر محفوظ ہے۔ یعنی  
 ممکن ہے کہ ایسے محروم قسمت لوگ عالم سکریات میں بھی امیر المؤمنین یزید زندہ باد کے نعش  
 لگاتے ہوئے رخصت ہوں (اعاذنا اللہ منھا) اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوئے خاتمہ سے اپنی پناہ میں  
 رکھے آمین۔

آخر میں تمام ناظرین کرامؓ کی خدمت میں بصد ادب و احترام عرض ہے کہ اس رسالے  
 کا مطالعہ کرتے وقت آپ اس حقیقت کو فراموش نہ کریں کہ جن بزرگ ہستیوں کے فتاویٰ و تحقیقات آج  
 ہماری نظروں کے سامنے ہیں یہ وہ فرشتہ صفت لوگ ہیں جن کے علم و تقویٰ، اخلاص و لہجہت میں  
 کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ دور جدید کے روشن خیال محققین سے یہ حضرات ان تمام تر  
 خوبیوں میں بدرجہا فائق اور ممتاز تھے۔ جب ہمیں علمائے دین میں سے کسی نہ کسی کی بات کو  
 تسلیم کرنا ہی ہے تو ان حضرات اکابرین دیوبندی تحقیقات اور فضیلتوں کو کیوں نہ مانا جائے جو  
 موجودہ دور کے ناصبی محققین سے ہر اعتبار سے بہتر تھے جبکہ یہ امر بھی مسلم ہے کہ ان ہستیوں نے یقیناً  
 اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا بلکہ جو کچھ بھی فرمایا دلائل واضح و براہین قاطعہ کی روشنی میں فرمایا،  
 لہ عقل سے کورا۔ دیوانہ

جس میں پوری پوری احتیاط سے کام لیا گیا ہے۔  
 اب اگر کوئی شخص جس نے بہتان بازی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا ہو یہی رٹ لگا سکتے  
 جاتے کہ ان بزرگوں نے تحقیق نہیں کی یا یہ حضرات تاریخ سے نا آشنا تھے تو اس سے بڑھ کر  
 عاقبت نا اندیش اور کون ہو سکتا ہے۔ درحقیقت اسلاف امت پر سے اعتماد اٹھانے  
 کی یہ گھناؤنی سازشیں ہر دور میں ہوتی آتی ہیں بہت سی ایسی تحریکیں جو بڑے پرکشش ناموں  
 اور انتہائی جذباتی نعروں کے ساتھ اٹھیں مگر چونکہ اکابرین اہل حق کی سرپرستی اور دعائیں  
 ان کے ساتھ نہیں تھیں اس لئے ان کے ذریعے کوئی خیر کا سلسلہ جاری نہ ہو سکا نہ ہی  
 اصلاح کا پہلو ان میں غالب رہا بلکہ یوں ہی افراط و تفریط کا شکار ہو کر ملیا میٹ  
 ہو گئیں۔ نہ صرف یہ کہ اس قسم کے لوگ خود ڈوبے بلکہ اچھے اچھوں کو اپنے ساتھ لے ڈوبے  
 من شدَّ شذیذ النار۔ اس کے برعکس جس اللہ کے بندے نے اسلاف و اکابرین کے  
 دامن سے خلوص نیت کے ساتھ وابستگی اختیار کی وہ نہ صرف خود بابراد ہوا بلکہ بہت  
 سوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا اور وہ ڈوبنے سے بچ گئے۔

ذی اجتہاد عالمان کم نظر  
 اقتدار بر فتنگان محفوظ تر

ہم بارگاہ رب العزت میں بصد عجز و نیاز دست برد عاہیں کہ حق تعالیٰ شانہ ہمیں  
 اہل حق علمائے دیوبند کے نقش قدم پر صحیح طور سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے دامن سے  
 حقیقی وابستگی ہم کو نصیب فرمائے، ہماری اس حقیر سی کوشش کو قبولیت کا شرف عطا  
 فرمائے دعاۃ ضلال اور فتنہ ملاحم سے ہماری حفاظت فرما کر ہم کو حسن خاتمہ کی دولت نصیب  
 فرمائے۔ آمین دعا از من و از جملہ جہان آمین باد۔

کثیر الذنوب والاثام

محمد ضیاء الحق غفرلہ ولوالدیہ

۲۵ محرم الحرام ۱۴۱۳ھ شہرہ شہرہ جمہ - ۱۶ جولائی ۱۹۹۳ء

لے جیسا کہ رسالہ مذکورہ کے گذشتہ اوراق سے ظاہر ہے۔ عیاں راجحہ بیان

## حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ

الحمد لله رب العالمين و الصلوة والسلام على سيد المرسلين و على ذريته و  
عترته و اهل بيته اجمعين -

حضور اقدس ﷺ کی محبت کا تقاضا ہے کہ جو جو انہیں محبوب تاہم بھی انہیں  
چاہیں اور ان سے پیار کریں۔ جن جن سے تعلق خاطر تاہم بھی ایک قلبی رابطہ ان سے  
موسس کریں اور ان کا ادب و احترام، ان کی تعظیم و توقیر جی کی گھرائیوں میں موسس  
کریں، اگر ہم ایسا موسس نہیں کرتے تو خود حضور ﷺ سے ہماری محبت میں نقص  
ہے اور ہزار ہم محبت رسول ہونے کا دعویٰ کریں، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ حُبِّ  
رسول ﷺ محض ایک فریبِ نفس ہے۔ محبوب کی ہر شے عزیز ہوتی ہے وہ لباس جو  
محبوب پہنتا ہے اور جس میں اس کی خوشبو بسی ہوتی ہے، جی کو بجا معلوم ہوتا ہے ایک  
ماشن لے کہا:

اے گل بتو خورِ سندم، تو بونے کے داری

"اے پھول تو اس لیے بجا معلوم ہوتا ہے کہ تجھ سے پار کی خوشبو آتی ہے۔"

اس گھر کے در و دیوار پر پیار آتا ہے، جس میں محبوب نے زندگی بسر کی ہو،

قیس مامری کہتا ہے:

امر علی الديار ديار ليلي

اقبل ذا الجنارو ذا الجنارا

و ماحب الديار شغفي قلبي

ولكن حب من سكن الديارا

"میں لیلیٰ کے گھروں کے پاس سے گزرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس

دیوار کو چومتا ہوں۔ کچھ ایسی بات نہیں کہ ان کے گھروں کے پتروں اور لہنٹوں پر میں

رہتا ہوں، نہیں یہ تو اس کی محبت کا تقاضا ہے جو ان گھروں میں رہتا تھا۔"

وہ راہیں جن سے پار گزرتا ہے ان راہوں پر پیار آتا ہے:

دہاں دہاں ابھی رقصاں ہے بونے عنبر و گل

جہاں جہاں سے ہنن میں بہاں گزری ہے



قیس ماری کہتا ہے:  
من آل لیلیٰ واین لیلیٰ

"لیلیٰ اب کہاں ہے، لیلیٰ کے بچوں کے چہروں میں لیلیٰ کی جھلک دیکھتا ہوں۔"  
یہ محبت کی عام واردات ہیں۔ محبت تو جہاں بھی ہوگی، اس کے برگ و بار یہی ہیں۔ ان کیفیتوں کا حال صحابہ کرامؓ سے پوچھو، آپ ﷺ کے وضو سے جو پانی بچ جاتا، صحابہؓ اس پر جھپٹ پڑتے۔ (صحیح بخاری کتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، نسائی، کتاب الطہارۃ باب الانتفاع بفضل الوضوء)

صحابہ اسے تیر کا اور تینا جسم پر ملتے تھے۔ آپ ﷺ کا لعاب مبارک صحابہ کرامؓ کے ہاتھوں پر گرتا تھا۔ آپ ﷺ حیات کرواتے تو ماحشوں کا آپ ﷺ کے گرد ہجوم ہوتا تھا اور آپ ﷺ کے بالوں کو سر سے اُترتے ہی اچک لیتے تھے، صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فی قرب النبیؐ)

صحابہ کرام علیہم الرضوانہ آپ ﷺ کی ان نشانیوں کو آخرت کا توشہ سمجھتے تھے اور مرنے کے بعد بھی اپنے آپ سے جدا کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضور اقدس ﷺ جب حضرت انسؓ کے گھر تشریف لائے تو ان کی والدہ آپ ﷺ کے پسینے کو ایک شیشی میں محفوظ کر لیتیں اور اپنے حطر میں ملا لیتی تھیں۔ حضرت انسؓ فوت ہونے لگے تو انھوں نے نصیحت کی کہ:

"میرے لاشے پر حنوط ملو تو اس میں حضور ﷺ کے پسینے میں بسا ہوا عطر بھی ملا لینا۔"  
(صحیح بخاری کتاب الاستیلاء)

حضرت معاویہؓ کے پاس آپ ﷺ کی ایک قمیص، ایک تہ بند، ایک چادر اور چند موئے مبارک تھے۔ انھوں نے وفات کے وقت وصیت کی کہ مجھے ان کپڑوں میں دفناؤ اور یہ موئے مبارک میرے ساتھ رکھو۔

ایک دن حضور ﷺ حضرت امّ سلیمؓ کے گھر تشریف لائے، گھر میں مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ آپ ﷺ نے اس کا دہانہ اپنے منہ سے لگا لیا اور پانی پیا۔ حضرت امّ سلیمؓ نے مشکیزے کا دہانہ کاٹ کر تبر کا اپنے پاس رکھ لیا تاکہ میرے آکا ﷺ کے مقدس ہونٹوں نے اس دہانے کو لمس کیا ہے۔ (طبقات ابن سعد)

ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ محبوب کی ہر شے عزیز ہوتی ہے، اس کی گلیاں عزیز، اس کا آستانہ عزیز، اس کا پیراہن عزیز، اس کی جوتیاں عزیز، اس کا گھرانہ عزیز اور اس کے خادم عزیز۔

پس اس ذاتِ اطہر و اقدس کی محبت کا ایک بدھی تقاضا ہے کہ اہل بیتؑ سے محبت ہو جیسا کہ خود رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: "احبونی لحب اللہ و احبوا اہل بیٹی لحنی۔" اللہ کی محبت کی بنا پر مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی بنا پر میرے گھرانے کے افراد سے محبت کرو۔" (ترمذی)

پھر گھرانا بھی وہ کہ خود خدا آخری صیغہ آسمانی میں ان سے خطاب کرتا ہے اور ان کی طہارت و پاکیزگی کا اعلان کرتا ہے:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ (الاحزاب: ۳۳)

"اے پیغمبر کے گھر والو! خدا کو تو بس یہی منظور ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی دور کر دے اور تمہیں ایسا پاک صاف کر دے جیسا کہ پاک صاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔"

وہ جن کی عظمت و عزت کا یہ عالم کہ قرآن مجید میں ان پر صلوة و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا جو جب یہ آیت نازل ہوئی:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ (الاحزاب: ۵۶)

"بلاشبہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔"

تو ایک صحابی نے آپ ﷺ سے دریافت کیا:

امرنا اللہ ان نصلی علیک یا رسول اللہ! فكيف نصلی علیک؟

"اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ ﷺ پر درود بھیجیں، آپ ﷺ ہمیں سکھائیں کہ ہم آپ ﷺ پر کیسے درود بھیجیں۔"

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا یوں کہو:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ (صحیح مسلم جلد اول)

وہ جن کے مجد و شرف کا یہ مقام کہ حجۃ الوداع کے خطبے میں کتاب اللہ کے ساتھ آپ نے ان کا ذکر کیا: "انا تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اہل بیٹی۔" میں تم میں دو گراں ہدر چیزیں چھوڑ چکا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے گھرانے کے افراد۔" (صحیح مسلم)

(۱۵) وہ جن کی فضیلت کعبہ کا دروازہ تمام کر آپ ﷺ نے یوں بیان فرمائی:

”الا ان مثل اهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا و من تخلف عنها هلك.“  
 ”دیکھو! میرے اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی سی ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو اس سے دور رہا ہلاک ہو گیا۔“ (مسند امام احمد عن ابن ذر)

وہ جن کے احترام کو ملحوظ رکھنے کے لیے آپ ﷺ نے نصیحت فرمائی:

”و لن يتفرقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما۔ (ترمذی)

”کتاب اللہ اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ وہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ پس خیال رکھنا کہ میرے بعد تم ان سے کیا سلوک کرتے ہو۔“ --- سیدنا شباب اہل الجنة رضی اللہ عنہما

بالخصوص حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے آپ کو ایک خاص قلبی تعلق تھا۔ ان کی پیدائش کے وقت خود حضور ﷺ نے ان کے کان میں اذان دی تھی اشہدان لا اله الا الله کی صدا ان کی روح میں اتاری تھی، اور اپنا ثواب مبارک ان کے دہن میں ڈالا تھا۔ آپ ﷺ انہیں چومتے تھے اور سینے سے لگا کر سمجھتے تھے۔ مسند امام احمد میں ہے: يضم اليه حسنا وحسينا -

وہ لوگ جنہیں رسول اللہ ﷺ کے انوار و برکات کی معرفت حاصل ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسی سعادتِ عظمیٰ ہے جو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے حصے میں آئی۔ بارگاہ رسالت میں جن کی محبوبیت کا یہ عالم کہ آپ ﷺ فرماتیں:

”هلان ابناي و ابنا بنتي، اللهم اني احبهما واحبهما واحب من يعجبهما۔“ (ترمذی)  
 ”حسن اور حسین، یہ میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے، اے اللہ! میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔“

وہ جن کے بارے میں آپ ﷺ فرماتیں: ”الحسن و الحسين سيدا شباب

اهل الجنة۔“ (ترمذی) ”حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔“

(۱) متن میں یونہی مذکور ہے، صحیح یہ ہے کہ حضرت ابو ذر نے کعبہ کا دروازہ تمام کر یہ حدیث مبارک روایت کی۔ (در السحابہ ص ۴۶۵)

وہ جن پر آپ کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔  
حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ سرخ قمیص پہنے ہوئے آئے اور چلتے ہوئے لکھڑا  
رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ منبر سے اترے اور دونوں کو گود میں اٹھایا اور فرمایا:  
صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، نظوت الی ہذین الصبیبن یمشیان  
و یعثران فلم اصبر حتی قطعت حدیثی و رفعتہما۔ (ترمذی، ابو داؤد، نسائی)

اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی تو ہیں، میں نے  
ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ چلتے ہوئے لکھڑا رہے ہیں تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور اپنی  
بات قطع کرتے ہوئے میں نے انہیں اٹھالیا۔

جب رسول اللہ ﷺ نے رطت فرمائی تو حضرت حسینؑ کی عمر پانچ برس اور  
بعض روایتوں کے مطابق سات برس تھی۔

البدایہ والنہایہ میں ہے: کان الصدیق ینکرہ ویعظمہ وکذلک عمر و عثمان۔  
"حضرت صدیق اکبرؓ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا احترام کرتے تھے اور ان کی تعظیم  
بجالاتے تھے اور یہی حال حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کا تھا۔"

یہ بیان حضرت حافظ ابن کثیرؒ کا ہے جو نہایت محتاط مورخ اور بلند پایہ محقق  
ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے محبت کرتے تھے بلکہ اس پانچ  
سات سال کے بچے کی تعظیم بجالاتے تھے۔

اسی طرح تمام صحابہ کرامؓ حضرت حسنؑ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا عاقبت  
درجہ احترام کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسنؑ سے  
ملے اور کہا کہ ذرا پیٹ کھولئے، جہاں حضرت سرور عالم ﷺ نے بوسہ دیا تھا وہیں میں  
بھی بوسہ دوں گا۔ انھوں نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور آپ نے وہیں بوسہ دیا۔ (احمد)  
ایک بار بہت سے لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاق سے حضرت امام  
حسین رضی اللہ عنہ آ گئے۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ کہنے لگے: "میں تمہیں  
بتاؤں کہ زمین پر رہنے والوں میں سے آج آسمان والوں کو کون سب سے زیادہ محبوب  
کہئے ہی جو جا رہا ہے۔"

صحابہ کرامؓ کو جو محبت اور عقیدت حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ سے تھی اس کا سرچشمہ وہی عشق اور والہانہ شیفنگی تھی جو صحابہ کرامؓ کو حضور ﷺ کی ذات گرامی سے تھی۔

اک بات اس میں پائی تھی شوخی یار کی

ہم نے بھی اپنی جان لڑا دی قہنا کے ساتھ

پس جس گھرانے کی محبوبیت کا یہ عالم ہو اس کی محبت اور یاد میں جو مجھ میں اور شائیں بسر ہو جائیں حاصلِ عمر رائیگاں ہیں۔ اُن کی مدح و توصیف میں جس ہر بھی زبانیں زمرہ پیرا ہوں، کم ہیں۔ اُن کی یاد، رُوح کی پاکیزگی اور دل کی طہارت کا سماں

ہے۔ ساتھیو! اپنے حرمِ دل میں جھانک کر دیکھو اگر اس دل میں اہل بیت کی محبت اور بالخصوص حسین بن فاطمہ رضی اللہ عنہما کی محبت نہیں پاتے ہو تو تم یقین کر لو کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تمہاری محبت بھی محض فریبِ نفس ہے، صحابہ کرامؓ کو دیکھو کہ آپ ﷺ کا پسینہ، آپ ﷺ کے وضو کا بھابھا پانی آپ ﷺ کے مٹوئے مبارک حتیٰ کہ آپ کا لُبابِ دہن بھی انہیں عزیز تھا۔ پھر آہ صد ہزار آہ و حرمان! اگر تم اپنے سینے کو حسین بن فاطمہ بنت محمد ﷺ کی محبت و عظمت سے خالی پاتے ہو، یہ بہت بڑی غروی ہے اور شقاوت۔ تم یقین کر لو کہ حضور ﷺ کی محبت اگر تمہارے رگ و پے میں اُتر جائے تو اُن کے ظلموں کے ظلموں کے ظلموں کا بھی ادب کرو۔

آہ! یہ کیسی لیلیت کی موت اور ایمان کی جانکنی ہے کہ بعض علماء صینِ منبرِ رسول ﷺ پر کھڑے ہو کر اس محبوبِ بارگاہِ رسالت ﷺ اس جگر گوشہ بتول کا ذکر حشراتِ آسمین لے میں کرتے ہیں۔ وہ گھرانہ جس سے تم نے فیض حاصل کیا وہ جن کی جوتیوں کے صدقے تمہیں ایمان و اسلام کی معرفت حاصل ہوئی، تم کو کیا ٹھنڈا کہ تم ان ہی کی عیب چینیاں کرتے ہو، پھر اس عیب چینی اور خردہ گیری کے لیے تمہیں رسول اللہ ﷺ کے منبر کے سوا کوئی جگہ نہیں ملتی۔ پھر تم اپنے لب و لہجہ کو تو دیکھو، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شرذبی الجوشن، یزید اور ابن زیاد نے اہل بیت کے خلاف مقدمے میں تمہیں اپنا وکیل بنا لیا ہے۔ حدیثِ قدسی ہے:

من عادی لی ولیاً فقد آذنته بالحرب۔" جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے  
میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔"  
حضرت امام حسینؑ کے ولی اللہ ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ وہ صحابی بھی تھے  
اور اہل بیت میں سے بھی تھے۔ وہ صرف صحابی ہی نہ تھے، جلیل القدر علماء صحابہ میں سے  
تھے۔ وہ صرف اہل بیت میں سے نہ تھے، محبوب بارگاہ رسالت تھے۔ پس حضرت  
حُصَیْن رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی ان کی تہقیر، ان کے بارے میں مٹے ادب  
سراسر موجبِ حمال ہے۔

از ظا خواہیم توفیقِ ادب

بے ادب محروم ماند از فضلِ رب

ماتھو! محض تمہارا جی بھلنے کے لیے یا تمہیں خوش کرنے کے لیے تو میں  
وخط نہیں کھتا ہوں۔ خدا محض اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے وخط کھنے کی توفیق دے۔  
تمہاری رنجش اور تمہاری خوشنودی سے کیا ہوتا ہے۔

از رد و از قبولِ تو فارغ شستہ ایم

اے آنکھ خوب ما کشای نہ رشتِ ما

وہ بیماریاں جو تم میں اور مجھ میں نہیں ہیں، میں ان پر بات کیوں کیوں کہ ایسا کرنا  
محض تصنیعِ اوقات ہوگا، وخط کھنے کا مقصد تو اصلاحِ حال ہے، کبھی مادہِ فاسد کے اخراج  
کے لیے جراحی کا عمل ناگزیر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نشتر لگتا ہے تو مریض کو تکلیف  
ہوتی ہے مگر یہ تکلیف بڑی سودمند ہے دوستو!

چمن میں تلخ نوائیِ صری گوارا کر

کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کارِ تریاقی

فبشر عباد اللہ یستمعون القول فیتبعوا احسنه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

ماخوذ از "محررت کی راہیں"

تالیف: سید ابو بکر غزنی